

LET'S STUDY URDU

AN INTRODUCTORY
COURSE

Includes

Audio DVD

ALI S. ASANI AND
SYED AKBAR HYDER



LANGUAGE

Let's Study Urdu **An Introductory Course**

Includes Audio DVD

Ali S. Asani and Syed Akbar Hyder

Let's Study Urdu: An Introductory Course is a comprehensive introduction to the Urdu language that draws on a range of real-life contexts, film songs, and popular Urdu poetry. It contains a variety of aural, oral, and written drills, which, used in combination with the accompanying audio materials, will help students master the language while keeping them entertained. Although intended primarily as a text for a first-year course in the language, *Let's Study Urdu* provides students of diverse backgrounds, including heritage speakers, the opportunity to enhance their competency in basic grammatical structures so that they can comfortably use the language in Urdu-speaking milieus in South Asia, the Middle East, Europe, and North America.

Ali S. Asani is Professor of the Practice of Indo-Muslim Languages and Cultures at Harvard University.

Syed Akbar Hyder is Associate Professor of Asian Studies and Islamic Studies at The University of Texas at Austin.

Cover photo: Michael Cramer

YALE UNIVERSITY PRESS
NEW HAVEN AND LONDON
YALEBOOKS

ISBN 978-0-300-17803-0



9 780300

LET'S STUDY URDU

AN INTRODUCTORY COURSE

AUDIO DVD

ALI S. ASANI AND SYED AKBAR HYDER



The audio files on this
disc are also available
at yalebooks.com/urdu.
ISBN 978-0-300-11400-3

© 2008 Yale University
PO Box 209040
New Haven CT 06520-9040
yalebooks.com/languages
All rights reserved

آئیے اردو پڑھیں

Let's Study Urdu

An Introductory Course

Ali S. Asani

Harvard University

and

Syed Akbar Hyder

University of Texas, Austin

Yale University Press

New Haven and London

Copyright © 2008 by Yale University

All rights reserved

This book may not be reproduced, in whole or part, including illustrations, in any form (beyond that copying permitted by Sections 107 and 108 of the U.S. Copyright Law and except by reviewers for the public press), without written permission from the publishers.

Publisher: Mary Jane Peluso

Development Editor: Brie Kluytenaar

Manuscript Editor: Noreen O'Connor-Abel

Production Editor: Ann-Marie Imbornoni

Production Controller: Karen Stickler

Marketing Manager: Timothy Shea

Cover Design: Mary Valencia

Cover Photograph: Michael Currier

Printed in the United States of America.

ISBN 978-0-300-11400-3 (pbk.: alk. paper)

Library of Congress Control Number: 2006939857

A catalogue record for this book is available from the British Library.

The paper in this book meets the guidelines for permanence and durability of the Committee on Production Guidelines for Book Longevity of the Council on Library Resources.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

اپنے محبوب کی خاطر تھا خدا کو منظور
ورنہ قرآن بھی اترتا بہ زبانِ اردو
اکبرالہ آبادی

In Memoriam

Annemarie Schimmel

(1922-2003)

who, during her lifetime, worked tirelessly to bring about a better appreciation
of Urdu literature and its culture

Contents

Introduction	xix
How to Use This Book: A Note for Teachers and Students	xxiv
Film Sources for Songs Cited in the Book	xxx
<u>Chapter 1</u>	
1.1 Word Order in the Urdu Sentence	1
1.2 Conjugation of Verb ہونا and Pronouns	2
1.3 Greetings and جی as Particle of Respect	7
1.4 Asking Questions	11
1.5 Urdu Postpositions and Definite and Indefinite Articles	14
1.6 Adjectives of Nationality	15
1.7 Introduction to Possessive Adjectives	17
1.8 Pronunciation Drill: Short and Long Vowels	19
1.9 گفتگو (Conversation)	20
1.10 Conversation Practice	21
1.11 Song: چھلیا میرا نام	21
1.12 Vocabulary	22
<u>Chapter 2</u>	
2.1 Demonstrative Pronouns and Adjectives	26
2.2 Cardinal Numbers 0-10	26

2.3 The Interrogative کون	27
2.4 The Postposition سے	27
2.5 Pronunciation Drill - Aspirations	33
2.6 گفتگو (Conversation)	33
2.7 Conversation Practice	34
2.8 Songs: آوارہ ہوں	35
میرا جوتا ہے جاپانی	35
2.9 Vocabulary	36

Chapter 3

3.1 Nouns: Gender and Plural	38
3.2 Attributive and Predicate Adjectives	42
3.3 Marked and Unmarked Adjectives	43
3.4 Cardinal Numbers: 11-20	45
Ordinal Numbers: 1-10	46
3.5 Pronunciation Drill: Perso-Arabic Sounds I	50
3.6 گفتگو (Conversation)	51
3.7 Conversation Practice	51
3.8 Songs: یہ دُنیا گول ہے	52
یہ دل دیوانہ ہے	52
3.9 Vocabulary	53

Chapter 4

4.1 Possessive Adjectives	56
---------------------------	----

4.2	Asking and Telling Age	62
4.3	Cardinal Numbers 21-30	64
4.4	Order in a Noun Phrase	65
4.5	Pronunciation Drills - Nasals	66
	Perso-Arabic Sounds II	67
4.6	گفتگو (Conversation)	68
4.7	Conversation Practice	68
4.8	Songs: میں پل دو پل کا شاعر ہوں	69
	یہ تینا، یہ کاجل، یہ زلفیں، یہ آنچل	69
	عمر تیری سولہ	70
4.9	Vocabulary	70
<u>Chapter 5</u>		
5.1	The Present Habitual Tense	73
5.2	The Present Habitual Negative	75
5.3	Times of the Day, Days of the Week, and	
	Other Time Phrases	80
5.4	The Particle کو with Temporal Words and Phrases	81
5.5	Review of Urdu Sentence Structure	82
5.6	The Verb چاہنا with Nouns and Verbs	85
5.7	Pronunciation Drill: Retroflexes	88
5.8	گفتگو (Conversation)	89
5.9	Conversation Practice	90

5.10 Songs: دل ہے کہ مانتا نہیں	90
یاد تیری جب آتی ہے	91
5.11 Vocabulary	91
<u>Chapter 6</u>	
6.1 Postpositions	96
6.2 The Oblique Case - Oblique Forms of Nouns	97
6.3 Oblique Forms of Demonstratives	100
6.4 Oblique Forms of Adjectives	101
6.5 Oblique Forms of Pronouns	102
6.6 Note on کا، کے، کی	103
6.7 The Interrogative کون and its Oblique Forms	105
6.8 Note on لئے کے	107
6.9 Pronunciation Drill: Aspirated, Perso-Arabic, and Retroflexive Sounds II	115
6.10 گفتگو (Conversation)	116
6.11 Conversation Practice	117
6.12 Songs: زندگی امتحان لیتی ہے	118
میرا دل بھی کتنا پاگل ہے	118
6.13 Vocabulary	119
<u>Chapter 7</u>	
7.1 Expressing Potentials with سکتا	122
7.2 نہیں with Compound Verbs	122

7.3 Further Uses of اور	123
7.4 The Present Continuous Tense	124
7.5 The Comparative	125
7.6 The Superlative	127
7.7 Persian Adjectival Elements	128
7.8 Expressing More or Less	130
7.9 Cardinal Numbers 31-40	132
7.10 Aggregatives	132
7.11 The Future Tense	134
7.12 Pronunciation Drill: Diphthongs	140
7.13 Response Drill	140
7.14 گفتگو (Conversation)	142
7.15 Conversation Practice	144
7.16 Songs: اچھا تو ہم چلتے ہیں	145
یاو آ رہی ہے	146
شام ڈھل رہی ہے	146
7.17 Vocabulary	146

Chapter 8

8.1 Formal Imperatives (with آپ)	150
8.2 Informal Imperatives (with تم)	151
8.3 Least Formal Imperatives (with تو)	152
8.4 Negative Imperatives	152

8.5 The Infinitive as Imperative	152
8.6 Use of مہربانی and ذرا with Imperatives	153
8.7 Further Uses of ہونا	155
8.8 The Past Participles of تھا -- ہونا	158
8.9 The Past Habitual Tense	160
8.10 The Past Continuous Tense	162
8.11 Cardinal Numbers 41-50	163
8.12 Pronunciation Drill: Doubling of Consonants	164
8.13 گفتگو (Conversation)	165
8.14 Conversation Practice	167
8.15 Songs: میری جان کچھ بھی کیجئے	168
سانسوں کی ضرورت ہے جیسے	168
آنکھوں میں آنکھوں میں	168
8.16 Vocabulary	169

Chapter 9

9.1 کو as a Temporal Marker	173
9.2 کو as a Direct Object Marker	174
9.3 کو as an Indirect Object Marker	176
9.4 کو in Verbal and Adjectival Constructions پسند --	178
9.5 کو in Infinitive + ہے Construction	180
9.6 Infinitive as the Subject	181
9.7 کو in چاہئے Constructions	182

9.8	کو with Abstract Possessions	186
9.9	Special Object Forms	188
9.10	Stem + کے / کر	190
9.11	Noun-Verb Agreement in Urdu	192
9.12	Cardinal Numbers 51-60	193
9.13	Expressing Time with the Enclitic کے / کر	194
9.14	گفتگو (Conversation)	198
9.15	Conversation Practice (1)	199
9.15	Conversation Practice (2)	199
9.16	Songs: تو چیز بڑی ہے مست مست	200
	او باغوں میں بہار ہے؟ (ہے)	201
	تم سے ملنے کی تمنا ہے	201
9.17	Vocabulary	202

Chapter 10

10.1	The Verb جانتا, "To Know"	204
10.2	معلوم ہونا Construction	206
10.3	The Verb آنا and Knowledge of Learned/Acquired Skills	209
10.4	The Verb پوچھنا, "To Ask"	211
10.5	The Verb ملتا with سے and کو	213
10.6	The Verb کہنا with سے and کو	215
10.7	Indefinite Pronouns and Adjectives	217
10.8	Fractions and Mass Measurements	220

10.9 Telling Time in Fractions	223
10.10 Cardinal Numbers 61-70	225
10.11 گفتگو (Conversation)	226
10.12 Conversation Practice	227
10.13 Songs: مجھے کچھ کہنا ہے	228
ایک پیار کا نغمہ ہے	229
10.14 Vocabulary	229

Chapter 11

11.1 The Interrogative کیسا	233
11.2 The Interrogative کتنا	234
11.3 Expressing "To Have"	235
11.4 The Possessive Adjective اپنا	240
11.5 The Reflexive Pronoun خود	242
11.6 Noun + والا	243
11.7 Adjective + والا	244
11.8 Postposition or Adverb + والا	244
11.9 Oblique Infinitive + والا	246
11.10 Cardinal Numbers 71-80	248
11.11 گفتگو (Conversation)	249
11.12 Conversation Practice	250

11.13 Songs: اچھا تو ہم چلتے ہیں	251
یہ دوستی ہم نہیں	252
میرے من کی گنگا	252

11.14 Vocabulary	253
------------------	-----

Chapter 12

12.1 Simple Past Tense	256
12.2 The Simple Past Tense of Intransitive Verbs	258
12.3 The Case of جانا "To Go"	260
12.4 The Case of ہونا "To Be, To Happen, To Become"	261
12.5 Relatives and Correlatives	265
12.6 The Particles بھی and ہی	270
12.7 The Interrogative کونسا	273
12.8 Repetition of Adjectives	273
12.9 Cardinal Numbers 81-90	276
12.10 گفتگو (Conversation)	276
12.11 Conversation Practice	279
12.12 Songs: اے میری زہرہ جبین تجھے معلوم نہیں	280
میرے سپنوں کی رانی کب آئیگی تو	281
عشق بنا کیا مرنا یارا	281
12.13 Vocabulary	282

Chapter 13

13.1 The Simple Past Tense of Transitive Verbs	286
--	-----

13.2	The Case of کرنا، دینا، لینا	288
13.3	Negating the Simple Past Tense	288
13.4	The Present Perfect Tense	292
13.5	The Past Perfect Tense	295
13.6	Cardinal Numbers 91-100	297
13.7	گفتگو (Conversation)	297
13.8	Conversation Practice	300
13.9	Songs: میرے گھر آئی ایک ننھی پری	300
	پیار ہوا اقرار ہوا ہے	301
13.10	Vocabulary	302
<u>Chapter 14</u>		
14.1	لگنا Constructions	305
14.2	Verb Stem + چکنا Construction	308
14.3	The Oblique Infinitive + دینا Construction	310
14.4	Compound Verbs	
	(A) Verb Stem + Aspect Indicators: لینا، دینا، چانا، پڑنا	
	بیٹھنا، ڈالنا	312
	(B) Verb Stem + پانا Construction	315
14.5	Introduction to the Subjunctive	318
14.6	گفتگو (Conversation)	323
14.7	Conversation Practice	326

14.8 Songs:	جب کوئی بات بگڑ جائے	326
	دُنیا کی سیر کر لو!	327
	کیا خوب لگتی ہو، بڑی سُندر دِکھتی ہو	327

14.9 Vocabulary	329
-----------------	-----

Chapter 15

15.1	Condition-Result Clauses with اگر and تو	332
15.2	Expressing Presumptions and Suppositions with the Verb ہونا	336
15.3	Expressing Compulsion with the Verb پڑنا	339
15.4	Passives	342
15.5	Passive Intransitive Verbs	346
15.6	تا as a Rhetorical Particle	350
15.7	گفتگو (Conversation)	351
15.8	Conversation Practice	355
15.9	Songs: تجھے دیکھا تو یہ جانا صنم	356
	کہو نا پیار ہے کہو نا پیار ہے	357
	زندہ باد، زندہ باد، اے محبت زندہ باد!	358
15.10	Vocabulary	359

Chapter 16

16.1 The "Izafa"	362
16.2 Some Common Uses of Present and Past Participles	366
16.3 Present Participle and رہنا Construction	371

16.4 Present Participle and جانا Construction	372
16.5 Present Participle in the Narration of the Past	374
16.6 Past Participle and کرنا Construction	375
16.7 The Uses of نہیں تو	377
16.8 Emphatic Negative Assertions	378
16.9 گفتگو (Conversation)	379
16.10 Conversation Practice	380
16.11 Songs: روتے ہوئے آتے ہیں سب	381
چلتے چلتے یوں ہی کوئی مل گیا تھا	382
آپ کی یاد آتی رہی رات بھر (غزل)	382
16.12 Vocabulary	383
<u>Reading Passages</u>	
Reading Passage One بر صغیر کے موسم	387
Reading Passage Two موسمی پیش گوئی	388
Reading Passage Three حیدر آباد وکن	389
Reading Passage Four آئے مسکرائیں	390
Reading Passage Five اکبر کا شاہی دستر خوان	393
Reading Passage Six ریڈیو سے	394
Reading Passage Seven اخبار سے	396
Note on the Calendar	396
Urdu-English Glossary	398
English-Urdu Glossary	441

Introduction

A member of the Indo-Aryan family of languages, Urdu is spoken by over 150 million people in many parts of the South Asian subcontinent. Designated the official language of Pakistan and one of the national languages of India, Urdu is also routinely spoken as a first or second language in South Asian diaspora communities in the Middle East, South and East Africa, Western Europe, North America, and Australia. In recent decades, Urdu has been glamorized by Bollywood, India's massive film industry, which routinely commissions prominent Urdu writers and poets to write scripts and compose song lyrics for the many movies it releases every year.

Urdu first emerged as a literary language in the fourteenth and fifteenth centuries when dialects of it (Gujri and Dakhani) were used in western and southern India for poetic compositions. In the late eighteenth century it received a special boost in northern India from the Mughal emperor Shah Alam II (r. 1759-1806), who had developed a special fondness for it. As the power base of the Mughal empire and the regional kingdoms that patronized Urdu eroded and finally gave way to British colonial rule over most of the subcontinent, Urdu writers adamantly sought new patrons. Whether in Hyderabad or in the Punjab, Urdu demonstrated marked resilience in the face of political upheavals.

Although Urdu has developed into a language with a great literary and cultural history, its spatial, temporal, and etymological origins are fraught with acute ambiguities, not to mention bitter controversies. The word *Urdu* itself is of Turkish origin and means "camp," most likely a reference to the surroundings of Delhi's Red Fort, at times referred to as *urdu-e mu'alla*, or

"exalted camp." For many centuries, the area around the Red Fort was an important center of power for Turko-Persian dynasties originating in Central Asia, including the illustrious Mughals. It accommodated various linguistic and cultural traditions, some of which were Persianate and others Indic. Toward the end of the eighteenth century, the hybrid language of this area came to be referred to as *zaban-e urdu-e mu'alla*, or "the language of the exalted camp." This expression appears to have been truncated over time and simply became Urdu, which then came to signify the vernacular or local language spoken around the Red Fort.

Notwithstanding the use of the term Urdu to designate a specific language, it is important to remember that as late as the nineteenth century, what we today refer to as Urdu was also known as Hindi, Hindavi, Gujri, Dakhani, or Rekhta ("mixed language"). Historically, the linguistic spectrum encompassed by the Urdu/Hindi/Hindavi/Gujri/Dakhani/Rekhta framework has not been a rigid one and the boundaries and definitions of these dialects have been relatively fluid. This wide spectrum not only incorporated Persian vocabulary and a few Persian grammatical elements (Persian being the official language at many courts in pre-colonial South Asia) but also embraced elements from vernacular or local languages such as Dakhani (spoken in the Deccan), Gujarati, Avadhi, Khari Boli, and Braj.

The emergence of more rigid definitions of what constitutes Urdu is largely a consequence of British colonial policies and the growth of religiously based nationalisms in the late nineteenth and early twentieth centuries. As a result, many aspects of culture that were common to both Hindus and Muslims, including language, came to be perceived exclusively through religious lenses. Many came to believe that Urdu, because it was written in the Perso-Arabic script, reflected an Islamic orientation. Thus, a language that had to that point been spoken by Hindus

and Muslims alike, and its script learned by all peoples regardless of their religious orientation, became inextricably linked to South Asian Muslim identity. Such a narrow association of the language with Islam alone overlooked two important facts: first, millions of South Asian Muslims did not speak Urdu, and second, many Hindus were counted among its greatest poets, writers, and devotees. In the eyes of the religious nationalists, Hindi, on the other hand, the language written in the Devanagari script and drawing vocabulary from Sanskrit, came to be identified with Hindus. Notwithstanding these narrow demarcations distinguishing Urdu from Hindi, Premchand, a renowned author who has been claimed by partisans on both sides of the Urdu/Hindi divide to be one of their own, declared: "In my view, Hindi and Urdu are one and the same language. When they have common verbs and subjects, there can be no doubt of their being one."

Many a writer in South Asia has continued to challenge the constraints that have been placed on these languages by freely mixing idioms. In response to the religious nuances that have come to surround both Hindi and Urdu, a handful of leaders (including Mahatma Gandhi) and writers (Sajjad Zaheer for instance), who were interested in fostering Hindu-Muslim unity, have promoted the use of the term "Hindustani" to refer to a mode of Urdu-Hindi defused of any religious charge. Unfortunately, the forces of communalism in contemporary South Asia have been so strong that this expression has failed to gain wide currency.

Although in many respects Urdu and Hindi are almost identical grammatically, in today's world Urdu is written in the Perso-Arabic script whereas Hindi is written in the Sanskrit-derived Devanagari script. Those persons and institutions who wish to focus on differences tend to identify Urdu more with the vocabulary of Persian and Arabic, and Hindi with vocabulary from

Sanskrit. We should remind ourselves that these distinctions between Urdu and Hindi are from certain perspectives quite arbitrary and the inexorable speculations as to what extent, if any, these languages differ from each other can continue endlessly to no avail.

This book attempts to steer a middle course in the Urdu-Hindi divide in that it uses, for the most part, words and expressions that are mutually intelligible to self-identified Urdu-Hindi speaking communities. In writing this book, we have become convinced more than ever that languages are open-ended networks. In a language such as Urdu, cultural and temporal variations pave the way for growth and development. Expressions that are commonplace in Hyderabad, India, might be seen as archaic and even quaint in Karachi, Pakistan. In an introductory book such as this, it is impossible to cover all the variations in the language. Nor is it possible to cover all the subtle lexical and grammatical nuances. Nevertheless, we hope that the course provides students with a strong enough foundation to pursue more advanced study. For those students who are interested in the highly Persianized form of Urdu that is commonly used in newspapers and journals, we have included sample reading passages at the end of the book.

Over the many years we have labored to produce this book, we have been deeply grateful to our wonderfully patient students for having tolerated earlier incarnations of the present work and for their invaluable suggestions. We also owe a special debt of gratitude to the following friends and colleagues who are responsible for many improvements in this book: Gaurav Shah, Aameek Ponda, Lata Parwani, Naseem Hines, Shafique Virani, Neelima Shukla-Bhatt, Amjad Alinani, Alex Keefe, Herman van Olphen, Shahnaz Hassan, Danielle Widmann, Sunil Sharma, Amy Bard, Azhar Abbas, Carla Petievich, Hussein Rashid, and Michael Currier. Special thanks to Bill

University of Texas, Austin, for carefully reading the entire manuscript and suggesting many corrections that have improved the book and to Bill Countie, Tony DiBartolo, and Margaret Keyes of Harvard's Media Production Center for their patience in recording the audio materials that accompany this course. This book would not have been possible without generous funding from the Consortium for Language Learning and Teaching and the enthusiastic support of the Consortium's executive director, Peter Patrikis.

In addition to dedicating this book to the late Annemarie Schimmel, we also wish to dedicate this work to our past, present, and future students with the hope that our efforts will inspire them to continue their study of Urdu and enable them to experience the trans-national and trans-temporal cultural traditions that Urdu embodies so well. We have given every consideration to first-time students of Urdu, that their experience of learning this language be both rewarding and enjoyable. We hope that those who use this book will come to appreciate a language that many consider the most romantic in the world.

How To Use This Book: A Note for Teachers and Students

The overall objective of *Let's Study Urdu* is to make students comfortable with reading, writing, and speaking Urdu in everyday contexts. Although the book may be used in a variety of instructional settings, it is specifically designed to fulfill the needs of a first-year (26 week) American college-level Urdu class that meets 4-5 times per week for fifty minutes per session. Depending on the speed with which students master the material, it is possible to extend the use of this book, particularly chapters 15 and 16, to the first semester of a second-year course. For each classroom session, we suggest that students spend at least an hour to an hour and a half outside of class reviewing the material and completing the relevant exercises. The book assumes that a teacher who is proficient in Urdu grammar and in reading, writing, and speaking the language is present in class to provide guidance for students. In our teaching experiences, we have noticed that the information from this book is communicated more effectively when students read assigned sections before coming to class. Keeping this in mind, the book is designed so that students can study much of the grammar explanations on their own as homework and devote the time they spend in the classroom to hearing and practicing the language. With this approach, the amount of time that the teacher needs to spend explaining grammar can be kept at a minimum, with classroom contact time being devoted to fostering interactive and learner-centered activities. The book is accompanied by an audio component that will help students develop their reading, speaking, and listening skills.

This book assumes that students have a working knowledge of the Urdu writing system and, as a result, it uses almost no transliteration. To attain mastery of the Urdu script, we recommend the companion volume to this book, *Let's Study Urdu: An Introduction to the Script* (New

Haven: Yale University Press, 2008).

Format

Each chapter is divided into several sections, with each section usually devoted to the introduction of a particular point of grammar or idiomatic construction. After a series of examples illustrating the relevant grammar, students are called upon to complete the relevant exercises, labelled as **Reading and Translation Drills** and **Substitutions**. These exercises are meant to reinforce the grammar that the student has learned in that section. While the **Reading and Translation Drills** stress reading and comprehension skills, the **Substitutions** emphasize writing skills as well as recall of vocabulary items. Some sections of the book include English to Urdu translation exercises that help students develop their writing skills and reinforce grammar and vocabulary. If the translation exercises are done orally, they can assist students in generating Urdu within limited contexts so as to improve speaking proficiency. The first eight chapters of the book also contain **Pronunciation Drills** that are designed to help students understand Urdu syllabification and develop greater competency in pronouncing retroflexive, dental, palatal, aspirated, and nasal sounds as well as those letters borrowed from Arabic and Persian languages. The penultimate components of each chapter are the contextual dialogues, گفتگو (Conversation) and **Conversation Practices**, which integrate vocabulary with the grammar units introduced in the various sections of the chapter. These dialogues also help in the development of reading and communication skills. As the book advances and students increase their command over grammar and vocabulary, the dialogues flow more naturally. The گفتگو (Conversation) sections of each chapter are connected to each other by a soap opera-like drama featuring two characters, Raj and Nargis, and their families. As the Raj-Nargis romance unfolds from chapter to chapter, students

are exposed to the language as it is spoken in a variety of everyday contexts. At the same time, the ongoing romance keeps them wondering and anticipating what will develop in the next chapter. These contextual dialogues are followed by popular **Songs**, taken for the most part from Bollywood, India's renowned film industry. Most of these songs, whether in excerpted form or in their entirety, are romantic in theme and their selection has been carefully keyed to the grammar sections. The rationale for this activity is fourfold: to develop aural comprehension skills, to appreciate certain flexibilities and nuances of Urdu grammar, to enhance pronunciation through singing, and to provide exposure to a very significant element of South Asian culture, whether in the Subcontinent or in the diaspora. We recommend that every class session devote at least 5 minutes to listening to and singing these songs. Students are not expected to totally comprehend the songs since they often require a knowledge of Urdu-Hindi prosody to which they have not been exposed. We recommend that after students have mastered a song, they watch a video clip of it from the Bollywood film in which it appears so as to be exposed to its visual context. To facilitate the identification of the films from which these songs are excerpted, we have included a list. We hope that the list will also be helpful for those who wish to locate the lyrics of the songs in their entirety from various websites on the Internet. Every chapter ends with a **Vocabulary** section that lists all new vocabulary items introduced in that unit. These vocabulary items are also found in the English-Urdu and Urdu-English glossaries that appear at the end of the book. After Chapter 16, the book contains several **Reading Passages** based on radio and television broadcasts, newspaper extracts, popular jokes, and recipes. The passages integrate major grammar points of the book and are designed to further strengthen reading and translation skills of culturally authentic language.

Suggested Teaching Strategies

Although the book provides plenty of mechanical and structured exercises and activities, teachers and students are encouraged to utilize the material in the book in an open-ended and creative manner. The **Reading and Translation Drills** are not only tailored to enhance reading and translation skills, but they may also be used effectively in dictation and aural comprehension exercises. They may also be creatively transformed into games. For example, the words composing one of the sentences included in the drills may be written individually on separate index cards to create a "jigsaw" puzzle that students need to solve by reproducing the original sentence with the various components in correct grammatical order. The **Substitutions**, a less controlled activity, may lead students to bring in new vocabulary words, an exercise that can be particularly effective when they are working in pairs. The **Translation** exercises may be written by students on the board in the classroom to assess grammar, idiomatic usage, spelling, and competency of the script. The گفتگو (Conversation) and **Conversation Practice** sections present students with basic situations which they can reproduce through role-playing activities that bring in new vocabulary words and grammar structures from previous chapters. They can form the basis of skits which can be presented "live" in class or recorded on video. Students may also be creative in developing scenarios based on vocabulary from the songs.

Many of these strategies lend themselves to group activities or students working in pairs to elicit numerous creative responses. The class can be divided into groups, with each group creating situations or exercises that expand upon the material that the students have encountered in class. Groups may also compete with each other on the basis of vocabulary acquisition and degrees of comprehension. Activities based on students working in groups or pairs should aim at

maximizing peer-facilitated learning that ensures in-depth mastery of the material.

Bibliography of Works Consulted

Barker, Muhammad Abd al-Rahman, et al. *Spoken Urdu: A Course in Urdu*. 3 vols. Ithaca: Spoken Language Services, 1990 [1987].

Barker, Muhammad Abd al-Rahman, et al. *An Urdu Newspaper Reader*. Ithaca: Spoken Language Services, 1986.

Bhatia, Tej. *A History of the Hindi-Hindustani Grammatical Tradition*. Leiden: E.J.Brill, 1987.

Bhatia, Tej, and Ashok Koul. *Colloquial Urdu*. London: Routledge, 2000.

Jain, Usha. *Introduction to Hindi Grammar*. Berkeley: Center for South and Southeast Asian Studies, University of California, 1995.

Kalsi, A. S., et al. *Modern Urdu Texts. Urdu Short Stories*. London: School of Oriental and African Studies, 1991.

Matthews, David J., and Mohammed Kasim. *Teach Yourself Urdu*. London: McGraw Hill/Contemporary Books, 2003.

Matthews, David J., and Christopher Shackle. *A Selection of Twentieth Century Urdu Verse*. London: School of Oriental and African Studies, 1991.

McGregor, R. S. *Outline of Hindi Grammar*. New Delhi: Oxford University Press, 1999.

Naim, C. M. *Introductory Urdu*. 2 vols. Chicago: South Asia Language and Area Center, University of Chicago, 1999.

Naim, C. M. *Readings in Urdu: Prose and Poetry*. Honolulu: East West Press, 1965.

Narang, Gopi Chand. *Readings in Urdu Literary Prose*. Madison: University of Wisconsin, South Asia Center, 1968.

Platts, J. *A Dictionary of Urdu, Classical Hindi, and English*. 1st Indian edition. Delhi:

Munshiram Manoharlal Publishers, [1930] reprint 1977.

Schmidt, Ruth Laila. *Urdu: An Essential Grammar*. London: Routledge, 1999.

Shackle, Christopher, and Rupert Snell. *Hindi and Urdu since 1800: A Common Reader*.

London: School of Oriental and African Studies, 1990.

Film Sources for Songs Cited in the Book

Chapter	Song	Film (Year)	Lyricist
1	چھلیا میرا نام	<i>Chaliya</i> (1960)	Qamar Jalalabadi
2	آوارہ ہوں	<i>Awara</i> (1951)	Shailendra
2	میرا جو تاج ہے چاہانی	<i>Shree 420</i> (1955)	Shailendra
3	یہ دنیا گول ہے	<i>Chaudhvin ka Chand</i> (1960)	Shakil Badayuni
3	یہ دل دیوانہ ہے	<i>Ishq par Zor Nahiiñ</i> (1970)	Anand Bakshi
4	میں پل دو پل کا شاعر ہوں	<i>Kabhi Kabhi</i> (1976)	Sahir Ludhianvi
4	یہ نینا، یہ کاجل، یہ زلفیں	<i>Dil Se Mile Dil</i> (1978)	Amit Khanna
4	عمر تیری سولہ	<i>Beqabu</i> (1996)	Rahat Indori
5	دل ہے کہ مانتا نہیں	<i>Dil hai ki mantaa nahiiñ</i> (1991)	Faiz Anwar
5	یاد تیری جب آتی ہے	Private recording: Gaurav Shah	
6	زندگی امتحان لیتی ہے	<i>Naseeb</i> (1981)	Anand Bakshi
6	میرا دل بھی کتنا پاگل ہے	<i>Saajan</i> (1991)	Sameer
7	لتھا تو ہم چلتے ہیں	<i>Aan milo sajna</i> (1970)	Anand Bakshi
7	یاد آ رہی ہے	<i>Love Story</i> (1981)	Anand Bakshi
7	شام ڈھل رہی ہے	Private recording: Gaurav Shah	
8	میری جان کچھ بھی کہیے	<i>Chhalia</i> (1960)	Qamar Jalalabadi
8	سانسوں کی ضرورت ہے جیسے	<i>Acashiqui</i> (1990)	Sameer
8	آنکھوں میں	Album recording Aryans	Jai Walia
9	تو چیز بڑی ہے مست مست	<i>Mohra</i> (1994)	Anand Bakshi

9	باغوں میں بہا رہے؟	<i>Aradhna</i> (1969)	Anand Bakshi
9	تم سے ملنے کی تمنا ہے	<i>Saaajan</i> (1991)	Sameer
10	مجھے کچھ کہنا ہے	<i>Bobby</i> (1973)	Anand Bakshi
10	ایک پیار کا نغمہ	<i>Shor</i> (1972)	Santosh Anand
11	اتھا تو ہم چلتے ہیں	<i>Aan milo saajnaa</i> (1970)	Anand Bakshi
11	یہ دوستی ہم نہیں توڑینگے	<i>Sholay</i> (1975)	Anand Bakshi
11	بول راوہا بول سگم ہوگا کہ نہیں	<i>Sangam</i> (1964)	Shailendra
12	اے میری زہرہ جییں	<i>Waqt</i> (1965)	Sahir Ludhyanvi
12	میرے سینوں کی رانی کب آئیگی	<i>Aradhana</i> (1969)	Anand Bakshi
12	عشق بنا کیا مرنا یاد	<i>Taal</i> (1999)	Anand Bakshi
13	میرے گھر آئی ایک منہی پری	<i>Kabhi Kabhi</i> (1976)	Sahir Ludhyanvi
13	پیار ہوا اقرار ہوا	<i>Shree 420</i> (1955)	Shailendra
14	جب کوئی بات بگڑ جائے	<i>Jurm</i> (1990)	Indeewar
14	دنیا کی میر کر لو	<i>Around the World in 80</i> (1967)	Shailendra
14	کیا خوب لگتی ہو، بڑی سندر دکھتی ہو	<i>Dharmatma</i> (1975)	Indeewar
15	تجھے دیکھا تو یہ جانا صنم	<i>Dilwale Dulhaniya</i> (1995)	Anand Bakshi
15	کہو نا پیار ہے کہو نا پیار ہے	<i>Kaho Naa Pyaar Hai</i> (2000)	Ibrahim Ashiq
15	زندہ باد، زندہ باد، اے محبت زندہ باد	<i>Mughal-e Azam</i> (1960)	Shakil Badayuni
16	روتے ہوئے آتے ہیں سب	<i>Muqaddar ka Sikandar</i> (1978)	Anjaan
16	چلتے چلتے یوں ہی کوئی مل گیا تھا	<i>Pakeezah</i> (1971)	Kaifi Azmi
16	آپ کی یاد آتی رہی رات بھر	<i>Gaman</i> (1979)	Makhdam
			Mohiuddin

Chapter 1

1.1 Word Order in the Urdu Sentence

In Urdu the normal word order in the simplest sentence, reading from right to left, is as follows:

2	1
Verb	Subject
ہوں	میں
I am	

Urdu sentences thus generally begin with the subject and end with the verb so that all other elements of the sentence fall between the subject and the verb.

3	2	1
Verb	Complement	Subject
ہوں	امریکن	میں
I am American.		

The complement can be a noun or an adjective:

3	2	1
Verb	Complement	Subject
ہوں	خوبصورت	میں
I am beautiful.		

When such a sentence is put in the negative, the verb can be replaced with the negative particle

نہیں which can mean either "no" or "not."

3	2	1
Negative Particle	Complement	Subject
نہیں	امریکن	میں

I am not American.

For a more emphatic tone, **نہیں** can be followed by the verb:

4	3	2	1
Verb	Negative Particle	Complement	Subject
ہوں	نہیں	امریکن	میں

I am not American.

For an even more emphatic tone, the negative particle **نہیں** can come after the verb:

4	3	2	1
Negative Particle	Verb	Complement	Subject
نہیں	ہوں	امریکن	میں

I am (definitely/certainly) not American.

1.2 Conjugation of Verb ہونا and Pronouns

The first Urdu verb we will conjugate is the most common verb: ہونا (to be).

Singular Forms

Translation	Conjugational Form	Pronoun
I am	ہوں	میں
You (least formal) are	ہے	تُو
You (informal) are	ہو	تُم
You (formal) are	ہیں	آپ

He/She/It is

ہے

وہ / یہ

Plural Forms

We are

ہیں

ہم

You are

ہو

تھم

You are

ہیں

آپ

They are

ہیں

وہ / یہ

میں is the most common first person pronoun, although some people use the first person plural pronoun ہم in contexts that require a first person singular pronoun. The use of ہم in place of میں is generally considered a mark of humility, though in some instances, under the influence of English idiom, the substitution is used to connote the "royal we." In several regions of North India, people use ہم in the میں context quite commonly.

میں امریکن ہوں۔

I am American.

ہم امریکن ہیں۔

I am American.

We are American.

تُو is the least formal of the second person pronouns and should not be used unless one is on intimate terms with the addressee or unless an insult is intended. It is commonly used to address young children and sometimes servants as well. Interestingly, تُو is used when addressing God. In some regions, this pronoun is also used to address one's mother.

تُو اچھا ہے۔

You are good.

تو is the common second person pronoun. It can be used in addressing one person or several persons who are younger than you or a person or persons with whom you are on fairly familiar terms. It is also frequently employed to address individuals of a lower social status than the speaker, e.g., servants, taxi drivers.

تو ہندوستانی ہو۔

You (singular) are Indian.

You (plural) are Indian.

آپ is the most polite and formal second person singular and plural form. When addressed to one person, آپ expresses respect. Thus, when you speak to a person for the first few times or when you address a person older than yourself, آپ should be used. In general آپ can be used for any person to whom you want to show respect. آپ is also used to express plurality, i.e. "you" (plural). On account of its use both for respect and plurality, the meaning of آپ is dependent on context. For example, the following sentence has two possible meanings:

آپ اسٹوڈنٹ (طالب علم) ہیں۔

You (respectful) are a student.

You are students.

Note: In highly formal speech آپ can sometimes be used as a third person pronoun of respect meaning "he or "she." This usage, which is even more formal and polite than the use of plural وہ / یہ (see below), is only used for persons accorded the highest degree of respect, such as religious personalities. Example:

آپ ایک بہت مشہور پروفیسر ہیں۔

He (highly honorific) is a very famous professor.

وہ / یہ when used as pronouns can be either singular or plural, meaning "he," "she," "it," or "they." Again, when used in a plural context, these pronouns can connote respect for a single individual:

وہ پروفیسر ہے۔

He is a professor.

وہ پروفیسر ہیں۔

He (respectful) is a professor.

They are professors.

The latter example is ambiguous because **وہ** can be used for a singular subject who is spoken of with respect or for a plural subject.

1.1 - 1.2 Reading and Translation Drill

۱۔ میں امریکن ہوں۔

تو امریکن ہے۔

تم امریکن ہو۔

آپ امریکن ہیں۔

۲۔ وہ ڈاکٹر ہے۔

ہم طالب علم ہیں۔

وہ پروفیسر ہیں۔

تو جاپانی ہے۔

۳۔ بابو ہندو ہے۔

شاد مسلمان ہے۔

مائیک عیسائی ہے۔

جین یہودی ہے۔
 بلیر سکھ ہے۔
 ۴۔ تام کروڑ مشہور ہے۔
 لتا مشہور نہیں۔
 تو سندر ہے۔
 آپ خوبصورت ہیں۔

Translate into Urdu:

1. He is Indian.
2. She is Pakistani.
3. They are Russian.
4. You (least formal) are not a student.
5. We are doctors.
6. Brooke Shields is very famous.
7. Anita is not famous.
8. Sean Connery is very handsome.
9. We are human.
10. He is not Christian. He is Hindu.

Fill in the blanks with the appropriate form of ہونا

۱۔ میں عیسائی _____ اور راج ہندو _____ ۲۔ ہم ہندوستانی _____ ۳۔ وہ ڈاکٹر _____ ۴۔ کرن
 اور رام بھی ڈاکٹر _____ ۵۔ تو مشہور _____ ۶۔ تم سندر _____ ۷۔ شیلہ اور پوجا بھی خوبصورت

1.3 Greetings and جی as Particle of Respect

Urdu does not have a uniform mode of greeting. The manner in which one person greets another is contingent upon a variety of factors: the age and gender of the two speakers, prior acquaintance or intimacy, their educational background, and the region in which they are located. At times, the perceived religious identity of the person who is being greeted may also play a part. As a result, the several forms of Urdu (and Hindi) greetings carry overtones of social status, regional identity, and religious affiliation. The following are a few commonly heard expressions:

1) آداب (literally, "respect") and آداب عرض (literally, "[my] respects are presented [to you])." These greetings, which are formal in tone, are religiously neutral in that they can be used between persons of different or identical religious affiliation. Depending on context, they may be said by a person of a younger age, or of an inferior social status, to an older person or one with a socially superior status. They are often accompanied by a gesture of respect in which the speaker moves his/her right hand to the forehead. Sometimes the gesture itself is used without any words and the act is called "آداب کرنا" or "سلام کرنا" ("presenting greetings"). If both greeters are of the same rank or not intimate with each other, the reply to these greetings is also آداب or آداب عرض. If there is a difference in rank or age, then the person with the superior rank or age may respond with a nod and the blessing "جیتے رہو" (literally, "may you live long"). For some people آداب and آداب عرض represent a formal and contrived set of greetings associated with the culture of nineteenth- and twentieth-century Urdu-speaking aristocracies of Delhi, Lucknow, and Hyderabad (India). Hence they choose not to use it as they feel it is outdated or old-fashioned. In contemporary Pakistan سلام علیکم ("salaam alaikum") and its

response سلام عليكم ("wa alaikum salaam") have come to replace آداب and عرض آداب as the standard formal greetings.

2) السلام عليكم (pronounced "as-salaam alaikum") or سلام عليكم ("salaam alaikum") is an Arabic greeting meaning "peace be upon [with] you." It is a common greeting between Muslims in South Asia and, indeed, all over the Muslim world. The reply to this greeting is و عليكم السلام ("wa alaikum as-salaam") or سلام عليكم ("wa alaikum salaam") "may peace be upon you as well." As mentioned above, this greeting has become prevalent in Pakistan, where in some ultra-conservative circles it has become a marker of Muslim religious identity. It is important to note, however, that notwithstanding the tendency in contemporary South Asia to politicize and polarize greetings along religious lines, historically this is not a greeting that was exclusively limited to Muslims. Hence, non-Muslims in some regions of South Asia and elsewhere still continue to use it when greeting their Muslim acquaintances and friends.

3) नमस्ते is commonly used all over India as a form of greeting. Some consider it to be a customary "Hindu" greeting, although a large number of non-Hindus in India use it as well when greeting their Hindu friends and neighbours. नमस्कार is a slightly more formal form of it. The reply to this greeting is the same: नमस्ते or नमस्कार. These greetings are all-purpose and cover a range of usages such as "good morning," "good afternoon," "good evening," and also "goodbye." The saying of नमस्ते is accompanied by a hand gesture: the greeter joins the palms of both hands in front of himself or herself.

4) هائی and هیلو "hello" and "hi" are informal greetings common among the "English-medium" educated and those who want a transreligious greeting which avoids any specific religious identification. In modern-day India, it is quite common to hear, especially in urban areas, the

greetings "hello" or "hi" at the beginning of a lengthy conversation that is entirely in Urdu/Hindi.

5) After the initial exchange of greetings, it is customary to inquire about health and well-being.

This inquiry may take place in an informal or formal manner depending on context. In more informal contexts, and perhaps becoming increasingly widespread under the influence of English forms, the phrases "آپ کیسے ہیں؟" or "تُم کیسے/کیسی ہو؟" (literally, "how are you?") are frequently used. Equally informal is the ubiquitous "کیا حال ہے؟" literally, "what is [your] condition/state?" This has the same nuance as the American slang "what's up?" Usual responses are: "میں ٹھیک ہوں" or "ہم ٹھیک ہیں" (literally, "I am fine"). A slightly more colloquial response uses the echo compound "میں ٹھیک ٹھاک ہوں"

6) The etiquette of formal Urdu speech requires the use of polite and even ceremonious language. For this reason, the question "مزاج شریف؟" (مزاج = disposition, temperament; شریف = noble; literally, "[your] noble disposition?") is frequently employed. Again, etiquette of formal Urdu dictates that the reply should be modest, simple, and even humble so that one does not actually say how one is. Thus, the typical response to "مزاج شریف؟" is "مہربانی" "thank you" (literally, "kindness, kind of you to ask"). One may also use "شکریہ" which also means "thank you" as a reply. Sometimes variant expressions such as "بھگوان کی کرپا ہے" or "خُدا کی مہربانی ہے" (literally, "there is God's kindness/mercy (God = بھگوان (Hindu) or خُدا (Muslim); kindness = کرپا" i.e. thanks be to God) or "آپ کی دُعا ہے" (دُعا = prayers, "I am fine thanks] to your prayers") may also be heard.

7) The asking of names can also be informal or formal. The informal "آپ کا نام کیا ہے؟" ("What is your name?") is most commonly heard. In formal contexts, polite and respectful phrases are employed: "آپ کا شُھ نام کیا ہے؟" or "آپ کا اسم شریف کیا ہے؟"

(literally, "What is your noble (شریف) name?" or "What is your auspicious (شُھ) name?").

Humility and modesty require the response to begin: "میرا نام----- ہے" (literally, "My name is").

8) Before taking leave of a person, one may formally or politely ask: "اجازت دیجئے" (literally, "please give permission [to leave]"). Just as there is no uniform greeting when two Urdu speakers meet, there are no consistent words of parting, either. Traditionally "خُدا حافظ" (literally, "God be your protector, God keep you") has been the standard form for saying "goodbye" among Urdu speakers, regardless of religious affiliation. With the unfortunate growth of religious nationalism, these words of parting have been associated by some to a Muslim identity. Consequently they will use either "پھر ملینگے" ("we'll meet again") or "بائی" ("bye"). On the other hand, some Muslims feel that "خُدا حافظ" is not a strong enough "Islamic" greeting, since they consider the word "خُدا" to refer to "god" with a small "g." Hence they prefer to use "اللہ حافظ" ("may Allah be your protector/ keep you"). As a result of right-wing religious influences, "اللہ حافظ" has become ubiquitous throughout Pakistan. In contrast, Muslim and non-Muslim Urdu speakers in India continue to use "خُدا حافظ."

9) The particle جی can be attached to ہاں (yes) or نہیں (no) to indicate respect for the person whom one is addressing. At times, the use of this particle by itself suggests affirmation of the validity of a statement or command:

یہ طالب علم ہے؟

Is he a student?

جی ہاں یہ اسٹوڈنٹ ہے۔

Yes, he is a student.

جی نہیں۔

No, he is not.

جی۔

Yes, he is.

جی can also be added as a suffix to nouns or proper names as a mark of respect, e.g., گاندھی جی

"Gandhijii," or باپو جی "Baapuujii, father," or ماما جی "Maataajii, mother."

1.4 Asking Questions

There are several ways of asking questions in Urdu:

1. *With a questioning intonation:*

آپ امریکن ہیں؟

Are you American?

With this option no interrogative word is used and the questioning intonation consists of a slight rise in tone when pronouncing the complement. In this example the complement is the noun "American"; hence the intonation will rise slightly when the speaker pronounces this word.

2. *With the interrogative word کیا at the beginning of the question:*

کیا، آپ امریکن ہیں؟

Are you American?

This is the simplest way of turning a statement into a question. Most questions that begin with کیا can be answered with either "yes" or "no"; hence this type of question is commonly called a yes-or-no question.

3. *With the interrogative word کیا at the end of the statement:*

آپ امریکن ہیں، کیا؟

You are American, aren't you?

There is an implication in this question that the questioner already knows the answer and is trying to confirm it.

4. *With the interrogative word or words immediately before the verb:*

آپ کیا ہیں؟

What are you?

Note that although the literal meaning of کیا is "what," it cannot always be translated into idiomatic English. Only the کیا in example no. 4 can be translated into English as "what."

Sometimes کیا may also have an idiomatic meaning in Urdu that is not readily apparent in the literal English translation. Thus, the sentence in no. 4 above could, depending on the tone and intonation of voice with which it was said, be a rhetorical question "What are you?" or "Who are you?" implying that "you are nothing." Awareness of such nuances develops gradually through familiarity with the language and its cultural contexts..

5. *With the use of کہاں*

کہاں like کیا is another interrogative word. It means "where." Like کیا it usually comes right before the verb:

وہ کہاں ہے؟

Where is he?

1.3 - 1.4 Reading and Translation Drill

- ۱۔ آپ ہندوستانی ہیں؟
جی نہیں میں امریکن ہوں۔
کیا، وہ بھی امریکن ہیں؟

جی ہاں وہ بھی امریکن ہیں۔

۲۔ کیا وہ مشہور ہیں؟

جی ہاں وہ مشہور ہیں۔

وہ ایلیز بیتھ ٹیلر ہیں۔

نہیں! وہ سندر نہیں!

۳۔ کیا آپ پروفیسر ہیں؟

جی ہاں میں پروفیسر ہوں۔

وہ طالب علم نہیں۔

کیا، ہندو اور مسلم انسان نہیں؟

۴۔ وہ بہت مشہور ہے، کیا؟

نہیں نہیں ہم مشہور ہیں۔

تم کیا ہو؟

میں انسان ہوں۔

۵۔ پروفیسر جی کہاں ہیں؟

وائیٹ ہاؤس کہاں ہے؟

تاج محل کہاں ہے؟

ماتا جی کہاں ہیں؟

Translate into Urdu:

1. Are they students?
2. No, they are professors.
3. Where am I?
4. Is Nargis beautiful?

5. Yes, she is beautiful.
6. Yes, she is intelligent, too.
7. Where is Amit?

1.5 Urdu Postpositions and Definite and Indefinite Articles

I am at Harvard.

The word "at" in the above sentence is a preposition. It is called a preposition because it comes before the locative noun, Harvard. Unlike English, Urdu does not have prepositions. It has instead postpositions. In other words, the equivalent of "in" or "at" in Urdu (میں) will follow the locative noun and not precede it:

verb	postposition	locative noun	subject
ہوں	میں	ہارورڈ	میں

میں گھر میں ہوں۔

I am in/at the house.

میں کالج میں ہوں۔

I am in/at college.

Note in the previous examples, the Urdu equivalents of the English articles "a," "an," and "the" are missing. This is because Urdu does not possess distinctive definite and indefinite articles.

Thus گھر can be translated as "a house" or "the house." One way of emphasizing the indefinite nature of گھر is by placing the numerical adjective for one "ایک" before it:

ایک گھر a house or one house

میں ایک کالج میں ہوں۔ I am in a college.

1.6 Adjectives of Nationality

Many adjectives of nationality can be formed by adding "ی" to the country's name:

جاپانی	=	ی	+	جاپان Japan
روسی	=	ی	+	روس Russia
ہندوستانی	=	ی	+	ہندوستان India
پاکستانی	=	ی	+	پاکستان Pakistan
بنگلہ دیشی	=	ی	+	بنگلہ دیش Bangladesh
چینی	=	ی	+	چین China
ایرانی	=	ی	+	ایران Iran

Two important adjectives do not follow this pattern:

امریکی	America
انگلستان	England

Note: "Britain" can also be used to refer to United Kingdom. The adjectives **انگلستانی** and **انگریزی** refer to English as an attributive adjective rather than as an adjective of nationality. Thus:

یہ پتلون انگلستانی ہے۔ These pants are English

1.5 - 1.6 Reading and Translation Drill

- ۱۔ کیا، آپ ہارورڈ میں ہیں؟
جی نہیں۔ میں ایم۔ آئی۔ ٹی میں ہوں۔
ایم۔ آئی۔ ٹی کہاں ہے؟
ایم۔ آئی۔ ٹی کیمبرج میں ہے۔
- ۲۔ وہ لندن میں ہے۔

- لندن بہت خوبصورت ہے۔
 کیا، لندن فرانس میں ہے؟
 جی نہیں۔ لندن برطانیہ میں ہے۔
 وہ بھی دفتر میں ہے۔ ۳-
 کیا، آپ بھی ایک دفتر میں ہیں؟
 ہم دفتر میں نہیں ہیں۔
 جناب! آپ کہاں ہیں؟
 وہ ایرانی ہے۔ ۴-
 نہیں، وہ ایرانی نہیں۔ ہندوستانی ہے۔
 کیا، آپ بھی ہندوستانی ہیں؟
 نہیں صاحب۔ میں روسی ہوں۔

Translate into Urdu:

1. Where is New York?
2. New York is in America.
3. Is America beautiful?
4. No, America is not beautiful. Canada is beautiful.
5. Where are you (informal)?
6. I am in a (one) house.
7. Where is Lisa? She is at the university.
8. Are Raj and Nargis in the house?
9. Yes, they are in the house.
10. Where is Harlem? Is Harlem in New York?

1.7 Introduction to Possessive Adjectives

In this section, we will introduce only three possessive adjectives. A more detailed discussion and the grammatical construction of these adjectives will be included later. Possessive adjectives in Urdu, as in English, come before the nouns they modify.

Verb	Complement	Noun	Possessive Adjective
ہے	علی	نام	میرا

My name is Ali.

The three possessive adjectives introduced in this section are:

My = میرا

Your (formal) = آپ کا / آپکا

His/her (formal) or their = اُن کا / اُنکا

1.7 Reading and Translation Drill

- ۱۔ اُن کا نام ولیم ہے۔
آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام علی ہے۔
آپ کا نام خوبصورت ہے۔
- ۲۔ میرا گھر نیو یارک میں ہے۔
آپ کا گھر کہاں ہے؟
میرا گھر بھی نیو یارک میں ہے۔
کیا، اُن کا گھر بھی نیو یارک میں ہے؟

۳۔ آپ کا کام کیا ہے؟

میں ڈاکٹر ہوں۔

اُن کا کام کیا ہے؟

وہ بھی ڈاکٹر ہیں۔

۴۔ آپ کا کام کہاں ہے؟

میرا کام بوسٹن میں ہے۔

بوسٹن کہاں ہے؟

بوسٹن امریکہ میں ہے۔

Translate into Urdu:

1. His name is Amit. He is American.
2. Her name is Devi. She is Indian.
3. Their house is in Pakistan.
4. Are they Pakistani? No, they are definitely not Pakistani.
5. What is their work?
6. They are all students. They are Iranian.
7. Your house is beautiful.
8. It's your house.
9. Where is Dacca? Dacca is in Bangladesh.
10. She too is Sikh. She is a professor at Panjab (پنجاب) University.

1.8 Pronunciation Drill: Short and Long Vowels

Column 2		Column 1	
میت	مِیت	آب	اب
چیت	چِیت	کاب	کب
ریت	رِیت	کام	کم
میٹ	مِیٹ	رام	رم
جھم	جِہم	ریم	رِم
سمرن	سِمرن	روم	رُوم
بو	بِو	دام	دَم
مونا	مِونا	تاب	تَب
موسیٰ *	مِوسم	تان	تَن
مسجد	مِصالحہ	ران	رَن
مالک	مِلک	جام	جَم
مالی	مِندِر	مات	مَت
سالن	مِالن	رات	رَت
صفا	دِوا	ساجن	سَجَن
طاب	تِاب	مسافر	سَفَر
رابط	ثِابت	صفائی	سَفِید
الم	عِلم	آم	عَام

*The vertical line above the letter "ye" is a sign for a special letter, "*alif maqsura*," which occurs occasionally in certain words of Arabic origin. It is pronounced as "aa." The "ye" functions simply as a carrier and is not pronounced. Hence the last syllable in this word would be

pronounced "saa." Other examples are: عیسیٰ "iisaa," = Christ; ادنیٰ "adnaa," = lowly; فتویٰ = "fatwaa," = legal opinion based on Muslim jurisprudence.

1.9 گفتگو (Conversation)

- نرگس: آداب عرض جناب۔
- راج: نمستے، مزاج شریف؟
- نرگس: مہربانی، کیا حال ہے؟
- راج: سب ٹھیک ہے۔ آپ کا شمعہ نام؟
- نرگس: میرا نام نرگس ہے۔ آپ کا اسم شریف کیا ہے؟
- راج: میرا نام راج ہے۔ کیا، آپ امریکن ہیں؟
- نرگس: جی ہاں۔ میں امریکن ہوں۔ کیا، آپ بھی امریکن ہیں؟
- راج: نہیں۔ نہیں۔ میں ہندوستانی ہوں۔ آپ کا کام امریکہ میں کیا ہے؟
- نرگس: میں امریکہ میں ڈاکٹر ہوں۔ اور آپ؟
- راج: میں اسٹوڈنٹ ہوں۔
- نرگس: اچھا۔ آپ کہاں اسٹوڈنٹ ہیں؟
- راج: میں ہارورڈ میں اسٹوڈنٹ ہوں۔
- نرگس: ہارورڈ میں؟! کیا، آپ کا گھر کیمرج* میں ہے؟
- راج: نہیں۔ میرا گھر سمرویل** میں ہے۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟
- نرگس: میرا گھر کرکلنڈ اسٹریٹ*** پر ہے۔ اچھا۔ اجازت دیجئے۔ پھر ملیں گے۔
- راج: خدا حافظ۔
- نرگس: خدا حافظ۔

* Cambridge

** Somerville

*** Kirkland Street

1.10 Conversation Practice

Amit: Hello, Sheila, how are you?

Sheila: Fine, thanks. Are you Indian?

Amit: No. I am American. I am a student at Harvard. Are you American?

Sheila: No. I am Japanese. My house is in Tokyo.

Amit: Tokyo! Tokyo is very beautiful. Where is your house in Tokyo?

Sheila: My house is on Hito Street.

Amit: What is your job in Tokyo?

Sheila: I am a professor in Tokyo. I am at Tokyo University.

Amit: Good! We'll meet again. Goodbye.

Sheila: Goodbye.

1.11 Song

چھلایا میرا نام۔
چھلنا میرا کام۔
ہندو، مسلمان، سیکھ، عیسائی
سب کو میرا سلام۔

Glossary for Song

چھلنا = to cheat, to deceive

سب کو = to everyone, to all

سلام = greetings

1.12 Vocabulary

Note: The gender of nouns is indicated in parentheses: m - masculine; f - feminine

again, then	پھر
all	سب
also, too	بھی
America (m)	امریکہ
American	امریکن، امریکی
and	اور
Bangladesh (m)	بنگلہ دیش
beautiful	خوبصورت / سُندر
Britain	برطانیہ
China (m)	چین
Chinese	چینی
Christian	عیسائی
condition, state (m)	حال
Dacca (m)	ڈھاکہ
disposition, health (m)	مزاج
how are you? (formal)	مزاج شریف؟
(lit. your noble disposition?)	
doctor (m/f)	ڈاکٹر
England (m)	انگلستان

English (nationality)	انگریز
English (adj)	انگلستانی، انگریزی
English (the language)	انگریزی
famous	مشہور
fine	ٹھیک
gentleman, sir, mister	صاحب، جناب
give permission to leave (got to run)	اجازت دیجئے
good; all right; o.k.	اچھا
goodbye (lit. God be your protector)	خدا حافظ
greetings/hello/hi	آداب عرض، آداب، نمستے
to a Muslim (reply in parentheses)	سلام علیکم (وعلیکم سلام)
he/she	وہ، یہ
his/her (formal)	اُن کا/اُنکا
Hindu	ہندو
house (m)	گھر، مکان
human being (m)	انسان
I	میں
my; mine	میرا
in	میں

India (m)	ہندوستان / بھارت
Indian	ہندوستانی
intelligent, clever	ہوشیار
Iran (m)	ایران
Iranian	ایرانی
Japan (m)	جاپان
Japanese	جاپانی
Jew	یہودی
Muslim	مسلم، مسلمان
name (m)	نام
auspicious name (m)	خوش نام
(formal Hindi)	
noble name (m)	اسم شریف
(formal Urdu)	
no, not	جی نہیں، نہیں
noble, honorable	شریف
office (m)	دفتر
on	پر
Pakistan (m)	پاکستان
Pakistani	پاکستانی
Russia (m)	روس
Russian	روسی

see you soon (lit. we will meet again)	پھر ملینگے
Sikh	سکھ
student (m/f)	طالب علم، اسٹوڈنٹ، چھاتر (ہندی)
thanks (m)	شکریہ
thanks (lit. kindness) (f)	مہربانی
they	وہ، یہ
their	اُن کا / اُنکا
university (f)	یونیورسٹی
very; many	بہت
we	ہم
what; also interrogative particle	کیا
where	کہاں
work/job (m)	کام
yes	جی ہاں، ہاں
you -- least formal	تُو
informal	تُم
formal	آپ
your (formal)	آپ کا / آپکا

Chapter 2

2.1 Demonstrative Pronouns and Adjectives

یہ and وہ function as both demonstrative pronouns and adjectives. As demonstrative pronouns they signify, respectively, "this/these" or "that/those," their meaning depending on context. In this chapter, they are used only in their singular form. Examples:

This is a boy. - یہ لڑکا ہے۔

That is a girl. - وہ لڑکی ہے۔

This is a house. - یہ گھر ہے۔

That is a shoe. - وہ جوتا ہے۔

As demonstrative adjectives, یہ and وہ modify both singular and plural nouns and also mean "this/these" or "that/those." They are placed directly before the noun they modify. In this chapter, they will be used only with singular nouns. Examples:

This boy. - یہ لڑکا۔

That girl. - وہ لڑکی۔

This house. - یہ گھر۔

That shoe. - وہ جوتا۔

2.2 Cardinal Numbers 0-10

Urdu numerals are written from left to right in their number form, just as the English ones are.

So 45 in Urdu is ۴۵. In this section we will begin with the first ten numbers.

صفر

•

0

ایک	۱	1
دو	۲	2
تین	۳	3
چار	۴	4
پانچ	۵	5
چھ	۶	6
سات	۷	7
آٹھ	۸	8
نو	۹	9
دس	۱۰	10

2.3 The Interrogative کون

کون is an interrogative meaning who/which. Like the other interrogative words that we have encountered so far (کہاں، کیا), the preferred position of کون is right before the verb.

راج کون ہے؟

Who is Raj?

وہ لڑکا کون ہے؟

Who is that boy?

If کون is the subject of the sentence, then it is placed at the beginning of a sentence.

کون ہے؟

Who is it?

2.4 The Postposition سے

سے in Urdu can be translated as "from" or "since." When appearing with an interrogative word,

سے appears after it. Like میں, سے is a postposition and occurs after the noun or interrogative it qualifies. An interrogative that frequently uses the postposition سے is کب or "when." سے کب is thus "since when."

وہ کہاں سے ہے؟

Where is he from?

وہ یہاں کب سے ہے؟

Since when has she been here?

وہ وہاں دو سال سے ہے۔

He has been there since (lit. for) two years.

سے may also be used after locatives such as "here" and "there."

here = یہاں

from here = یہاں سے

there = وہاں

from there = وہاں سے

میرا گھر یہاں سے دور ہے۔

My house is far from here.

اُن کا گھر یہاں سے نزدیک ہے۔

His/Their house is near [from] here.

Note also the following idiomatic usage:

far from x = x سے دور

close to x = x سے نزدیک

2.1 - 2.4 Reading and Translation Drill

- ۱۔ یہ گھر ہے۔
یہ گھوڑا ہے۔
وہ چیز ہے۔
وہ طالب علم ہے۔
- ۲۔ یہ گھر لال ہے۔
وہ طالب علم سکھ ہے۔
وہ چیز کہاں ہے؟
یہ ٹوپی بہت خوبصورت ہے۔
- ۳۔ کلنٹن کون ہے؟
پاکستانی صدر کون ہے؟
وہ کون ہے؟
وہ علی ہے۔
- ۴۔ جون کہاں سے ہے؟
جون ٹیکساس سے ہے۔
ٹیکساس کہاں ہے؟
ٹیکساس امریکہ میں ہے۔
- ۵۔ کیا، وہ بھی ٹیکساس سے ہے؟
جی ہاں، وہ بھی ٹیکساس سے ہے۔
وہ ٹیکساس میں کہاں سے ہے؟
وہ ٹیکساس میں ہیوسٹن سے ہے۔
- ۶۔ میرا گھر یہاں سے دور ہے۔

- کیا، اُن کا گھر بھی یہاں سے دور ہے؟
 جی نہیں، اُن کا گھر یہاں سے نزدیک ہے۔
 آپ کا گھر وہاں سے دور ہے۔
 امریکہ پاکستان سے دور ہے۔
 امریکہ کینیڈا سے دور نہیں۔
 امریکہ کینیڈا سے نزدیک ہے۔
 پاکستان بھی ہندوستان سے دور نہیں۔

2.1 - 2.4 Substitutions

Replace the phrases within brackets in the following sentences with the Urdu equivalents of the English phrases listed below.

۱۔ میں (ٹیکساس سے) ہوں۔

from New York

from California

from Pakistan

from India

۲۔ میں (ٹیکساس میں) (ہیوسٹن سے) ہوں۔

from Mumbai, in India

from Tokyo, in Japan

from Montreal, in Canada

from Chicago, in Illinois

۳۔ میں لاہور میں (پانچ سال سے) ہوں۔

for two years

for one year

for three years

for four years

۴۔ راج (گھر میں) (دس سال سے) ہے۔

for nine years here

for eight years there

for seven years in one office

for six years at Harvard

۵۔ (آپ کا کام) (ہارورڈ سے) (دور) ہے۔

not very near from there their school

far from the office your house

near from New York her work

not far from the university my job

2.1 - 2.4 Translations

1. What is this?
2. This is a horse. It is my horse.
3. Where is Ali from?
4. Ali is from France.
5. Where in France is he from?
6. He is from Paris.
7. How long have you been here?
8. We have been here for ten years.

9. Is Boston far from New York?
10. No. It is not very far.
11. Who is Sheila? Sheila is a student. She is from Japan.
12. Where is that shoe?
13. This girl is very intelligent.
14. Their house is near New York.
15. His heart is not here!!

2.1 - 2.4 Questions

Answer the following questions in complete sentences.

- ۱۔ آپ کا نام کیا ہے؟
- ۲۔ آپ کہاں سے ہیں؟
- ۳۔ آپ یہاں کب سے ہیں؟
- ۴۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟
- ۵۔ کیا، آپ کا گھر ہارورڈ سے نزدیک ہے؟
- ۶۔ ہارورڈ ایم۔ آئی۔ ٹی سے دور ہے؟
- ۷۔ آپ کا کام یہاں کیا ہے؟
- ۸۔ کیا، آپ کا جوتا جاپانی ہے؟
- ۹۔ کیا، آپ کا گھر لال ہے؟
- ۱۰۔ کیا، سلمان خان مشہور ہے؟

2.5 Pronunciation Drill - Aspirations

Column 2		Column 1	
کھل	گل	پھر	پر
کھیل	گیل	بھار	بار
کھولنا	کولنا	پھیر	پر
گھر	گر	پھان	پان
گھوڑی	گوری	تھن	تن
گدھا	گدا	تھان	تان
بھائی	بائی	تھالا	تالا
کھانا	کانا	ٹھاکر	ٹاکا
گھوڑا	گورا	جھولا	جولا
کبھی	کبھی	جھال	جال
تنبھی	جبھی	چھال	چال
کھال	کال	چھانا	چاہنا
ڈھول	ڈول	دھم	دم
پھل	پل	دھام	دام

2.6 گفتگو (Conversation)

نرگس: نمستہ جی۔ کیا، آپ یہاں ٹورسٹ افسر ہیں؟
 ٹورسٹ افسر: جی ہاں۔ آپ کا شمعھ نام کیا ہے؟
 نرگس: میرا نام نرگس ہے۔ میں بوسٹن سے ہوں۔
 ٹورسٹ افسر: اچھا! بوسٹن کہاں ہے؟

نرگس: بوسٹن امریکہ میں ہے۔ وہ بہت خوبصورت ہے۔
 ٹورسٹ افسر: آپ امریکہ میں کب سے ہیں؟
 نرگس: میں وہاں آٹھ سال سے ہوں۔ میں وہاں ڈاکٹر ہوں۔
 ٹورسٹ افسر: آپ کا کام کہاں ہے؟
 نرگس: میں ایم۔ آئی۔ ٹی میں ڈاکٹر ہوں۔
 ٹورسٹ افسر: اچھا! ایم۔ آئی۔ ٹی بہت مشہور یونیورسٹی ہے۔
 نرگس: ہاں وہ بہت مشہور ہے۔ اچھا، کیا، تاج محل یہاں سے دور ہے؟
 ٹورسٹ افسر: نہیں، نہیں۔ تاج محل یہاں سے دور نہیں، نزدیک ہے۔ وہ آگرہ میں ہے۔
 وہ بہت سندر ہے۔
 نرگس: شکریہ۔ اچھا جی۔ نمستے۔
 ٹورسٹ افسر: نمستے جی۔

2.7 Conversation Practice

Rob: Hello, who are you?
 Stranger: Hello, hello. My name is Jay. I am a tourist officer here. Are you from America?
 Rob: What?! No, I am from Canada. Canada is close to America.
 Stranger: Yes, yes. Canada is very famous. What do you do [lit. what is your work] in Canada? Are you a doctor? Are you a computer software engineer?
 Rob: No, I am a professor. How long have you been a tourist officer?
 Stranger: I have been a tourist officer for nine years. I have been in Delhi for ten years. How long have you been in Canada?
 Rob: I have been in Canada for seven years. Is Jaipur far from here?

Stranger: Jaipur? Yes, yes. Sir, what is Jaipur?

Rob: Oh no! Are you really (واقعی) a tourist officer? Jaipur is very famous. It is in Rajasthan. You are not a tourist officer! You are a vagabond! Where are the police?

Stranger: Yes, I am a vagabond. Goodbye, sir!

Rob: Goodbye!

(Rob runs from the stranger)

2.8 Songs

(۱) آوارہ ہوں
یا گردش میں ہوں
آسمان کا تارا ہوں
آوارہ ہوں

(۲) میرا جوتا ہے جاپانی
یہ پتلون انگلستانی
سر پہ لال ٹوپی روسی
پھر بھی دل ہے ہندوستانی

Glossary for Songs

گردش = revolving, turning, wandering (f)

پے = on (alternate form of پر)

آسمان = sky, heaven (m)

پھر بھی = yet, still

تارا = star (m)

2.9 Vocabulary

boy (m)	لڑکا
eight	آٹھ
far	دُور
five	پانچ
four	چار
from	سے
from where	کہاں سے
girl (f)	لڑکی
hat (f)	ٹوپی
head (m)	سر
heart (m)	دل
here	یہاں
horse (m)	گھوڑا
near	قریب / نزدیک
nine	نو
one	ایک
pants, trousers (f)	پتلون
president (m/f)	صدر
red	لال
seven	سات
shoe (m)	جوتا

since when	کب سے
six	چھ
sky (m)	آسمان
star (m)	تارا
ten	دس
that, those	وہ
there	وہاں
thing (f)	چیز
this, these	یہ
three	تین
vagabond, wanderer (m)	آوارہ
when	کب
who	کون
year (m)	سال / برس
yet, still	پھر بھی
zero	صفر

Chapter 3

3.1 Nouns: Gender and Plural

All nouns in Urdu are either masculine or feminine. Within the category of each gender there are two more categories: marked masculine nouns - those ending in the letter "alif" ا - (e.g. لڑکا "boy") and unmarked masculine nouns - those ending in with any other sound - (e.g. گھر "house"); marked feminine nouns - those ending in "choTii ye" ی - (e.g. لڑکی "girl") and the unmarked feminine nouns - those ending with any other sound - (e.g. چیز "thing"). As a rough guideline you should remember that most nouns that end with ا are masculine and those that end with ی are feminine. There are important exceptions to these rules: پانی (water), بھائی (brother), دہی (yogurt) are masculine whereas ہوا (air, wind) and دُنیا (world) are feminine.

Common Marked Masculine Nouns

boy	لڑکا
shoe	جوتا
dog	کُتا
banana	کیلا

The word final long "aa" vowel that is normally indicated by the letter "alif" ا at the end of words is indicated in some words by the letter "choTii he" ہ. Therefore, nouns ending in this letter are usually considered as marked masculine nouns. For example:

rent	کرایہ
------	-------

wonder, wink, charm

کرشمہ

precious stone

نگینہ

song, melody

نغمہ

Note: The noun **جگہ** (place) is one of the few exceptions to this rule. Even though it ends in a "choTii he" it is a feminine noun.

Forming Plurals of Marked Masculine Nouns

To form the plural of marked masculine nouns the final "alif" is changed to "e," i.e. "baRii ye"

(اے).

boys

لڑکے

shoes

جوتے

dogs

کتے

bananas

کیلے

Nouns that end in "choTii he" in the singular may retain this letter in the plural since this letter, in the word final position, may also be pronounced as "e." Alternatively, the "choTii he" may be replaced by a "baRii ye."

rents

کرایے

wonders, winks, charms

کرشمے

precious stones

نگینے

songs, melodies

نغمے

Common Unmarked Masculine Nouns

office	دفتر
house	گھر
house, buildings	مکان
name	نام
year	سال

Forming Plurals of Unmarked Masculine Nouns

Unmarked masculine nouns in the plural are written and pronounced in the same manner as in their singular counterparts: i.e., they show no change. For example:

Singular		Plural	
office	دفتر	offices	دفتر
house	گھر	houses	گھر
name	نام	names	نام

Common Marked Feminine Nouns

girl	لڑکی
bread	روٹی
hat	ٹوپی
sari	ساڑی / ساڑھی

Forming Plurals of Marked Feminine Nouns

Marked feminine nouns, that is those that end in "*choTii ye*," form their plurals by the addition of **اں** at the end of the singular noun:

girls	لڑکیاں
bread	روٹیاں
hats	ٹوپیاں
saris	ساڑی / ساڑھیاں

Common Unmarked Feminine Nouns

thing	چیز
night	رات
world	دُنیا
table	میز

Forming Plurals of Unmarked Feminine Nouns

Unmarked Feminine Plurals are formed with the addition of **یں** to the singular noun:

things	چیزیں
nights	راتیں
worlds	دُنیاں
tables	میزیں

Summary of endings of singular and plural nouns

<u>Type of noun</u>	<u>Ending in singular</u>	<u>Ending in plural</u>
Marked masculine	"aa" / or ء	"e" ے
Unmarked masculine	any except "aa"	no change
Marked feminine	"ii" ی	"iaan" یاں
Unmarked feminine	any except "ii"	"en" یں

3.1 Translation

Translate the following words into Urdu and provide their Urdu plurals and gender:

- | | | | |
|------------|-----------|------------|----------------|
| 1. house | 7. boy | 13. hat | 19. night |
| 2. human | 8. girl | 14. dog | 20. orange |
| 3. actor | 9. horse | 15. apple | 21. room |
| 4. office | 10. shoe | 16. bread | 22. photograph |
| 5. student | 11. thing | 17. carpet | 23. store/shop |
| 6. work | 12. year | 18. banana | 24. table |

3.2 Attributive and Predicate Adjectives

The attributive adjective in Urdu, as in English, comes immediately before the noun it modifies.

2	1
لڑکا	اچھا
noun	attributive adjective

a good boy

On the other hand, when the adjective follows the noun or pronoun it modifies it is a predicate adjective. In Urdu, a predicate adjective occurs in a sentence whose main verb is ہوتا . It comes after the noun/pronoun it modifies but before the verb.

2	1
اچھا	لڑکا
predicative adjective	noun

Attributive

وہ اچھا لڑکا ہے۔

That is a good boy.

Predicative

وہ لڑکا اچھا ہے۔

That boy is good.

وہ اچھا ہے۔

He is good/fine.

میں اچھا ہوں۔

I am good/fine.

3.3 Marked and Unmarked Adjectives

Urdu has two kinds of adjectives: the marked adjective and the unmarked adjective.

Marked adjectives

Marked adjectives agree in number and gender with the nouns they modify. When modifying a masculine singular noun, they end in "alif" ا; in "baRii ye" بے when modifying a masculine plural noun; and in "choTii ye" چھٹی when modifying a feminine singular or plural noun.

Masculine singular:

Good boy اچھا لڑکا

Good office اچھا دفتر

Masculine plural:

Good boys اچھے لڑکے

Good offices اچھے دفاتر

Feminine singular:

Good girl اچھی لڑکی

Good things اچھی چیز

Feminine plural:

Good girls اچھی لڑکیاں

Good things اچھی چیزیں

The marked predicate adjective, like its attributive counterpart, agrees in number and gender with the noun/pronoun that precedes it.

This boy is good یہ لڑکا اچھا ہے۔

These boys are good یہ لڑکے اچھے ہیں۔

This girl is good یہ لڑکی اچھی ہے۔

These girls are good یہ لڑکیاں اچھی ہیں۔

Unmarked Adjectives

Unmarked adjectives are those that do not end in one of the marked endings: "alif" ^۱, "baRii ye" ^۲, or "choTii ye" ^۳. Regardless of the gender or the number of the noun they modify, they do not change their form.

Masculine singular:

Handsome boy خوبصورت لڑکا

Clever shopkeeper ہوشیار دکان والا

Red apple لال سیب

Masculine plural:

Handsome boys خوبصورت لڑکے

Clever shopkeepers ہوشیار دکان والے

Red apples لال سیب

Feminine singular:

Beautiful girl	خوبصورت لڑکی
Clever wife	ہوشیار بیوی
Red book	لال کتاب

Feminine plural:

Beautiful girls	خوبصورت لڑکیاں
Clever wives	ہوشیار بیویاں
Red books	لال کتابیں

3.4 Cardinal Numbers 11-20

گیارہ	۱۱
بارہ	۱۲
تیرہ	۱۳
چودہ	۱۴
پندرہ	۱۵
سولہ	۱۶
سترہ	۱۷
اٹھارہ	۱۸
انیس	۱۹
بیس	۲۰

Note: The spellings of numbers from 11-18 end in "choTii he" ہ. These numbers are pronounced the same way as they would have been if they ended in "alif" ا. They do not inflect to agree with number and gender of nouns they modify as they function as unmarked adjectives.

Ordinal numbers 1-10

Ordinal numbers usually act as marked adjectives and decline in number and gender according to the noun they modify.

<u>Masculine singular</u>	<u>Masculine plural</u>	<u>Feminine</u> <u>singular and plural</u>	<u>Number</u>
پہلا	پہلے	پہلی	first
دوسرا	دوسرے	دوسری	second
تیسرا	تیسرے	تیسری	third
چوتھا	چوتھے	چوتھی	fourth
پانچواں	پانچویں	پانچویں	fifth
چھٹا	چھٹے	چھٹی	sixth
ساتواں	ساتویں	ساتویں	seventh
آٹھواں	آٹھویں	آٹھویں	eighth
نواں	نویں	نویں	ninth
دسواں	دسویں	دسویں	tenth

From number 7 onward you can see a pattern of attaching the suffixes ("vaan," "ven," "viin")

واں، ویں، ویں to the number in order to get its ordinal form. With a few exceptions, this remains true with all numbers higher than seven. When these suffices are added to the numbers 11-18 which end in a "choTii he" one has the choice of retaining or dropping the "choTii he." For example:

eleven گیارہ eleventh گیارہواں or گیارواں

3.1-3.4 Reading and Translation Drill

- ۱۔ یہ بڑا لڑکا ہے۔
یہ بڑی لڑکی ہے۔
یہ بڑے لڑکے ہیں۔
یہ بڑی لڑکیاں ہیں۔
- ۲۔ وہ چھوٹا دفتر ہے۔
کیا، وہ چھوٹا مکان ہے۔
وہ خوبصورت نام ہے۔
وہ بہت خوبصورت گھر ہے۔
- ۳۔ ایک روٹی اچھی ہے۔
پندرہ روٹیاں اچھی ہیں۔
یہ روٹی سستی ہے۔
وہ روٹی بہت مہنگی ہے۔
- ۴۔ کیا، یہ چیز صاف ہے؟
جی نہیں، جناب۔ یہ چیزیں صاف نہیں۔
وہ چیز کالی ہے؟
نہیں صاحب۔ وہ چیز لال ہے۔
- ۵۔ پہلا دفتر بہت صاف ہے۔
دوسرا دفتر بہت بڑا ہے۔
کیا، تیسرا دفتر بھی بڑا ہے؟
چوتھا دفتر چھوٹا ہے، کیا؟
- ۶۔ پانچواں پھل مزیدار ہے۔

- یہ اچھی میزیں ہیں۔
 وہ لال جوتے کہاں ہیں؟
 بڑا کمرہ وہاں ہے۔
 ۷۔ علی ہوشیار لڑکا ہے۔
 جینا ہوشیار لڑکی ہے۔
 کیا، پولیوڈ میں سب اداکار ہوشیار ہیں۔
 ہارورڈ میں سب لڑکیاں ہوشیار ہیں۔
 ۸۔ یہ لال سیب بہت مزیدار ہے۔
 وہ پیلا سنترہ بھی بہت مزیدار ہے۔
 یہ بارہ سیب مزیدار نہیں۔
 وہ سولہ سیب مزیدار ہیں۔

3.1-3.4 Substitutions

Substitute the adjectives and/or nouns in brackets with the Urdu equivalents of the English words indicated below:

- ۱۔ علی بہت (اچھا) لڑکا ہے۔
 handsome
 intelligent
 tall
 famous
 ۲۔ رادھا بہت (خوبصورت) لڑکی ہے۔
 good

intelligent

tall

young (small)

۳۔ وہ چیزیں بہت (مزیدار) ہیں۔

good

yellow

expensive

cheap

۴۔ یہ جوتا (لال) ہے۔

yellow

good

expensive

cheap

۵۔ یہ قالین (سفید) ہے۔

black

round

expensive

beautiful

۶۔ (شیرا) (پہلی لڑکی) ہے۔

second boy He

third doctor Ali

fourth student I

۷۔ وہ کتاب (نیلی) ہے۔

inside

above

fifth

small

round

3.5 Pronunciation Drill: Perso-Arabic Sounds I

Column 3	Column 2	Column 1
مقبرہ	عادت	ثابت
مرغی	عمرت	اکثر
غضب	عینک	اخبار
بغداد	عدالت	خراب
بغل	عام	خزانہ
شغل	عرب	خاموش
سُراغ	غم	خبر
ژولیدہ	غازی	خالی
مڑگاں	عُصَہ	خرگوش
اژدہا	غنیمت	خربوزہ
اژدر	غوری	خدمت
طرح	غزل	حُدا
طریقہ	فارغ	بخار

3.6 گفتگو (Conversation)

- نرگس: آداب عرض جناب۔ کیا حال ہے؟
- دکان والا: آداب عرض۔ سب ٹھیک ہے۔ یہ پھل بہت اچھے ہیں۔
- نرگس: ہاں۔ یہ لال سیب اور پیلے سنترے اچھے ہیں۔ کیا یہ سستے ہیں؟
- دکان والا: جی ہاں۔ بہت سستے ہیں۔ یہ کون ہیں؟
- نرگس: یہ سلوچنا ہے۔ سلوچنا لندن سے ہے۔
- دکان والا: اچھا! ویلکم! لندن میں آپ کب سے ہیں؟
- سلوچنا: میں لندن میں سترہ سال سے ہوں۔ میں وہاں طالب علم ہوں۔ یہ دکان بہت صاف ہے۔ یہ کیلے بھی بہت مزیدار ہیں۔
- دکان والا: شکریہ۔ یہ نیلی قالین بھی سندر ہے۔
- سلوچنا: ہاں، بہت سندر ہے۔ کیا، یہ مہنگی ہے؟
- نرگس: ہاں، ہاں۔ بہت مہنگی ہے۔ وہاں دوسری دکان ہے۔ قالینیں وہاں سستی ہیں۔
- سلوچنا: وہ دکان صاف نہیں!
- نرگس: نہیں، نہیں۔ وہ بہت بڑی اور صاف دکان ہے۔ اچھا پھر ملیں گے۔
- دکان والا: اچھا۔ خدا حافظ۔

3.7 Conversation Practice

- Tourist: This store is very good.
- Guide: Yes, but (مگر) this is an expensive store. The fifth store over there is cheap.
- Tourist: Is it clean?
- Guide: Yes, it is clean and very big.
- Tourist: What are those big yellow things?

- Guide: These are delicious oranges and those are delicious red apples.
- Tourist: Are the oranges expensive?
- Guide: No, they are very cheap. The apples are also cheap. This bread is also delicious.
- Tourist: Who is that beautiful girl in the picture?
- Guide: That is Madhuri Dixit. She is an actress. She is very famous.
- Tourist: Is she Punjabi?
- Guide: No, she is from Maharashtra.
- Tourist: Maharashtra is in India. Mumbai and Bollywood are in Maharashtra. There are many beautiful actresses and handsome actors in Bollywood.
- Guide: Yes. The actor in that picture over there is Shahrukh Khan. He too is very famous.

3.8 Songs

(۱) یہ دُنیا گول ہے
اوپر سے خول ہے
اندر تو دیکھو پیارے
بالکل پولم پول ہے

(۲) یہ دل دیوانہ ہے
دل تو دیوانہ ہے
دیوانہ دل ہے یہ
آہ ہا ہا۔۔۔ دل دیوانہ

Glossary for Songs

گول = round, circular; a circle (m)

پیارے = dear one (term of address)

خول = cover; case; sheath (m)

پولم پول = hollow

دیکھو = see (informal imperative)

3.9 Vocabulary

above	اوپر
absolutely, completely	بالکل
actor	اداکار
actress	اداکارہ
apple (m)	سیب
banana (m)	کیلا
big	بڑا
black	کالا
blue	نیلا
book (f)	کتاب
bread (f)	روٹی
carpet (f)	قالین
cheap; inexpensive	ستا
clean	صاف
cow (f)	گائے
delicious	مزیدار
dog (m)	سوتا

eighteen	اٹھارہ
eighth	آٹھواں
eleven	گیارہ
expensive	مہنگا
fifteen	پندرہ
fifth	پانچواں
first	پہلا
fourteen	چودہ
fourth	چوتھا
fruit (m)	پھل
hospital (m)	ہسپتال
inside	اندر
job/work (m)	نوکری
mad, ecstatic; crazy	دیوانہ
Maharashtra (m)	مہاراشٹرہ
night (f)	رات
nineteen	اچیس
ninth	نواں
orange (m)	سنترہ (سگترہ)
picture/photograph (f)	تصویر
room (m)	کمرہ
round, circular; a circle (m)	گول

second; another	دوسرا
seventeen	سترہ
seventh	ساتواں
shop/store	دکان/دوکان
shopkeeper/store owner	دکان والا/دوکان والا
sixteen	سولہ
sixth	چھٹا
small	چھوٹا
table (f)	میز
tall	لمبا
tea (f)	چائے
tenth	دسواں
third	تیسرا
thirteen	تیرہ
twelve	بارہ
twenty	پیس
white	سفید
wife (f)	بیوی
world (f)	دُنیا
yellow	پیلّا

Chapter 4

4.1 Possessive Adjectives

The postposition کا (and its forms کی and کے) are used to form possessive adjectives in Urdu. کا in Urdu functions roughly like "of" or "apostrophe s, 's" in English. Like a postposition, it follows a noun or a pronoun. When it follows a noun or a pronoun, the کا and its preceding noun/pronoun is transformed into a possessive adjective or an adjectival phrase:

گھر کا + آپ
[noun] [possessive postposition] [pronoun]
(your house)

In the above sentence آپ کا is a possessive adjective. In Urdu, possessive adjectives are marked adjectives that reflect the gender and number of the item(s) possessed. The gender and number of the possessor has no impact upon the possessive adjectives. Possessive adjectives, like their attributive counterparts, precede the nouns they modify. Thus, if the possessed object is *masculine singular*, the relevant noun/pronoun is followed by the possessive particle کا :

Your shoe آپ کا جوتا
Ali's shoe علی کا جوتا
Radha's shoe رادھا کا جوتا

In the above examples, because جوتا the possessed object is *masculine singular*, it is preceded by the masculine singular form of the possessive particle کا. If the possessed object is *masculine*

plural, then it is preceded by the masculine plural form of the possessive particle کے :

Your shoes آپ کے جوتے

Ali's shoes علی کے جوتے

Radha's shoes رادھا کے جوتے

If the possessed object is *feminine singular or plural*, then the possessive particle کی precedes it:

Your thing آپ کی چیز

Ali's thing علی کی چیز

Radha's thing رادھا کی چیز

Your things آپ کی چیزیں

Ali's things علی کی چیزیں

Radha's things رادھا کی چیزیں

When کی، کے، کا follow pronouns, they have special forms. Below is a list of these special forms. Only the pronoun آپ does not change its form with the possessive particle.

میرا	=	کا	+	میں
میری	=	کی	+	میں
میرے	=	کے	+	میں
تیرا	=	کا	+	تو
تیری	=	کی	+	تو
تیرے	=	کے	+	تو

تمہارا	=	کا	+	تم
تمہاری	=	کی	+	تم
تمہارے	=	کے	+	تم
آپ کا	=	کا	+	آپ
آپ کی	=	کی	+	آپ
آپ کے	=	کے	+	آپ
اُس کا	=	کا	+	وہ (singular)
اُس کی	=	کی	+	وہ (singular)
اُس کے	=	کے	+	وہ (singular)
اُن کا	=	کا	+	وہ (plural)
اُن کی	=	کی	+	وہ (plural)
اُن کے	=	کے	+	وہ (plural)
اِس کا	=	کا	+	یہ (singular)
اِس کی	=	کی	+	یہ (singular)
اِس کے	=	کے	+	یہ (singular)
اِن کا	=	کا	+	یہ (plural)
اِن کی	=	کی	+	یہ (plural)
اِن کے	=	کے	+	یہ (plural)
ہمارا	=	کا	+	ہم
ہماری	=	کی	+	ہم
ہمارے	=	کے	+	ہم

4.1 Substitutions

Replace the words in brackets with the Urdu equivalents of the English listed below:

۱۔ یہ (میرا) دوست ہے۔

his

her

our

your (formal)

their

۲۔ وہ (ہماری) چیز ہے۔

my

your (informal)

its

his

her

۳۔ (اُس کا) مکان بڑا ہے۔

my

our

your (least formal)

their

her

۴۔ یہاں (شیرا کے) جوتے ہیں۔

my

his

Ravi's

Stephanie and Lisa's

your

۵۔ وہاں (بیل گیٹس کی) گاڑیاں ہیں۔

Amitabh Bacchan's

Madhuri Dixit's

our

their

her

4.1 Reading and Translation Drill

۱۔ وہ ہماری گاڑی ہے۔

وہ ہمارا گھر ہے۔

وہ ہمارے قلم ہیں۔

وہ ہمارے گھر ہیں۔

وہ ہماری چیز ہے۔

۲۔ کیا، یہ بہت مہنگی چیز ہے؟

یہ مہنگا گھر ہے۔

یہ مہنگی کتابیں ہیں۔

یہ مہنگے قلم ہیں۔

۳۔ یہ سستی ٹوپیاں ہیں۔

یہ بہت سستی دکان ہے۔

- یہ سستے گھر ہیں۔
یہ سستی گاڑیاں ہیں۔
یہ بہت سستا کاجل ہے۔
۴۔ تیرا گھر مہنگا ہے۔
ہمارا جوتا سستا ہے۔
تمہاری بیٹیاں جوان ہیں؟
آپ کی زندگی ایک خوبصورت غزل ہے۔

Fill in the blanks with appropriate possessive adjectives and then translate into English.

- | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----|
| (my) | _____ گھر یہاں سے دور ہے۔ | ۱۔ |
| (our) | _____ چیزیں بہت خوبصورت ہیں۔ | ۲۔ |
| (his) | _____ جوتا جاپانی ہے۔ | ۳۔ |
| (their) | _____ ٹوپیاں ہندوستانی ہیں۔ | ۴۔ |
| (our) | _____ مکان یہاں سے دور نہیں۔ | ۵۔ |
| (her) | _____ کتابیں بہت مہنگی ہیں۔ | ۶۔ |
| (your, least formal) | _____ کیا، دل ہندوستانی ہے؟ | ۷۔ |
| (my) | _____ جی نہیں۔ دل امریکی ہے۔ | ۸۔ |
| (your, most formal) | _____ دفتر یہاں سے بہت نزدیک ہے۔ | ۹۔ |
| (your, informal) | _____ دوست دس سال سے بوسٹن میں ہیں۔ | ۱۰۔ |

4.2 Asking and Telling Age

Note: Many people in South Asia, as in many Western nations, do not consider direct questions about their age to be polite or in good taste. Although it is crucial to learn how to make such inquiries, students should be aware that this kind of question should not be undertaken casually. Generally speaking, asking the age of young children or people younger than one's self is considered acceptable. For older persons or people whom one does not know well this may become a sensitive issue.

Asking Age

The sentence pattern used to ask a person's age is as follows:

4	3	2	1
ہے؟	کیا	عمر	Possessive adjective
			declined to modify a
			feminine noun.

The possessive adjective is declined in the feminine form because **عمر** the noun for "age" is feminine.

آپ کی عمر کیا ہے؟

What is your age?

اس کی عمر کیا ہے؟

What is his/her age?

Alternatively, one may ask age by using a variation of the expression **کتنے سال** "how many years." In this case, the word **سال** is followed by appropriate form of **کی، کے، کا** agreeing with the subject. For example:

آپ کتنے سال کے ہیں؟

How old are you? [lit. how many years are you?]

وہ کتنے سال کا/کی ہے؟

How old is he/she? [lit. how many years is he/she?]

Telling Age

The usual pattern for telling one's age is as follows:

4	3	2	1
verb agreeing with	کا، کے، کی	# of years	subject
subject	agreeing with subject	سال and	
میں بیس سال کا ہوں۔			

I (masculine singular) am 20 years old.

شیلہ دس سال کی ہے۔

Sheila is 10 years old.

ہم پندرہ سال کے ہیں۔

We (masculine plural) are 15 years old.

One may also tell age by using the noun **عمر** with the appropriate possessive adjective, but this is less common.

میری عمر بیس سال ہے۔

I am 20 years old [lit. my age is 20]

شیلہ کی عمر دس سال ہے۔

Sheila is 10 years old [lit. Sheila's age is 10]

4.3 Cardinal Numbers 21-30

۲۱	اکیس
۲۲	بائیس
۲۳	تیس
۲۴	چوبیس
۲۵	پچیس
۲۶	چھتیس
۲۷	ستائیس
۲۸	اتھائیس
۲۹	اننتیس
۳۰	تیس

4.2 - 4.3 Reading and Translation Drill

- ۱۔ میرا دوست اکیس سال کا ہے۔
آپ کی عمر کیا ہے؟
میں بائیس سال کا ہوں۔
اس کی عمر کیا ہے؟
- ۲۔ راج تیس سال کا ہے۔
کیا، زگس چوبیس سال کی ہے؟
میرے دوست پچیس سال کے ہیں۔
اس کی عمر کیا ہے؟
- ۳۔ تمہاری لڑکی کی عمر کیا ہے؟
وہ چھتیس سال کی ہے۔

ہماری کلاس کی لڑکیاں ستائیس سال کی ہیں۔
 سب لڑکے اٹھائیس سال کے ہیں۔
 ۴۔ اُن کا بڑا بھائی اُنتیس سال کا ہے۔
 مگر اُن کی بڑی بہن تیس سال کی ہے۔
 کیا، تو بھی سولہ سال کی ہے؟
 نہیں، نہیں۔ میں اٹھارہ سال کی ہوں۔

Translate into Urdu:

1. Is his older sister twenty-one years old?
2. My sister and I are twenty-five years old.
3. How old are you?
4. These are twenty-eight delicious oranges.
5. Are these thirty red apples?

4.4 Order in a Noun Phrase

Thus far we have learned that nouns may be preceded by various elements including possessive adjectives (میرا، آپ کا، راج کا), attributive adjectives (لہجہ، ہوشیار), demonstratives (یہ، وہ)، and numbers. They may sometimes be preceded by interrogatives as well. Examples of some interrogatives that frequently precede a noun include کون (who, which), کونسا (which one), کتنا (how much, how many), and کیسا (what kind or sort of, how). (Note: کونسا، کتنا، کیسا are marked interrogatives; the "aa" ending, as in the case of marked adjectives, may change to "ii" or "e" depending on the gender and number of the noun that follows.) When a noun is preceded by two or more of these elements, the following order should be observed:

Noun

Attributive Adjective

Demonstrative,

Possessive Adjective

Interrogative,

Number

Examples:

میرا وہ ہوشیار لڑکا یہاں ہے۔

That clever son of mine (lit. my that clever son) is here.

زرگس کی دو چھوٹی بہنیں سُندر ہیں۔

Nargis' two younger sisters are pretty.

(Note: سُندر is used here as a predicate adjective and hence follows the noun.)

4.4 Translation Drill

Translate the following sentences into idiomatic Urdu:

1. Which beautiful daughter of his is an actress? (use کونسی for which)
2. Nilufer's second blue carpet is from Iran.
3. Those two big black dogs of yours are no good!
4. These seven-year-old yellow photographs, on the table, are mine.
5. All of Reshma's elder sisters are very tall.
6. How many of Raj's crazy friends are in America?

4.5 Pronunciation Drills - Nasals

Column 4

Column 3

Column 2

Column 1

بھنگڑا

زنگ

لاؤں

سنگ

سنگھاڑا

اُمنگ

جہاں

رنگ

گھنگرو

انگ

وہاں

بھنگ

ترنگ	مہاں	انگریز	مہنگا
ڈھنگ	ہوں	فرنگ	ٹھنڈک
تنگ	جوں	نارنگی	منگنی
پلنگ	سوں	تانگہ	سانس
گاؤں	دوں	جھانہ	جنگ
پاؤں	چھاؤں	پھانس	شکر

Perso-Arabic Sounds II

Column 3	Column 2	Column 1
طشت	فاخر	خمیر
طفلی	فخر	اختر
اطفال	قاضی	صاحب
غالب	قلم	صدمہ
اقبال	قبیلہ	صدر
ذوق	قافلہ	ضمیر
قمر	قسمت	مضمون
فراق	قالین	وضو
نُمار	قانون	طالب
تقی	قیامت	طالبان
مقصد	مقام	ظلم
مقتل	قتل	ظالم
طوطا	ضمانت	ظفر

4.6 گفتگو (Conversation)

- راج: آداب عرض نرگس جی۔ کیا حال ہے؟
- نرگس: سب ٹھیک ہے۔ یہ میرے بھائی شاد اور فراز ہیں اور یہ میری بہنیں نغمہ اور نیلو فر ہیں۔
- راج: یہ میرا کتا ٹائیگر ہے اور یہ میری بلی چیتا ہے۔
- نرگس: تمہارا کتا اور تمہاری بلی بہت سُندر ہیں۔
- راج: ہاں، یہ جرمن ہیں۔ آپ کے بھائی اور آپ کی بہنیں یہاں کب سے ہیں؟
- نرگس: میرے بھائی اور میری بہنیں یہاں پانچ سال سے ہیں۔
- راج: اچھا۔ اُن کی عمریں کیا ہیں؟
- نرگس: شاد چوبیس سال کا ہے، فراز ستائیس سال کا ہے۔ نیلو فر بائیس سال کی ہے اور نغمہ تیس سال کی ہے۔
- نغمہ: نہیں۔ نہیں۔ میں تیس سال کی نہیں ہوں! میں صرف انتیس سال کی ہوں۔
- راج: یہ کتا بھی انتیس سال کا ہے۔
- نرگس: کیا! یہ کتا اتنا بوڑھا ہے؟
- راج: بوڑھا؟! کیا، نغمہ بوڑھی ہے؟
- نغمہ: نہیں۔ میں بوڑھی نہیں ہوں اور راج کا کتا بھی بوڑھا نہیں۔ ہم جوان ہیں۔
- ہمارے دل جوان ہیں۔

4.7 Conversation Practice

Steve: Hello. I am Steve. I am from New York. Where is Sheila?

Seema: Sheila is not at home. I am her sister Seema and this is our little brother Babu.

Who is he?

- Steve: This is my friend Amar. This is his cat Dimple.
- Seema: Hello, Amar. Dimple is very beautiful. How old is she?
- Amar: She is five years old and she is very smart.
- Babu: I also am five years old and I am very smart!
- Seema: Where is Dimple from? She is not an Indian cat!
- Steve: She is from Afghanistan. She is an Afghani cat!
- Seema: Amar, are you from Afghanistan?
- Amar: No, no, I am from Bangladesh.
- Babu: Is Bangladesh far from India?
- Amar: Bangladesh is very close to India. It is a very beautiful country.
- Babu: My sisters and I are from India. There are no good cats in India.
- Steve: Well! We've got to run. We'll meet again. Goodbye!
- Seema: Yes, we will meet again. Goodbye!
- Babu: Goodbye, little Dimple!

4.8 Songs

(۱) میں پل دو پل کا شاعر ہوں
 پل دو پل میری کہانی ہے
 پل دو پل میری ہستی ہے
 پل دو پل میری جوانی ہے

(۲) یہ نینا، یہ کاجل، یہ زلفیں، یہ آنچل
 خوبصورت سی ہو تم غزل

کبھی دل ہو، کبھی دھڑکن
 کبھی شعلہ، کبھی شبنم
 تم ہی ہو تم میری ہمد
 زندگی تم میری، میری تم زندگی

(۳) عمر تیری سولہ

نخرے تیرے سترہ! --- خطرہ! خطرہ! خطرہ! ---
 سترہ نخروں والی تیرا ہر نخرہ ہے --- خطرہ!

Glossary for Songs

ہستی = existence (f)

نینا = eye (m)

کاجل = kohl, collyrium (m)

زُلف = curl, tress (f)

آنچل = hem of sari, veil, or shawl (m)

دھڑکن = heartbeat (f)

شعلہ = flame, spark (m)

شبنم = dew, dew drop (f)

ہمد = companion, bosom friend (m/f)

نخرہ = coquetry, flirting (m)

4.9 Vocabulary

age (f)

عمر

all

سب

brother (m)

بھائی

but/however

مگر/لیکن

car (f)

گاڑی

cat (f)

بیلی

country (m)

ملک

danger (m)	خطرہ
daughter (f)	بیٹی
elderly (adj.); elderly person	بُوڑھا
friend (m/f)	دوست
ghazal (love poem) (f)	غزل
how much, how many?	کتناء، کتنی، کتنے
life (f)	زندگی
moment (m)	پل
more, additional (adj.)	اور
old (thing)	پُرانا
only	صرف
pen (m/f)	قلم
poet (m)	شاعر
sister (f)	بہن
sometimes	کبھی
story (f)	کہانی
thirty	تیس
this much	اتنا
twenty-one	اکیس
twenty-two	بائیس
twenty-three	تیس
twenty-four	چوبیس

twenty-five

پچیس

twenty-six

چھپیس

twenty-seven

ستائیس

twenty-eight

اٹھائیس

twenty-nine

اُتیس

what sort of, what kind of, how

کیسا، کیسی، کیسے

young (adj.), youth (m/f)

جوان

youth, youthfulness (f)

جوانی

Chapter 5

5.1 The Present Habitual Tense

Verb Infinitives

All verb infinitives in Urdu end in **نا**. For example:

to read/study	پڑھنا
to go	جانا
to do	کرنا

Urdu Verbal Stems

In order to derive the stem (sometimes also called the root) from the infinitive, the ending **نا** is dropped. The stem of **پڑھنا** is thus **پڑھ**, that for **جانا** is **جا**, and that for **کرنا** is **کر**.

The Present Habitual Tense

To conjugate verbs that indicate actions that occur in the present or are habitual or frequent, the suffixes **تی**, **تے**, **تا**, are added to the verbal stem to create the present participle. The choice of suffix is determined by the number and gender of the subject of the sentence. Thus **تا** is the suffix for the verbal stem if the subject is masculine singular, **تے** if it is masculine plural, and **تی** for both feminine singular and plural subjects. To complete the tense the appropriate present tense of the **ہونا** verb also needs to be added. For example, the stem of the Urdu verb "to read or study" is **پڑھ**. In order to say "he is reading or studying" we add the suffix **تا** to the verb stem (since the subject is masculine singular) to get **پڑھتا** which grammatically is the masculine

present participle. To this is added ہے the present tense of the verb پڑھنا corresponding to the subject "he." The result is the sentence وہ پڑھتا ہے which means "He reads/studies." Note: The present habitual tense does not denote that the subject is currently engaged in a particular act or process (e.g. he/she is reading). For this situation there is a separate tense, the present continuous, which will be introduced in Chapter 7. The following table illustrates the conjugational forms of the verb پڑھنا in the present habitual:

Verbal Infinitive: پڑھنا

<u>Urdu Feminine</u>	<u>English</u>	<u>Urdu Masculine</u>
<i>Singular</i>		
میں پڑھتی ہوں۔	I study.	میں پڑھتا ہوں۔
تو پڑھتی ہے۔	You (least formal) study.	تو پڑھتا ہے۔
تم پڑھتی ہو۔	You (informal) study.	تم پڑھتے ہو۔
آپ پڑھتی ہیں۔	You (formal) study.	آپ پڑھتے ہیں۔
وہ پڑھتی ہے۔	He/she studies.	وہ پڑھتا ہے۔
<i>Plural</i>		
ہم پڑھتی ہیں۔	We study.	ہم پڑھتے ہیں۔
تم پڑھتی ہو۔	You (informal) study.	تم پڑھتے ہو۔
آپ پڑھتی ہیں۔	You (formal) study.	آپ پڑھتے ہیں۔
وہ پڑھتی ہیں۔	They study.	وہ پڑھتے ہیں۔

Note: In Urdu, the verb جانا, "to go" does not need a postposition "to."

ہم کالج جاتے ہیں۔

We go to college.

کیا، تم سینما جاتے ہو؟

Do you go to the movies?

5.2 The Present Habitual Negative

In negative sentences, the negative particle **نہیں** is placed right before the conjugated present habitual verb and the auxiliary (the form of **ہونا**) is dropped unless the tone is emphatic:

میں نہیں پڑھتا۔

I don't study.

میں نہیں پڑھتا ہوں۔

I don't study (emphatic).

For still more emphasis, the negative particle may also be placed after the verb.

میں پڑھتا نہیں۔

I do not study at all.

In case the subject is feminine plural, and the negative particle **نہیں** precedes the verb, then the feminine present participle is nasalized:

وہ نہیں پڑھتی۔

She does not study.

میں نہیں پڑھتی۔

I do not study.

وہ نہیں پڑھتیں۔

They (feminine) do not study.

ہم نہیں پڑھتیں۔

We (feminine) do not study.

The feminine plural present participle loses this nasalization when the negative particle **نہیں** follows it, e.g., ہم پڑھتی نہیں۔

Here is a list of common Urdu verbs that you should memorize:

to eat	کھانا
to drink	پینا
to stay or to live	رہنا
to go	جانا
to come	آنا
to do	کرنا
to work	کام کرنا
to write	لکھنا
to sing	گانا
to dance	ناچنا
to play	کھیلنا
to understand	سمجھنا
to give	دینا
to bring	لانا
to take	لینا
to see	دیکھنا

5.1-5.2 Conjugation Drill

Conjugate the following verbs in the present habitual tense (assume that the subject is masculine):

کھینا

رہنا

کھانا

پینا

میں

تو

تم

آپ

وہ (singular)

وہ (plural)

ہم

Conjugate the following verbs in the present habitual tense (assume that the subject is feminine).

لکھنا

کام کرنا

آنا

جانا

میں

تو

تم

آپ

وہ (singular)

وہ (plural)

ہم

Conjugate the following verbs in the negative present habitual tense (assume that the subject is feminine).

سمجھنا

کھیلنا

ناچنا

گانا

میں

تو

تم

آپ

وہ (singular)

وہ (plural)

ہم

5.1-5.2 Reading and Translation Drill

۱۔ میں سیب کھاتا ہوں۔

تو آم کھاتا ہے۔

تم پھل کھاتے ہو۔

آپ سنترے کھاتے ہیں۔

۲۔ وہ پانی پیتا ہے۔

وہ شراب پیتی ہے، کیا؟

ہم لسی پیتے ہیں۔

وہ کوک پیتے ہیں۔

۳۔ علی دلی میں نہیں رہتا ہے۔

ہم امریکہ میں رہتے ہیں۔

وہ گھر میں رہتی نہیں۔

- تم بھارت میں کب سے رہتے ہو؟
 ۴۔ شیلہ وہاں اسکول نہیں جاتی۔
 کیا، تم بھی اسکول جاتے ہو؟
 نہیں، میں اسکول نہیں جاتا۔
 وہ لڑکیاں کہاں جاتی ہیں؟
 ۵۔ کیا، تو یہاں آتی ہے؟
 نہیں، یہاں خطرہ ہے۔ میں یہاں نہیں آتی۔
 مگر نرگس یہاں آتی ہے۔
 راج اور نرگس وہاں جاتے ہیں۔
 ۶۔ میں دفتر میں کام کرتا ہوں۔
 وہ شاعر صاحب بھی دفتر میں کام کرتے ہیں۔
 ہم دفتر میں کام نہیں کرتے ہیں۔
 تم گھر میں کام کرتے ہو؟
 ۷۔ وہ لڑکیاں دلی میں نہیں رہتیں۔
 کیا، آپ وہاں نہیں پڑھتیں؟
 ہم نوکری نہیں کرتے۔
 شیلہ اور رینو قبیل نہیں کھیلتیں۔
 ۸۔ فل کلنز کہاں گاتا ہے؟
 کیا، پالا عبدل کبھی ناچتی ہے؟
 مائیکل جیکسن بھی ناچتا ہے۔
 شاہ رخ خان اچھا ناچتا ہے۔
 ۹۔ وہ اردو سمجھتی ہے۔

- وہ اُردو سمجھتی ہے مگر لکھتی نہیں۔
 کیا، آپ عربی سمجھتے ہیں؟
 ہاں۔ میں عربی کم سمجھتی ہوں۔
 ۱۰۔ میں ایک سیب لیتا ہوں۔
 میں دس سنترے لیتی ہوں۔
 کیا، آپ پانچ پھل لیتی ہیں؟
 نہیں۔ وہ آٹھ پھل نہیں لیتیں۔
 ۱۱۔ راج بہت کام کرتا ہے۔
 سیما کہانیاں لکھتی ہے کیا؟
 ہم وہاں بہت جاتے ہیں۔
 کیا، تم کلب میں بہت ناچتے ہو؟

5.3 Times of the Day, Days of the Week, and Other Time Phrases

Times of the Day

morning (f)	صبح
afternoon (f)	دوپہر
evening (f)	شام
night (f)	رات
day, daytime (m)	دن

Days of the Week

Sunday (m)	اتوار
Monday (m)	پیر
Tuesday (m)	منگل

Wednesday (m)	بدھ
Thursday (f)	جمعرات
Friday (m)	جمعہ
Saturday (m)	ہفتہ

Other Expressions of Time

today (m)	آج
tomorrow (m)	کل
yesterday (m)	کل
day after tomorrow (m)	پرسوں
day before yesterday (m)	پرسوں
every	ہر
every day (m)	ہر روز، ہر دن
every week (m)	ہر ہفتہ
every month (m)	ہر مہینہ
every year (m)	ہر سال
sometimes	کبھی کبھی
nowadays	آج کل

5.4 The Particle کو with Temporal Words and Phrases

The particle کو has many uses in Urdu. We will discuss these uses in great detail later. Suffice to say here that certain time expressions are marked by (or followed by) کو. All times of the day, with the exception of صبح (morning), are marked by کو. Similarly all the days of the week are also marked by کو. کو after these expressions may be variously translated as "on," "in," or

"during." However, none of the other expressions of time introduced above (such as آج، کل، use (سال

میں دن کو اسکول جاتا ہوں اور شام کو کام کرتا ہوں۔

I go to school in the day and work in the evening.

وہ صبح گالف کھیلتا ہے مگر رات کو پڑھتا ہے۔

He plays golf in the morning but studies at night.

لڑکیاں اتوار کو اسکول نہیں جاتیں۔

The girls do not go to school on Sunday.

میں آج کل بہت مصروف ہوں۔

I am very busy these days.

میرا خاندان ہر سال پاکستان جاتا ہے۔

My family goes to Pakistan every year.

Note: The short "a" vowel at the end of the words for Friday and Saturday, جمعہ and ہفتہ, changes to "e" when marked by کو. For explanation, refer to the discussion on the oblique case of nouns in Chapter 6.

5.5 Review of Urdu Sentence Structure

The normal word order in an Urdu sentence is:

4	3	2	1
Verb	Locative Phrase	Temporal Phrase	Subject
پڑھتا ہوں	گھر میں	ہر روز	میں

Any change in this order usually implies that the element placed out of normal sequence in the sentence is meant to be emphasized:

ہر روز میں گھر میں پڑھتا ہوں۔

The temporal phrase ہر روز , "every day," is emphasized in this sentence by being positioned at the beginning of the sentence before the subject.

5.3 - 5.5 Substitution and Response Drill

Substitute the phrases in brackets with the Urdu equivalents of the English words indicated below:

۱۔ میں (اتوار کو) کام نہیں کرتا۔

on Monday

on Saturday

in the morning

in the evening

۲۔ ہم (کبھی کبھی) سینما جاتے ہیں۔

every night

on Friday

on Thursday

every year

۳۔ میں (آج) پڑھتا ہوں۔

on Tuesday

every week

on Wednesday

in the afternoon

۴۔ کیا، تم لوگ (پیر کو) مصروف ہو؟

on Thursday

every month

tomorrow

today in the evening

Fill in the blanks with the appropriate form of the present habitual tense:

- ۱۔ میں ہر روز دفتر (go) _____
- ۲۔ ہمارے دوست بہت (work) _____
- ۳۔ وہ لڑکی لائبریری میں (studies) _____
- ۴۔ میں اور اُس کا بھائی شام کو (come) _____
- ۵۔ میرے بھائی لندن میں (live) _____
- ۶۔ ہر روز شام کو وہ لڑکیاں (dance) _____
- ۷۔ کیا، تم اُردو (understand) _____؟
- ۸۔ جی نہیں۔ میں اُردو _____ اور (read and write) _____
- ۹۔ ہم لوگ سب فٹبال (play) _____
- ۱۰۔ کیا، آپ ہر صبح پھل (eat) _____؟
- ۱۱۔ مڈونا بہت اچھا (sing) _____
- ۱۲۔ لڑکیاں نجمرات کو نہیں (come) _____
- ۱۳۔ کویتا اور نیلو مٹھائی نہیں (give) _____

میرا دوست روی _____ (is) - روی ایم۔ آئی۔ ٹی میں _____ (studies) - روی
بہت اچھا اسٹوڈنٹ _____ (is) - روی کے دو بھائی رمیش اور راج _____

(are) - ہمیش اور راج اردو (understand) - مگر اردو

(don't read) - وہ لوگ کیمبرج میں (live) اور ہر روز صبح کالج

(go) - وہ دوپہر کو دفتر میں (do work) - وہ ہر اتوار کو ٹائیٹ کلب میں

اور (sing and dance) - کبھی کبھی شام کو وہ کافی

(eat) اور مٹھائی (drink)

Answer the following questions both orally and in writing:

- ۱۔ آپ ہر روز دوپہر کو کیا کرتے ہیں؟
- ۲۔ آپ گھر کب جاتے ہیں؟
- ۳۔ کیا، امریکن لوگ اتوار کو کام کرتے ہیں؟
- ۴۔ آپ کا دوست کہاں پڑھتا ہے؟
- ۵۔ کیا، وہ کبھی کبھی سنیما جاتا ہے؟
- ۶۔ آپ لوگ منگل کو کیا کرتے ہیں؟
- ۷۔ کیا، آپ جمعرات کو مصروف ہیں؟
- ۸۔ آپ کے پروفیسر کب کام کرتے ہیں؟
- ۹۔ آپ کے دوست ہر صبح کیا کرتے ہیں؟
- ۱۰۔ کیا، آپ شام کو کافی پیتے ہیں؟

5.6 The Verb چاہنا with Nouns and Verbs

In this section we will be discussing two uses of the verb چاہنا, to want, to desire.

1. چاہنا with a noun:

The noun becomes the object of چاہنا, that is the object which is desired:

چاہتی ہوں۔

پھل

میں

verb

inanimate object of verb

subject

I want fruit.

2. چاہتا with a verbal infinitive:

The verbal infinitive in this construction becomes the object of چاہتا:

چاہتا ہوں	کھانا	میں
verb	verbal infinitive	subject

I want to eat.

Note that in such a construction only the verb چاہتا is conjugated. The verbal infinitive remains unchanged. To form the negative, the particle نہیں may be inserted before the verbal infinitive with the auxiliary of ہوتا being optionally retained or not for emphasis:

چاہتا (ہوں)	کھانا	نہیں	میں
verb	verbal infinitive	negative	subject

For additional emphasis, the negative may be placed between the verbal infinitive and verb:

چاہتا (ہوں)	نہیں	کھانا	میں
verb	negative	verbal infinitive	subject

For even more emphasis, the negative can be moved to the end of the sentence:

نہیں!	چاہتا	کھانا	میں
negative	verb	verbal infinitive	subject

5.6 Substitutions and Translations

Replace the phrases within brackets in the following sentences with the Urdu equivalents of the English phrases listed below.

۱۔ میں (بیس آم) چاہتا ہوں۔

21 fruits

22 apples

23 houses

24 things

۲۔ کیا، (تم) (ایک گاڑی) (چاہتے ہو؟)

want 25 pens they

want 26 oranges you (formal)

wants 27 hats she

want 28 mangoes Raj and Nargis

۳۔ (ہم) (ناچنا چاہتے ہیں۔)

want to sing I

want to play you (least formal)

want to drink you (informal)

wants to understand Rob

۴۔ علی (کتاب) (لکھنا) چاہتا ہے۔

read newspaper

give that thing

drink water

take 30 books

۵۔ (وہ) (تاج محل) (دیکھنا چاہتی ہے)۔

wants to go New York Steve

do not want to go cinema Steve and Amber

want to stay at home people

want to live in Bollywood you (formal)

Translate into Urdu:

1. We want to sing every evening.
2. My friend and Rishi want to eat Indian food in an Indian restaurant.
3. He wants to come to America; he does not want to live in India!
4. She wants to understand Chinese not Russian.
5. All of them want to read the newspaper in the morning.
6. I want to go to the movies but Sheila wants to stay in the house.
7. Do you (formal) want to work in the White House? No, I don't want to work in the White House. I want to eat dinner and dance in the White House.

5.7 Pronunciation Drill: Retroflexes

Column 3	Column 2	Column 1
دوڑنا	چھوڑنا	برا بڑا
پھوڑنا	توڑنا	کرا کڑا
جھاڑ	پہاڑ	گرا گڑا
داڑ	باڑ	جرا جڑا
واڑا	باڑہ	گھورا گھوڑا
کاڑا	جاڑہ	مورا موڑا
جھگڑا	نگڑا	گری گھڑی
نگڑی	پکڑی	سری سیڑھی
کھوڑی	نگوڑی	مورنا موڑنا

Repeat the following sentences to practice retroflexive sounds:

- ۱۔ بڑا گھوڑا دوڑتا ہے۔
- ۲۔ بڑا پہاڑ اچھا ہے۔
- ۳۔ نگوڑی گھوڑی بوڑھی ہے۔
- ۴۔ گھوڑا گھڑی گاڑتا ہے۔

5.8 گفتگو (Conversation)

- نرگس: کیا، یہ لکھنؤ اسٹیشن کا ٹکٹ گھر ہے؟
 کلرک: جی ہاں۔ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟
 نرگس: میں بنارس جانا چاہتی ہوں۔ فرسٹ کلاس کا کرایہ کیا ہے؟
 کلرک: فرسٹ کلاس کا کرایہ دو سو روپے ہے۔ آپ کہاں رہتی ہیں؟
 نرگس: میں امریکہ میں رہتی ہوں مگر میں ہر سال ہندوستان آتی ہوں۔ یہاں میرا خاندان رہتا ہے۔ اچھا، فرسٹ کلاس کا کرایہ بہت زیادہ ہے۔ سیکنڈ کلاس کا کرایہ کیا ہے؟
 کلرک: میڈم یہ بہت مشکل ہے۔ سیکنڈ کلاس میں جگہ نہیں ہے۔
 (راج آتا ہے۔)

- راج: نرگس! تم یہاں؟ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟
 نرگس: راج، میں بنارس جانا چاہتی ہوں۔ وہاں کے مندر دیکھنا چاہتی ہوں اور ساڑیاں خریدنا چاہتی ہوں۔
 راج: میں بھی بنارس دیکھنا چاہتا ہوں اور میں بنارس میں پان بھی کھانا چاہتا ہوں۔ یہ ٹرین کے دو ٹکٹ ہیں۔
 نرگس: راج! تم بہت اچھے ہو! میں کتنی خوش ہوں!

کلرک: (راج سے) آپ کیوں نکلٹ دیتے ہیں؟ کیا، آپ یہاں کام کرتے ہیں؟
 راج: نہیں نہیں۔ میں آسمان کا تارا ہوں۔ میں کام نہیں کرتا، صرف پیار کرتا ہوں۔

نرگس: راج! تم تو بالکل پاگل ہو! یہ ٹرین کب جاتی ہے؟
 راج: یہ شام کو جاتی ہے۔ اچھا تمہارے شوق کیا ہیں؟
 نرگس: میں بہت کتابیں پڑھتی ہوں۔ ٹینیس اور شطرنج بھی کھیلتی ہوں۔
 راج: کیا تم اب شطرنج کھیلنا چاہتی ہو؟
 نرگس: نہیں۔ میں مصروف ہوں!

5.9 Conversation Practice

Have a conversation with your partner about his/her activities in the morning, afternoon, evening, and night. You should have at least 6-8 questions for your partner and vice versa. All answers should be in complete sentences. Your conversations should incorporate as many of the following vocabulary words as possible:

صبح، دوپہر، شام، رات، کھانا، پینا، دیکھنا، رہنا، ناچنا، گانا، چاہنا، خاندان، سمجھنا، آج کل، ہفتہ، اتوار، کبھی کبھی، کام کرنا، آنا، جانا۔

Be creative and feel free to bring in other vocabulary that we have encountered so far.

5.10 Songs

(۱) دل ہے کہ مانتا نہیں
 مشکل بڑی ہے رسمِ محبت
 یہ جانتا ہی نہیں۔۔۔۔

(۲) یاد تیری جب آتی ہے
 دل میں طوفان لاتی ہے
 آنسو ہیں میری آنکھوں میں
 ہر سانس میں تیرا نام ہے۔
 یاد تیری۔۔۔۔

Glossary for Songs

رسمِ محبت = rites, customs of love

آنسو = tears (m)

یاد = memory, remembrance (f)

سانس = breath (f)

طوفان = storm (m)

5.11 Vocabulary

afternoon (f)

دوپہر

Arabic (f)

عربی

to bring

لانا

busy

مصرف

to buy

خریدنا

chess (f)

شطرنج

to come

آنا

to be convinced, to listen, to

ماننا

obey

crazy, mad, insane	پاگل
to dance	ناچنا
day (m)	دن
day before yesterday; day after	پرسوں
tomorrow	
definitely, sure	ضرور
difficult	مشکل
to do	کرنا
to drink	پینا
to eat	کھانا
evening (f)	شام
every	ہر
every day (m)	ہر دن، ہر روز
every month (m)	ہر مہینہ
every week (m)	ہر ہفتہ
every year (m)	ہر سال
eye (f)	آنکھ
family (m)	پروار، خاندان
fare, rent (m)	کرایہ
food (m)	کھانا
Friday (m)	جمعہ
to give	دینا

to go	جانا
happy	خوش
hobby/hobbies (m)	شوق
hundred	سو
to know	جاننا
less	کم
to live or to stay	رہنا
a lot, very much	زیادہ
love	پیار (m) / محبت (f) / عشق (m)
to love	پیار کرنا، محبت کرنا
mango (m)	آم
memory, remembrance (f)	یاد
Monday (m)	پیر
morning (f)	صبح
newspaper (m)	اخبار
now	اب
occasionally, now and then	کبھی کبھی
people, folk (m)	لوگ
place/vacancy (f)	جگہ
to play	کھیلنا
rupee (Indian/Pakistani currency) (m)	روپیہ

Saturday (m); week (m)	ہفتہ
to see	دیکھنا
to sing	گانا
to study/ to read	پڑھنا
Sunday (m)	اتوار
sweets (f)	میٹھائی
to take	لینا
temple (m)	مندر
that, which, who (relative pronoun and conjunction)	کہ
these days / nowadays	آج کل
Thursday (f)	جمعرات
today (m)	آج
tomorrow/yesterday (m)	کل
Tuesday (m)	منگل
to understand	سمجھنا
water (m)	پانی
Wednesday (m)	بدھ
when (relative pronoun)	جب
why?	کیوں
wine/alcohol (f)	شراب
to work	کام کرنا

to write

لکھنا

yogurt drink (f)

لسی

Chapter 6

6.1 Postpositions

Unlike English, Urdu does not have prepositions. Instead it has postpositions: that is, the prepositional counterpart in Urdu comes after the noun or pronoun it modifies. Some postpositions consist of only one word and are called simple postpositions while others consist of more than one word, hence they are called compound postpositions.

Common simple postpositions include:

at, in	میں
on	پر
from, by, with, since	سے
to	کو
until, up to	تک

Compound postpositions are usually formed with the particle کے or occasionally with سے.

Some important examples include:

near	کے پاس
concerning, regarding, about	کے بارے میں
far from	سے دور
with	کے ساتھ
before	سے پہلے، کے پہلے
after	کے بعد

on top of	کے اوپر
under	کے نیچے
across, in front of	کے سامنے
behind	کے پیچھے
near, close to	کے نزدیک / کے قریب
beyond, in front of, ahead of	کے آگے
inside	کے اندر
because of	کی وجہ سے

Note: Pronouns that precede compound postpositions beginning with **کے** assume their possessive forms as discussed in Chapter 4. Thus, the pronoun **میں** before **کے ساتھ** becomes **میرے**, hence **میرے ساتھ**. Similarly, the pronoun **میں** before **کی وجہ سے** becomes **میری وجہ سے**.

6.2 The Oblique Case – Oblique Forms of Nouns

Whenever a noun or a pronoun is followed by a postposition, the noun/pronoun (and its modifying adjective) goes into the oblique case. Without the postposition, the noun/pronoun and adjectives modifying them are said to be in the nominative case. Some nouns/pronouns reflect the oblique case by slight changes in their forms while others remain unchanged.

Exception: Some pronouns followed by a compound postposition use their possessive forms and not oblique forms. See section 6.6 below.

Oblique Forms of Nouns

Masculine Singular Nouns

When a postposition is used after a marked masculine singular noun which ends in final "alif"

l, the "alif" is changed to "baRii ye" ے. If the noun ends in a "choTii he," the "choTii he " is either changed to "baRii ye" or retained and pronounced as "e." For example:

Nominative: the boy لڑکا

Oblique: on the boy لڑکے پر

Nominative: child بچہ

Oblique: on the child بچے پر

Unmarked masculine singular nouns (i.e., those that do not end with final "alif") do not change their form in the oblique. Example:

Nominative: office دفتر

Oblique: in the office دفتر میں

Masculine Plural Nouns

When masculine plural nouns go into the oblique, the suffix "on" وں is attached to them.

Marked masculine nouns which end with "baRii ye" ے in the nominative plural, drop this ending before taking the "on" وں suffix. Examples:

a) Marked

Nominative: boys لڑکے

Oblique: with the boys لڑکوں کے ساتھ

b) Unmarked

Nominative: offices دفاتر

Oblique: in the offices دفاتروں میں

Feminine Singular Nouns

When feminine singular nouns are followed by a postposition, their form remains unchanged

regardless of whether they are marked or unmarked. Examples:

a) Marked

Nominative: girl لڑکی
Oblique: from the girl لڑکی سے

b) Unmarked

Nominative: table میز
Oblique: on the table میز پر

Feminine Plural Nouns

All feminine plural nouns take the "on" وں ending in their oblique forms. Note: The "on" وں suffix is added to the singular form of feminine nouns.

a) Marked

Nominative: girls لڑکیاں
Oblique: from the girls لڑکیوں سے

b) Unmarked

Nominative: tables میزیں
Oblique: on the tables میزوں پر

Summary of Oblique Form Endings for Nouns

<u>Type of noun</u>	<u>Singular Oblique Ending</u>	<u>Plural Oblique Ending</u>
Marked masculine	"e" ے	"on" وں
Unmarked masculine	same as nominative	"on" وں
Marked feminine	same as nominative	"on" وں
Unmarked feminine	same as nominative	"on" وں

6.2 Drill Exercise

Give the nominative plural, singular oblique, and plural oblique forms of the following nouns:

۱۔ کیلا	۴۔ ٹوپی	۷۔ میز	۱۰۔ ملک
۲۔ سیب	۵۔ کام	۸۔ قالین	۱۱۔ دوست
۳۔ مہینہ	۶۔ بھائی	۹۔ گاڑی	۱۲۔ پھل
۱۳۔ مکان	۱۵۔ جوتا	۱۷۔ کتاب	۱۹۔ تصویر
۱۴۔ روٹی	۱۶۔ بوڑھا	۱۸۔ کہانی	۲۰۔ دکان

6.3 Oblique Forms of Demonstratives

When یہ (this) is followed by a postposition, its oblique singular form is اِس۔ When وہ (that) is followed by a postposition, its oblique singular form is اُس۔ The oblique plural form of یہ is اِن and that of وہ is اُن۔ Examples:

Nominative Singular

this boy

یہ لڑکا

that boy

وہ لڑکا

Nominative Plural

these girls

یہ لڑکیاں

those girls

وہ لڑکیاں

Oblique Singular

on this boy

اِس لڑکے پر

on that boy

اُس لڑکے پر

Oblique Plural

with these girls

اِن لڑکیوں کے ساتھ

with those girls

اُن لڑکیوں کے ساتھ

6.4 Oblique Forms of Adjectives

Marked Adjectives

a) Singular Masculine: These adjectives change the word final "alif" | ending to "baRii ye"

ے in the oblique.

Nominative

this good boy

یہ اچھا لڑکا

that big house

وہ بڑا گھر

Oblique

with this good boy

اس اچھے لڑکے کے ساتھ

in that big house

اُس بڑے گھر میں

b) Plural Masculine, Singular Feminine, Plural Feminine:

These adjectives do not change their form in the oblique.

Plural Masculine:

اچھے لڑکوں کے ساتھ

with the good boys

Singular Feminine:

اچھی لڑکی کے ساتھ

with the good girl

Plural Feminine:

اچھی لڑکیوں کے ساتھ

with the good girls

Unmarked Adjectives

These adjectives do not change their form in the oblique, regardless of number or gender. Study

the following examples with the adjective ہوشیار (intelligent).

Masculine Singular Nominative

ہوشیار لڑکا

Masculine Singular Oblique

ہوشیار لڑکے سے

Masculine Plural Nominative

ہوشیار لڑکے

Masculine Plural Oblique

ہوشیار لڑکوں سے

Feminine Singular Nominative

ہوشیار لڑکی

Feminine Singular Oblique

ہوشیار لڑکی سے

Feminine Plural Nominative

ہوشیار لڑکیاں

Feminine Plural Oblique

ہوشیار لڑکیوں سے

6.5 Oblique Forms of Pronouns

When certain pronouns are followed by postpositions, they assume a special form. Here is a list of the pronouns in their nominative and oblique forms.

Singular

Nominative

میں

تو

تم

آپ

وہ

یہ

Oblique

مجھ

تجھ

تم

آپ

اُس

اِس

Plural

Nominative

ہم

تم

آپ

وہ

یہ

Oblique

ہم

تم

آپ

اُن

اِن

6.6 Note on کا، کے، کی

As we have learned previously, کا، کے، کی are particles indicating possession. The gender and number of the object being possessed determines which form is used: کا for masculine singular, کے for masculine plural, and کی for feminine singular and plural. They function just as postpositions after nouns, as they put nouns into the oblique case.

the boy's name	لڑکے کا نام
the boys' names	لڑکوں کے نام
the girl's thing	لڑکی کی چیز
the girls' things	لڑکیوں کی چیزیں

When preceding کا، کے، کی, certain pronouns, however, take the possessive form instead of the oblique:

میرا	=	کا	+	میں
تیرا	=	کا	+	تو
تمہارا	=	کا	+	تم
ہمارا	=	کا	+	ہم
میری	=	کی	+	میں
تیری	=	کی	+	تو
تمہاری	=	کی	+	تم
ہماری	=	کی	+	ہم

6.4-6.6 Reading and Translation Drill

۱۔ مجھ میں کیا خرابی ہے؟

- مجھ میں بہت خرابیاں ہیں۔
 ان چیزوں میں بہت خرابیاں ہیں۔
 تم میں ایک بھی خرابی نہیں۔
 ۲۔ اس پلنگ پر کیا ہے؟
 اس پلنگ پر ایک کتاب ہے۔
 اس بڑی دکان پر کون آتا ہے؟*
 اس بڑی دکان پر بہت لوگ آتے ہیں۔*
 ۳۔ وہ مجھ سے ڈالر لیتا ہے۔
 کیا، وہ تجھ سے کتابیں لیتا ہے؟
 نہیں، وہ مجھ سے نہیں، اُن سے کتابیں لیتا ہے۔
 وہ لڑکیاں ہم سے کھانا نہیں لیتیں۔

* دوکان پر، literally meaning "on the store," idiomatically implies "at the store."

Fill in the blanks with the appropriate form of the noun, pronoun, or adjective.

- ۱۔ _____ بہت اچھا ہے۔ (the fruitseller)
 ۲۔ _____ کام اچھا ہے۔ (the fruitseller's)
 ۳۔ _____ دفتر بڑا ہے۔ (my)
 ۴۔ _____ دفتر میں پندرہ لڑکیاں کام کرتی ہیں۔ (my)
 ۵۔ _____ کہاں ہے؟ (that book)
 ۶۔ _____ نام کیا ہے؟ (that book's)
 ۷۔ _____ اچھی ہیں۔ (these books)
 ۸۔ _____ میں کیا ہے؟ (these books)
 ۹۔ _____ میں کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ (good boys)

- ۱۰۔ _____ لڑکوں کے نام کیا ہیں؟ (your [informal])
- ۱۱۔ یہ _____ ہے۔ (good thing)
- ۱۲۔ _____ کے اوپر کیا ہے؟ (these good things)
- ۱۳۔ کیا، _____ میں خرابی ہے؟ (me)
- ۱۴۔ _____ نہیں، میں خرابی نہیں۔ (you [least formal])
- ۱۵۔ _____ میں بارہ کمرے ہیں۔ (that big house)
- ۱۶۔ _____ میں بیس کمرے ہیں۔ (our office)
- ۱۷۔ _____ پر کون ہے؟ (at these stores)
- ۱۸۔ _____ وہ _____ سے کتابیں نہیں لیتا۔ (me)

6.7 The Interrogative کون and Its Oblique Forms

کون in its nominative form means "who" or "which."

وہ لڑکا کون ہے؟

Who is that boy?

یہ صاحب کون ہیں؟

Who is this gentleman?

کون صاحب ہیں؟

Which gentleman is it?

When کون goes into the oblique, its singular form is کس while its oblique plural form is کن.

In the oblique form, it may mean "whose," "whom," "which," or "what."

یہ کس کی کتاب ہے؟

Whose book is this?

وہ کس کا گھر ہے؟

Whose house is that?

یہ کُن کے اخبَار ہیں؟

Whose (plural) newspapers are these?

آپ کُن کے ساتھ گاتے ہیں؟

With whom (plural) do you sing?

یہ چیز کس کتاب میں ہے؟

In which book is this thing?

کلاس کس وقت ہے؟

At what time is the class?

In the last example we see that the oblique case can exist even when a postposition is not explicitly present. (The Urdu sentence does not have a postposition for "at" after the noun وقت). Since the postposition is implied, this form is known as the implied oblique. In idiomatic Urdu, postpositions are often left out after temporal and locative nouns but their existence is nevertheless assumed. This assumption is evident in the fact that the noun and adjective related to time and location of an action go into the oblique case without an explicit postposition.

وہ کس وقت گھر جاتا ہے؟

At what time does he go home?

It is assumed that وقت is followed by a postposition, پر, but the rules of idiomatic Urdu do not recommend that the postposition be explicitly stated. But as the use of the oblique form of the interrogative adjective کس illustrates, the noun وقت that it modifies is in the oblique case.

In many locative expressions, the same rule is applied.

وہ دفتر جاتا ہے۔

He goes to the office.

دفتر is in the oblique case with the postposition میں or پر implied after it.

وہ ڈاکخانے جاتا ہے۔

He goes to the post office.

ڈاکخانہ has been changed into ڈاکخانے because of the implied postposition which puts it in the oblique.

Note that کس can be followed by کی، کے، کا (depending upon the object it is modifying) when inquiring about the possessor of a thing:

وہ کس کا گھر ہے؟

Whose house is that?

وہ کس کے پھل ہیں؟

Whose fruits are those?

وہ کس کی چیز ہے؟

Whose thing is that?

6.8 Note on کے لئے

The compound کے لئے can mean "for," "for the sake of," or "in order to." Nouns and adjectives preceding it will be in the oblique case:

وہ علی کے لئے آتا ہے۔

He comes for Ali.

وہ اس لڑکی کے لئے آتا ہے۔

He comes for this girl.

وہ اچھے کیلوں کے لئے آتا ہے۔

He comes for good bananas.

In addition to nouns and adjectives, verbal infinitives can also occur before کے لئے. In such instances, the infinitives will take the oblique case. For example, کھانا will become کھانے, کرنا will become کرنے, etc.

وہ کھانے کے لئے آتا ہے۔

He comes [in order] to eat.

وہ ناچنے کے لئے آتی ہے۔

She comes [in order] to dance.

Exception: Several pronouns followed by کے لئے do not go into the oblique case. Instead, they assume the possessive form.

for me	میرے لئے	=	کے لئے	+	میں
for you	تیرے لئے	=	کے لئے	+	تو
for you	تمہارے لئے	=	کے لئے	+	تم
for us	ہمارے لئے	=	کے لئے	+	ہم

See also section 6.6.

The لئے construction also has two common idiomatic usages:

therefore	اس لئے
why	کس لئے

Do not confuse the two aforementioned idiomatic expressions with:

for this one	اس کے لئے
for whom	کس کے لئے

6.7 - 6.8 Reading and Translation Drill

- ۱۔ میں تمہارے لئے آم لاتا ہوں۔
وہ اُن کے لئے گھر جاتا ہے۔
آپ ہمارے لئے کیا کرتے ہیں؟
میں آپ کے لئے کام کرتی ہوں۔
- ۲۔ تم گرمی کی وجہ سے بہت سوتی ہو۔
نہیں، میں گرمی کی وجہ سے بالکل نہیں سوتی۔
کام کی وجہ سے آج وہ یہاں نہیں گاتا۔
میں اس لڑکے کی وجہ سے وہاں جاتی ہوں۔
- ۳۔ میرے ساتھ ایک کتا ہے۔
ہمارے ساتھ ہمارا دوست ہے۔
کیا، اس کے ساتھ پولیس والا ہے؟
اُن کے ساتھ برما کا صدر ہے۔
- ۴۔ کیا، وہ تم سے پہلے آتا ہے؟
ان سے پہلے شیلا آتی ہے۔
ہمارے گھر سے پہلے ایک لال مکان آتا ہے۔
وہ بہت کام کی وجہ سے ہم سے پہلے دفتر جاتی ہے۔
- ۵۔ وہ پڑھنے کے بعد کھیلتا ہے۔
ان کے بعد کون گاتا ہے؟
اس کے بعد ہم گھر جاتے ہیں۔
ٹی۔ وی پر، مہابھارت کے بعد خبریں آتی ہیں۔
- ۶۔ ہمارے گھر کے اوپر ایک بلی رہتی ہے۔

- اس میز کے اوپر بہت مہنگی گھڑی ہے۔
وہ چھوٹا لڑکا میز کے اوپر ہے۔
اس چھوٹے لڑکے کے اوپر میز ہے!
۷۔ کیا، اس پلنگ کے نیچے کتابیں ہیں؟
نہیں۔ وہ کتابیں اُس کرسی کے نیچے ہیں۔
وہ میرے گھر کے نیچے رہتا ہے۔
اُن ٹوپوں کے نیچے کیا ہے؟
۸۔ اس گھر کے سامنے بہت بڑا بازار ہے۔
ان بازاروں کے سامنے ان کا دفتر ہے۔
میرے سامنے دیو ناچتا اور گاتا ہے۔
اس دکان کے سامنے کون رہتا ہے؟
۹۔ ہمارے دفتر کے قریب پھلوں کی دکانیں ہیں۔
اس بازار کے نزدیک ایک ہسپتال ہے۔
ہمارا گھر حیدر آباد کے قریب ہے۔
ان عمارتوں کے نزدیک ایک بہت بڑا باغ ہے۔
۱۰۔ ہمارے دفتر کے آگے چار باغ ہیں۔
ان باغوں کے آگے کیا ہے؟
لڑکے اسکول کے آگے کھیلتے ہیں۔
کیا تمہارا گھر میرے گھر کے آگے ہے؟
۱۱۔ اس عمارت کے اندر بہت کمرے ہیں۔
اُس جوتے کے اندر کیا ہے؟
وہ ہر روز اس کمرے کے اندر ٹی۔وی دیکھتا ہے۔

- اُس گھر کے اندر کون رہتا ہے؟
 ۱۲۔ ہمارے گھر کے پاس بہت بڑا بازار ہے۔
 ان کے دفتر کے پاس دس کتے رہتے ہیں۔
 آپ کی عمارت کے پاس وہ بڑی دکان ہے، کیا؟
 جی نہیں۔ وہ بڑی دکان اس عمارت کے پاس ہے۔
 ۱۳۔ آپ کس گھر میں رہتے ہیں؟
 علی کے ساتھ کون رہتا ہے؟
 علی کس کے ساتھ رہتا ہے؟
 وہ کس کی دکانیں ہیں؟

Translate the following into Urdu:

1. Ashok comes here every day to eat.
2. With whom does he come?
3. Whose houses are those?
4. Sheila and Sunita go to the club to dance every night, but they don't drink alcohol.
5. Does he bring food for them every day?
6. I buy this car for you (your sake).
7. I go to London every year to watch tennis.
8. With whom do you sing? With crazy Raj?
9. What time is their class every day?
10. We come to Harvard [in order] to study but go to that office [in order] to work.
11. Because of love, there are tears in Nargis' eyes!

6.7 - 6.8 Substitutions

Replace the phrases in brackets with the Urdu equivalents of the English words indicated below.

۱۔ وہ (ہمارے لئے) کام کرتے ہیں۔

you (least formal)

him

them

me

۲۔ (میری) وجہ سے علی نہیں آتا ہے۔

you (informal)

us

them

that girl

۳۔ کیا، تم (اُن) کے ساتھ پڑھتے ہو؟

me

us

those girls

those boys

۴۔ وہ (تمہارے) پہلے کھاتا ہے؟

her

you (formal)

the Pakistani president

that boy

۵۔ (ہمارے) بعد کون آتا ہے؟

me

you (informal)

them

his friend

۶۔ (اس) کے اوپر کیا ہے؟

that

our house

their thing

their things

۷۔ (پلنگ) کے نیچے ایک کتا ہے۔

that

window

this

those houses

۸۔ ہم (سیما) کے سامنے نہیں ناچتیں۔

you (formal)

those boys

this building

my brother

۹۔ (اس) کے باغ کے پیچھے بہت بڑا بازار ہے۔

our

their

my

his friend

۱۰۔ تم (میرے) قریب رہتے ہو۔

us

house

that building

this market

۱۱۔ (تمہارے گھر) کے آگے کیا ہے؟

these houses

those houses

that big building

this beautiful market

۱۲۔ (اُس بڑے گھر) کے اندر (دس) کمرے ہیں۔

twenty-five

this big building

seven

my house

twelve

our friend's house

twenty-eight

her office

۱۳۔ (اِس عمارت) کے پاس ایک بہت بڑا بازار ہے۔

these buildings

our office

that big store

this poet's house

۱۴۔ وہ (ہمارے) بارے میں کیا کہتا ہے؟

Pakistanis

our friends

that car

Aishwarya Rai and Salman Khan

۱۵۔ آج کل وہاں (کون) ہے؟

whose house

whose things

whose store

whose newspapers

6.9 Pronunciation Drill: Aspirated, Perso-Arabic, and Retroflexive Sounds II

Column 2

جھولا

گھر

چھری

جھنڈا

تڑپنا

مردہ

بھائی

بہن

مدھڑ

Column 1

خراب

اچھا

غم

خوشی

موقع

باغ

عادت

غنچہ

مقبول

مغرور	مدھوبن
بھاڑ	رادھا
پھاڑ	نٹ کھٹ
مہاڑی	کنہیا
ساڑھی	ابھاگن
گاڑی	بھارت
کنواری	بھومی
جھاڑو	قلم
مغل	نُٹھ
شغل	رقص
بغل	فُغاں

6.10 گفتگو (Conversation)

ٹیلیفون پر گفتگو

- راج: ہلو۔ نمستے جی۔ آپ کون؟
- نرگس: راج؟ میں ہوں، نرگس۔ کیا حال ہے؟
- راج: سب ٹھیک ہے۔ اچھا، تم ہر روز اس وقت کیا کرتی ہو؟
- نرگس: تم یہ کیوں پوچھتے ہو؟
- راج: میں آج تمہارے ساتھ کھانے کے لئے جانا چاہتا ہوں۔
- نرگس: نہیں، نہیں۔ میں ہر روز اس وقت سنیل کے ساتھ جاتی ہوں۔
- راج: تم سنیل کے ساتھ کیوں جاتی ہو؟
- نرگس: کیونکہ میں اس کے ساتھ پڑھتی ہوں اور اس کے بعد ہم باغ میں ٹہنیس کھیتے ہیں۔

راج: تم اور سنیل ٹینیس کھیتے ہو؟ اچھا! تم کس باغ میں کھیتے ہو؟
 زرگس: ہم جین پارک میں کھیتے ہیں۔
 راج: اور جین پارک کہاں ہے؟
 زرگس: جین پارک یونیورسٹی کے سامنے اور سنیل کے گھر کے پیچھے ہے۔
 راج: تو سنیل تمہارا اچھا دوست ہے! وہ کہاں سے ہے؟
 زرگس: راج، یہ کیا ہے؟ سنیل بہت اچھا لڑکا ہے اور ٹینیس میرا شوق ہے۔
 راج: ہاں، ہاں۔ سنیل اچھا ہے اور میں خراب ہوں۔ اب میں سونے کے لئے جاتا ہوں۔
 زرگس: کیا، تم ناراض ہو؟ تم میں کوئی خرابی نہیں ہے۔
 راج: نہیں۔ مجھ میں بہت خرابیاں ہیں۔ میں سونے کے لئے جاتا ہوں۔
 زرگس: اچھا! کیا، تم ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہو؟
 راج: کیا؟! ہاں ٹھیک ہے۔ میں ابھی آتا ہوں۔ تم، میں اور باغ!
 زرگس: اور سنیل! راج تم بالکل پاگل ہو۔
 راج: ہاں۔ میں تمہاری وجہ سے پاگل ہوں!
 زرگس: راج تم تو میرے ساجن ہو۔
 راج: اور تم، میری جان!

6.11 Conversation Practice

Andy: Hello, Jane. How are you?

Jane: Fine, thanks. What is this?

Andy: These are apples, bananas, and mangoes. These are for you.

Jane: Thanks so much. Is there a fruit seller's store near your house?

Andy: No. It's in front of my office, behind that big building.

Jane: Do you go to get fruit every day?

Andy: No, I go every week. Why?

Jane: I want to go with you. There is a problem [fault: خرابی] in my car. With whom do you go?

Andy: I go with my friend Ashok. He lives above my apartment.

Jane: Do you want to go with me now?

Andy: Yes, I want to buy oranges as well.

6.12 Songs

۱۔ زندگی امتحان لیتی ہے (۲)
لوگوں کی جان (۳) لیتی ہے
دل لگی امتحان لیتی ہے (۲)
دل جلوں کی جان (۳) لیتی ہے
دوستی امتحان لیتی ہے (۲)
دوستوں کی جان (۳) لیتی ہے
زندگی امتحان لیتی ہے
دل لگی امتحان لیتی ہے
دوستی امتحان لیتی ہے

۲۔ میرا دل بھی کتنا پاگل ہے
یہ پیار تو تم سے کرتا ہے
پر سامنے جب تم آتے ہو
کچھ بھی کہنے سے ڈرتا ہے

او میرے ساجن، او میرے ساجن
 ساجن ساجن، میرے ساجن
 میرا دل بھی۔۔۔(دہرائیے)

کتنا اس کو سمجھاتا ہوں
 کتنا اس کو بہلاتا ہوں
 نادان ہے کچھ نہ سمجھتا ہے
 دن رات یہ آہیں بھرتا ہے
 میرا دل بھی۔۔۔(دہرائیے)

Glossary for Songs

دل لگی = attachment, friendship, love (f) نادان = ignorant, foolish
 دل جلا = lover; one with burned heart (m) آہیں بھرتا = to sigh
 بہلانا = to amuse, to cheer, to distract

6.13 Vocabulary

after	کے بعد
angry; upset	ناراض
any; some (adj); someone (noun)	کوئی
to ask	پوچھنا
bad	خراب
because	کیونکہ
because of	کی وجہ سے
bed (m)	پلنگ

before	کے ا سے پہلے
behind	کے پیچھے
beloved, sweetheart (m)	ساجن
building (f)	عمرات
chair (f)	کرسی
clock/watch (f)	گھڑی
to explain, to cause to	سمجھانا
understand	
fault, blemish, (f)	خرابی
for the sake of, for, in order to	کے لئے
friendship (f)	دوستی
fruit seller (m/f)	پھل والا یا پھل والی
garden (m)	باغ
heat, hot weather (f)	گرمی
in front of, across, facing	کے سامنے، کے آگے
inside	کے اندر
king (m)	راجہ
life, soul; sweetheart; energy (f)	جان
Mahabharata -- Indian epic	مہابھارت
market/bazaar (m)	بازار
to meet	میلنا

near	کے نزدیک / کے قریب
news (f)	کے پاس خبر
now	اب
on top of	پر، کے اوپر
post office (m)	ڈاک خانہ
reason (f)	وجہ
regarding	کے بارے میں
to say, to speak	کہنا
to sleep	سونا
test, trial, examination (m)	امتحان
therefore	اس لئے
time (m)	وقت
under	کے نیچے
who	کون
window (f)	کھڑکی
with (in the company of)	کے ساتھ
for what reason, why	کس لئے (کیوں)

Chapter 7

7.1 Expressing Potentials with سکتا

The verb سکتا (to be able to, or can) is never used by itself. It always needs the stem of another verb before it:

to be able to study پڑھ سکتا

to be able to eat کھا سکتا

Note that when conjugating this construction, only the verb سکتا changes. The stem of the verb which is attached to سکتا does not change under any circumstances.

میں ہارورڈ جا سکتا ہوں۔

I can go to Harvard.

وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں۔

They can read a book.

کیا، تم ناچ سکتے ہو؟

Can you dance?

Verbs which combine سکتا with the stem of another verb are called compound verbs.

7.2 نہیں with Compound Verbs

In order to form a negative sentence with compound verbs, there are three options:

1. The particle نہیں precedes the compound verb block:

وہ نہیں پڑھ سکتے۔

2. The particle نہیں is placed between the verb stem and سکتا :

وہ پڑھ نہیں سکتے۔

3. The particle نہیں is placed at the end:

وہ پڑھ سکتے نہیں۔

The gradual shift of the negative particle to the end of the sentence corresponds to an increasing emphasis in negation. Hence example 3 is the most emphatic.

7.3 Further Uses of اور

In addition to being a conjunction meaning "and," اور can also mean "more" and "further."

تم اور کھانا چاہتے ہو؟

Would you like to eat more?

آپ اور گانے گاتی ہیں؟

Can you sing more?

7.1-7.3 Reading and Translation Drill

۱۔ میں اردو پڑھ سکتا ہوں مگر لکھ نہیں سکتا۔

کیا، تم اردو لکھ سکتے ہو؟

جی نہیں۔ ہم اردو نہیں لکھ سکتے۔

وہ سب لوگ اردو پڑھ سکتے ہیں۔

۲۔ وہاں گرمی ہے۔ میں وہاں نہیں سو سکتا۔

ہم وہاں مل سکتے ہیں، مگر ناچ نہیں سکتے۔

وہ پیشاور جا سکتی ہیں مگر جانا نہیں چاہتیں۔

وہ اردو سمجھ سکتی ہیں مگر پڑھنا نہیں چاہتیں۔

۳۔ وہ میرے گھر آ سکتے ہیں مگر آنا نہیں چاہتے۔

میں اور نہیں پی سکتی۔
کیا، تم اور ناچ سکتی ہو؟
نہیں، مگر میں اور گا سکتی ہوں۔

7.4 The Present Continuous Tense

The present continuous tense is formed in Urdu by combining the following components:

the verb stem + the appropriate form of the participle of the verb رہنا رہا : رہا (for masculine singular subject), رہے (for masculine plural subject), رہی (for feminine singular/plural subject) + present tense form of ہونا agreeing with the subject.

<i>Feminine</i>	<i>Singular</i>	<i>Masculine</i>
میں پڑھ رہی ہوں۔	I am studying.	میں پڑھ رہا ہوں۔
تو پڑھ رہی ہے۔	You are studying.	تو پڑھ رہا ہے۔
تم پڑھ رہی ہو۔	You are studying.	تم پڑھ رہے ہو۔
آپ پڑھ رہی ہیں۔	You are studying.	آپ پڑھ رہے ہیں۔
وہ پڑھ رہی ہے۔	He/She is studying.	وہ پڑھ رہا ہے۔
<i>Plural</i>		
ہم پڑھ رہی ہیں۔	We are studying.	ہم پڑھ رہے ہیں۔
تم پڑھ رہی ہو۔	You are studying.	تم پڑھ رہے ہو۔
آپ پڑھ رہی ہیں۔	You are studying.	آپ پڑھ رہے ہیں۔
وہ پڑھ رہی ہیں۔	They are studying.	وہ پڑھ رہے ہیں۔

To form a negative sentence with this tense, place نہیں before the beginning of the verb block and drop the ہونا auxiliary unless you want to be emphatic. وہ نہیں پڑھ رہی۔ (She is not studying).

7.4 Reading and Translation Drill

- ۱۔ میں اخبار پڑھ رہا ہوں۔
وہ خط پڑھ رہے ہیں۔
یہ لڑکی کتاب پڑھ رہی ہے۔
ہم لوگ آج کا اخبار پڑھ رہے ہیں۔
- ۲۔ کیا، تم کھڑکی کھول رہی ہو؟
نہیں، میں دروازہ کھول رہی ہوں۔
وہ لڑکیاں ڈبہ کھول رہی ہیں۔
وہ لوگ کمرہ کھول رہے ہیں یا نہیں؟
- ۳۔ میں آج خط نہیں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ میں کتاب لکھ رہا ہوں۔
میں کھا رہی ہوں اور ٹی۔ وی دیکھ رہی ہوں۔
کیا، تم بھی ٹی۔ وی دیکھ رہے ہو؟
گھر میں ایک ریڈیو چل رہا ہے۔
- ۴۔ کیا آپ کپڑے بدل رہی ہیں؟
نہیں، نہیں۔ میں کچرا اٹھا رہی ہوں۔
وہ سب کپڑے بدل رہے ہیں۔
تو کپڑے بدل رہی ہے۔

7.5 The Comparative

In Urdu, all comparative and superlative expressions of adjectives are in relative terms. Thus, the comparative is expressed by saying, "x is bigger than y," while the superlative follows the form "x is the biggest of all." The postposition "سے" is used in Urdu in the same sense as "than" and "of" are used in English. The comparative subject appears in the beginning of the sentence

or phrase and that which the subject is being compared to follows it with the adjective agreeing with the comparative subject.

بڑا ہے۔	موہن سے	علی
adjective agrees with subject	object of comparison	subject

Ali is bigger (older) than Mohan.

بڑی ہے۔	علی سے	شیلا
adjective agrees with subject	object of comparison	subject

Sheila is bigger (older) than Ali.

Remember that سے is a postposition, so the nouns, pronouns, and adjectives governed by سے will be in the oblique case.

وہ لڑکے علی سے بڑے ہیں۔

Those boys are bigger (older) than Ali.

علی ان لڑکوں سے بڑا ہے۔

Ali is bigger (older) than these boys.

7.5 Substitutions

۱۔ (یہ سنترہ) اُس سیب سے اچھا ہے۔

those apples

those oranges

that fruit

these bananas

۲۔ میرا دوست (علی کے دوست) سے ہوشیار ہے۔

that boy

that beautiful girl

Harvard's students

Albert Einstein

۳۔ یہ میز (اُن میزوں) سے مہنگی ہے۔

those windows

those carpets

those pens

that book

7.5 Translation

Translate the following comparative statements:

1. Radha is more beautiful than Sunita.
2. Steve is brighter than Ali.
3. This girl is better than that boy (اچھی).
4. He is older than me (بڑا).
5. My shoes are more beautiful than the shoes of those girls.
6. Canada is cleaner than the U.S. because there are fewer people and less trash.
7. This picture is better than those pictures.
8. Is your (most formal) room bigger than my room?
9. These apples are more expensive than those apples.
10. Those carpets are cheaper than these carpets.

7.6 The Superlative

In order to form a superlative statement, the pronomial adjective (سب) is used before سے and

the rest of the sentence structure remains the same as it would in a comparative sentence.

میرا لڑکا سب سے ہوشیار ہے۔

My son is the brightest (of all).

میری لڑکیاں سب سے ہوشیار ہیں۔

My girls are the brightest (of all).

وہ سب سے بڑا ہے۔

He is the oldest (of all).

7.6 Translation

Translate the following superlative statements.

1. This is the most delicious thing.
2. This is the most expensive carpet.
3. That is the cleanest room.
4. That is my oldest boy.
5. Is he your best friend?
6. Ghalib (غالب) is the world's best poet.
7. My sister is the most beautiful girl.
8. Those are the most difficult books.
9. This picture is good but those pictures are the most beautiful.
10. Our house is the largest.

7.7 Persian Adjectival Elements

It is quite common for Urdu to use the Persian comparative and superlative adjectives. These adjectives are formed by the addition of the **تر** suffix (for comparative adjectives) and **ترین** suffix

(for superlative adjectives). The use of *تر* and *ترین* suffixes in Urdu is limited, for they can only be attached to adjectives of Persian origin.

good	بہ
better	بہتر
best	بہترین

یہ لڑکی اُس لڑکی سے بہتر ہے۔

This girl is better than that girl.

bad	بد
worse	بدتر
worst	بدترین

وہ بدترین نوکر ہے۔

He is the worst servant.

The Persian adjective پسندیدہ

پسندیدہ is a commonly used Persian adjective meaning "favorite."

ٹام کروز شیلہ کا پسندیدہ اداکار ہے۔

Tom Cruise is Sheila's favorite actor.

7.7 Reading and Translation Drill

- ۱۔ ہارورڈ اسٹیفنڈ سے بہتر ہے۔
- یہ پلنگ اُس پلنگ سے بہتر ہے۔
- یہ لڑکی اُس لڑکے سے بہتر ہے۔
- وہ لڑکے ان لڑکیوں سے بہتر ہیں۔
- کیا، نیپال سری لنکا سے بہتر ہے؟

- ۲۔ یہ بہترین ملک ہے۔
 فل کالز بہترین آدمی ہے۔
 یہ بہترین چیزیں ہیں، مگر مہنگی ہیں۔
 یہ قالین اُس قالین سے بہتر ہے، مگر وہ لال قالین بہترین ہے۔
- ۳۔ وہ ملک اس ملک سے بدتر ہے۔
 وہ لڑکیاں بدترین ہیں!
 کیا وہ لڑکا اس لڑکے سے بدتر ہے؟
 یہ بدترین کلاس ہے۔
 لاہور کی تیز ترین منی ٹرانسفر سروس کہاں ہے؟
- ۴۔ میرا پسندیدہ اداکار میٹ ڈیمن ہے۔
 میری پسندیدہ اداکارہ کرشمہ کپور ہے۔
 کیا، آپ کا پسندیدہ ملک امریکہ ہے؟
 ہاں۔ کیونکہ میرا پسندیدہ کھلاڑی ٹرائے ایکمن ہے اور وہ امریکہ میں فٹبال کھیلتا ہے۔

7.8 Expressing More or Less

In order to express "x is more than y" in Urdu, the expression **سے زیادہ** is used. Example :

یہ اُس سے زیادہ ہے۔

This is more than that.

اس کلاس میں اُس کلاس سے زیادہ لڑکے ہیں۔

In this class there are more boys than in that class.

A similar construction is used to express "x is less than y," but instead of **سے زیادہ**, **کم** is used.

یہ اُس سے کم ہے۔

This is less than that.

اس کلاس میں اُس کلاس سے کم لڑکے ہیں۔

Both زیادہ and کم can be combined with the comparative تر suffix as seen in the following examples:

اس یونیورسٹی میں زیادہ تر طالب علم امریکن ہیں۔

Students in this university are mostly American.

اس کتاب کی قیمت اُس سے بھی کمتر ہے۔

The price of this book is even less than that.

Note: زیادہ and کم rarely use the ترین suffix to express the superlative.

7.8 Translation

- علی: کیا، بوسٹن میں بہت لوگ رہتے ہیں؟
شاہین: نہیں جناب۔ بوسٹن میں نیو یارک سے کم لوگ رہتے ہیں۔
علی: اچھا! کیا وہاں گریٹلینڈ سے بھی کم لوگ رہتے ہیں؟
شاہین: کیا؟ نہیں، نہیں۔ بوسٹن میں گریٹلینڈ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔
علی: آپ بوسٹن میں مکان کا کرایہ کیا دیتے ہیں؟
شاہین: دو کمروں کے مکان کا کرایہ ایک ہزار ڈالر ہے۔
علی: یہ کرایہ بہت زیادہ ہے۔
شاہین: ہاں، مگر نیو یارک سے کم ہے۔

7.8 Reading and Translation Drill

- ۱۔ میرے گھر کا کرایہ اُن کے گھر کے کرائے سے زیادہ ہے۔
کیا، آپ کے گھر کا کرایہ ہمارے گھر کے کرائے سے زیادہ ہے؟
وہاں کا کرایہ یہاں کے کرائے سے بہت کم ہے۔
کیا، تمہاری دوکان کا کرایہ اس دوکان کے کرائے سے کم ہے؟

- ۲۔ کیا، دنیا میں سب سے زیادہ لوگ چین میں رہتے ہیں؟
 ہندوستان میں امریکہ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔
 کینیڈا میں امریکہ سے کم لوگ رہتے ہیں۔
 پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ کس شہر میں رہتے ہیں؟ کراچی میں یا لاہور میں؟

7.9 Cardinal Numbers 31-40

۳۱	ایکتیس یا اکتیس
۳۲	بیس
۳۳	تینتیس
۳۴	چونتیس
۳۵	پینتیس
۳۶	چھتیس
۳۷	سینتیس
۳۸	اڑتیس
۳۹	اُتالیس یا اُنچالیس
۴۰	چالیس

7.10 Aggregatives

In order to indicate total plurality in Urdu, the suffix **وں** is added to the numbers between two and ten, with the exception of six and nine:

both (special form)	دونوں
all three	تینوں
all four	چاروں
all five	پانچوں

all six	چھ کے چھ
all seven	ساتوں
all eight	آٹھوں
all nine	نو کے نو
all ten	دسوں

The numbers six, nine, and numbers larger than ten are expressed in such a construction by being repeated and separated from each other by the postposition کے/کی, depending upon the gender of the noun that follows the numerical adjective.

گیارہ کے گیارہ لڑکے or گیارہ لڑکیاں, meaning all eleven girls or boys

In order to express indefinite plurality, the suffix یوں or وں is added to the number. Common indefinite plurality adjectives are:

scores of	بیسوں
hundreds of	سیکڑوں یا سینکڑوں
thousands of	ہزاروں
hundreds of thousands of	لاکھوں
tens of millions of	کروڑوں

ہمارے ساتھ دونوں رہ سکتے ہیں۔

Both can live with us.

وہ تینوں لڑکیاں سندر ہیں۔

All three of those girls are beautiful.

وہاں نو کی نو لڑکیاں ناچتی ہیں۔

All nine girls dance over there.

کورنیل میں سینکڑوں لڑکے پڑھتے ہیں۔

Hundreds of boys study at Cornell.

کورنیل میں سو کے سو لڑکے پڑھتے ہیں۔

All hundred boys study at Cornell.

Note the difference between the last two sentences. The first sentence expresses indefinite plurality and the second one expresses total plurality.

7.10 Reading and Translation Drill

- ۱۔ ہم دونوں ایم۔ آئی۔ ٹی میں پڑھ رہے ہیں۔
کیا، آپ تینوں اس دکان میں کام کر رہے ہیں؟
بیسویں لوگ آج یہاں آ رہے ہیں۔
ٹیکساس میں ہزاروں طالب علم پڑھ رہے ہیں۔
- ۲۔ ٹام کروڑ سینتیس سال کا ہے۔
کیا، مڈونا صرف چالیس سال کی ہے؟
وہ پانچویں عورتیں (women) سینتیس سال کی ہیں۔
کیا، تم دونوں بیس سال سے یہاں کام کر رہے ہو؟
- ۳۔ کیا، اس گھر میں پندرہ کی پندرہ لڑکیاں رہ سکتی ہیں؟
ہاں۔ وہاں وہ اٹھارہ کے اٹھارہ لڑکے پڑھتے ہیں۔
چوبیس کے چوبیس طالب علم بس میں نہیں جا سکتے۔
سینتیس کی سینتیس تصویریں اچھی ہیں۔

7.11 The Future Tense

The simple present tense is frequently used to express the immediate future:

میں وہاں جاتا ہوں۔

I go there or I'll go there (immediate future).

The regular future tense is formed by the addition of two suffixes to the verb stem:

1st suffix: ں (1st person singular), ے (2nd, 3rd person singular), یں (1st, 2nd, 3rd person plural), و (2nd person ^{تم}).

2nd suffix: گی (feminine singular or plural), گے (masculine plural), گا (masculine singular).

The suffixes used depend on the number and gender of the subject.

The following example will make this more clear:

verb: پڑھنا		
stem: پڑھ		
<i>Feminine</i>	<i>Masculine</i>	<i>Pronoun Subject</i>
<i>Singular</i>		
پڑھوں گی	پڑھوں گا	میں
پڑھیگی	پڑھیگا	تو
پڑھوگی	پڑھوگے	تم
پڑھینگی	پڑھینگے	آپ
پڑھیگی	پڑھیگا	وہ/یہ
<i>Plural</i>		
پڑھیں گی/پڑھیں گے	پڑھیں گے	ہم
پڑھوگی	پڑھوگے	تم
پڑھیں گی	پڑھیں گے	آپ
پڑھیں گی	پڑھیں گے	یہ/وہ

There are three verbs that have irregular conjugations in the future tense on account of modifications in their verbal stems: to take, to give, and to be.

لینا - to take

Feminine

لوں گی
لیں گی
لوں گی
لیں گی
لیں گی

Masculine

Singular

لوں گا
لیں گا
لوں گے
لیں گے
لیں گا

Pronoun Subject

میں
تو
تم
آپ
یہ / وہ

Plural

لیں گی / لیں گے
لوں گی
لیں گی
لیں گی

لیں گے
لوں گے
لیں گے
لیں گے

ہم
تم
آپ
یہ / وہ

دینا - to give

Feminine

دوں گی
دیگی
دوں گی

Masculine

Singular

دوں گا
دیگا
دوں گے

Pronoun Subject

میں
تو
تم

دینگے	دینگے	آپ
دیگی	دیگا	یہ/وہ
	<i>Plural</i>	
دینگے/دینگے	دینگے	ہم
دوگی	دوگے	تم
دینگے	دینگے	آپ
دینگے	دینگے	یہ/وہ
	ہونا - to be	
<i>Feminine</i>	<i>Masculine</i>	<i>Pronoun Subject</i>
	<i>Singular</i>	
ہوگی	ہوگا	میں
ہوگی	ہوگا	تو
ہوگی	ہوگے	تم
ہوگی	ہونگے	آپ
ہوگی	ہوگا	یہ/وہ
	<i>Plural</i>	
ہوگی/ہونگے	ہونگے	ہم
ہوگی	ہوگے	تم
ہوگی	ہونگے	آپ
ہوگی	ہونگے	یہ/وہ

Note: The future tense of ہونا can also be used to indicate the suppositional, particularly when it is used as an auxiliary verb. For example, وہ وہاں ہوگا means "He will be there" (future) or "He

must be there" (suppositional). وہ لڑکی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوگی
 studying at the university." امریکہ کا صدر ہندوستان جا رہا ہوگا."
 be going to India." We will discuss the future suppositional in greater detail in chapter 15.

7.11 Reading and Translation Drill

- ۱۔ میں شام کو کپڑے بدلونگا۔
 کیا، آپ ہر روز کپڑے بدلتے ہیں؟
 نہیں، وہ کل کپڑے بدلینگے۔
 ہم اب جوتے بدلینگے۔
- ۲۔ وہ آج غسل کریں گے۔
 آپ کب غسل کریں گے؟
 تو جمعرات کو غسل کریگا۔
 نہیں، میں جمعہ کو غسل کرونگی۔
- ۳۔ آپ امریکہ کب تک پہنچینگے؟
 میں امریکہ اتوار تک پہنچونگی۔
 وہ پیر کو باسٹن پہنچیں گے۔
 کیا، وہ منگل کو نیو یارک پہنچینگے؟
- ۴۔ میں تم سے پیسے نہیں لونگا۔
 ہم اُن سے وہ پیسے نہیں لینگے۔
 کیا، آپ وہ سبزی (vegetable) لینگے؟
 تو بازار میں کیا لیگا؟
- ۵۔ وہ اس سے زیادہ نہیں دیگا۔
 کیا، تم اس سے زیادہ دو گے؟

نہیں، میں بھی اس سے زیادہ نہیں دوں گا۔
 وہ سندر لڑکی اس سے زیادہ دیگی۔
 ۶۔ تم کل کہاں ہو گے؟
 کیا، وہ جنوری میں وہاں ہو گا؟
 وہ لڑکیاں اتوار کو باغ میں ہونگی۔
 ہم پرسوں گھر میں ہونگے۔
 ۷۔ میں یہ کام کر سکوں گا۔
 کیا، تم یہ کتاب پڑھ سکو گے؟
 وہ ڈاک خانہ نہیں جا سکیگی۔
 ہم گا سکیں گے مگر ناچ نہیں سکیں گے۔

Translate the following sentences into Urdu:

1. We will go to the cinema tomorrow.
2. What will you (informal) do tonight?
3. Will we be able to eat at your house?
4. Ali will cook tomorrow and we will eat with him.
5. Will Madonna sing on Saturday?
6. Tonight I will read a book and write a letter.
7. Will they buy a newspaper today?
8. He will give a lot of money for this horse.
9. He will not be able to give his house for the party.
10. Where will those beautiful girls be tomorrow night?
11. Sir, your son must be playing tennis right now.

12. Everyone in that house must be sleeping.

7.12 Pronunciation Drill: Diphthongs

نیل	نیل
سیل	سیل
میں	میں
شے	شے
میل	میل
پھیل	پھیل
پودا	پودا
سودا	سودا
گودا	گودا
رونا	رونا
اور	اور
جور	جور
گور	گور
موت	موت
فوت	فوت

7.13 Response Drill

Answer the following questions.

- ۱۔ کیا، آپ اُردو سمجھ سکتے ہیں؟
- ۲۔ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟
- ۳۔ کیا، آپ کے دوست آپ سے اچھا ناچ سکتے ہیں؟

- ۴۔ کیا، آپ کی بہنیں اسکول میں پڑھ رہی ہیں؟
- ۵۔ آپ کے خیال میں، اس کلاس میں سب سے زیادہ ہوشیار لڑکی کون ہے؟
- ۶۔ آپ کے خیال میں، اس کلاس میں سب سے زیادہ ہوشیار لڑکا کون ہے؟
- ۷۔ آپ کے خیال میں، اس دنیا میں سب سے خوبصورت آدمی کون ہے؟
- ۸۔ آپ کے خیال میں، اس دنیا میں سب سے زیادہ امیر عورت کون ہے؟
- ۹۔ آپ کا پسندیدہ کھانا کیا ہے؟
- ۱۰۔ آپ کا پسندیدہ اداکار کون ہے؟
- ۱۱۔ آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہیں؟
- ۱۲۔ آپ ہر روز صبح کیا کرتے ہیں؟
- ۱۳۔ آپ کا خاندان کہاں رہتا ہے؟
- ۱۴۔ آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں؟
- ۱۵۔ آپ کی والدہ کیا کام کرتی ہیں؟
- ۱۶۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟
- ۱۷۔ آپ کی والدہ کا اسم شریف کیا ہے؟
- ۱۸۔ آپ کے نانا اور نانی کہاں رہتے ہیں؟
- ۱۹۔ کیا، آپ کے دادا اور دادی امریکہ آتے ہیں؟
- ۲۰۔ دنیا کی خوبصورت ترین عمارت تاج محل ہے یا وائٹ ہاؤس؟
- ۲۱۔ تم آج شام کو کیا کرو گے؟
- ۲۲۔ آپ لوگ اتوار کو کہاں جائیں گے؟
- ۲۳۔ نرگس لاہور کی دکانوں سے کیا خریدیں گی؟
- ۲۴۔ آپ کون سے گریجویٹ اسکول میں پڑھیں گے؟

- راج: نرگس! کیا حال ہے؟
- نرگس: سب ٹھیک ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟
- راج: میں اب گھر جا رہا ہوں۔ میں بہت خوش ہوں۔ آج میرے خاندان کے سب لوگ گھر پر ہیں۔
- نرگس: ہاں۔ آج تو چھٹی ہے۔
- راج: اچھا۔ کیا، تم میرے ساتھ گھر چلو گی؟
- نرگس: ہاں۔ ہاں۔ ضرور۔
- (راج کے گھر میں)
- راج: نمستے پتاجی۔ ہلو مئی ڈارلنگ۔ تو بہت اچھی ہے! یہ نرگس ہے۔
- نرگس: آداب۔
- پتاجی: تمہارا نام بہت سندر ہے۔ کیا یہ پھل کا نام ہے یا پھول کا؟
- نرگس: انکل یہ ایک پھول کا نام ہے۔ بہت خوبصورت پھول۔
- پتاجی: نرگس تم بھی بہت خوبصورت ہو!
- راج: ہاں پتاجی۔ نرگس تو باغ کے ہر پھول سے زیادہ خوبصورت ہے۔
- نرگس: راج!!!
- مئی ڈارلنگ: بیٹی، تمہارا خاندان کہاں سے ہے؟
- نرگس: میرے والد دلی سے ہیں اور والدہ حیدر آباد سے ہیں۔ مگر اب ہم سب امریکہ میں رہتے ہیں۔
- پتاجی: میرے والد، یعنی راج کے دادا بھی دلی سے ہیں مگر میری والدہ، یعنی راج کی داوی لاہور سے ہیں۔ میری بیوی کی ماں، یعنی راج کی نانی بھی لاہور

سے ہیں، مگر اُن کے لبا، یعنی راج کے نانا بنگلور سے ہیں۔
 می ڈارلنگ: معاف کرو بیٹی! میرے شوہر بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ میرے ساس اور
 سر یعنی راج کی دادی اور دادا بھی بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں! اچھا
 نرگس، یہ رشی اور رومی ہیں۔ یہ دونوں راج کے بھائی ہیں۔ رشی ہمارا
 پہلا بیٹا ہے اور رومی ہمارا دوسرا لڑکا ہے۔ یہ دونوں راج سے بڑے ہیں۔
 پتاجی: یہ دونوں بہت ہوشیار ہیں۔ لندن یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں مگر ان دنوں
 گھر پر ہیں۔

نرگس: اچھا! آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟
 دونوں (ایک ساتھ): میڈسن۔

نرگس: پڑھائی کے بعد آپ کیا کام کریں گے؟
 راج: ڈاکٹر بنیں گے اور کیا؟! بہت پیسہ بنائیں گے۔
 رشی: نہیں نہیں! ہم غریبوں کی خدمت بھی کریں گے!
 راج: ہاں۔ نرگس بھی ڈاکٹر ہے۔ یہ بھی غریبوں کی خدمت کرتی ہے۔
 نرگس: اور یہ خوبصورت لڑکی کون ہے؟

می ڈارلنگ: یہ ریشما ہے۔ یہ راج کی چھوٹی بہن ہے۔

ریشما: می۔ میں چھوٹی نہیں ہوں۔ میں سات سال کی ہوں!

نرگس: اچھا! آپ تو بہت بڑی ہیں۔ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟

راج: یہ ایک کتاب لکھ رہی ہے۔

نرگس: ریشما آپ تو بہت ہوشیار ہیں۔

ریشما: ہاں! میں کتاب لکھ سکتی ہوں، گا سکتی ہوں اور ناچ بھی سکتی ہوں۔

نرگس: ارے! آپ تو بہت زیادہ ہوشیار ہیں۔

ریشما: ہاں! میں ان تینوں بھائیوں سے زیادہ ہوشیار ہوں۔ آنرز پروگرام میں ہوں!

نرگس دیدی، کیا آپ میرے ساتھ کھیلینگے؟
 نرگس: ہاں، ہاں۔ ضرور۔ تم کیا کھیلنا چاہتی ہو؟
 ریشما: میں ٹینیس کھیلنا چاہتی ہوں۔
 راج: ہاں، نرگس بھی ہر روز ٹینیس کھیلتی ہے۔ سنیل کے ساتھ!
 نرگس: راج! یہ کیا ہے؟ وہ صرف میرا دوست ہے۔
 می ڈارلنگ: نرگس بیٹی، کھانا تیار ہے۔
 نرگس: ہاں آنٹی، راج ہر وقت کہتا ہے کہ آپ بہت اچھا پکاتی ہیں۔
 پتاجی: ہاں! میری بیوی تو سب سے اچھا پکاتی ہے۔
 می ڈارلنگ: بس چپ رہو! میں اس لئے پکاتی ہوں کیونکہ تم نہیں پکا سکتے۔
 پتاجی: او ڈارلنگ! کیا، ہم اب کھانا کھانے کے لئے جا سکتے ہیں؟
 می ڈارلنگ: ہاں، ہاں۔ ضرور! کیوں نہیں؟
 راج: نرگس ہم بھی چلتے ہیں۔

7.15 Conversation Practice

Telephone conversation

Reshma: Hello. This is Reshma. Who is speaking?

Mummy darling: Reshma! It's me, your mother! I am speaking from the hospital.

Reshma: Greetings! Mummy darling! What are you doing at the hospital?

Mummy darling: You know that Sunil is in the hospital. He will be here for three days more.

Reshma: When are you coming home?

Mummy darling: I am going to the market first (پہلے) and then I will come home.

Reshma: Can you buy me something from the market?

Mummy darling: What do you want?

Reshma: Oh! Mummy darling! You are the best mother! Can you buy me some sweets and chocolates?

Mummy darling: Reshma! I will not buy you chocolates and sweets! You know that too many sweets are bad for you.

Reshma: In my opinion, they are very good for me. They give me life!

Mummy darling: Absolutely not! I will not buy you trash! I will buy some fruit for you. Fruit is better than sweets. Do you want some mangoes? Mangoes are your favorite fruit.

Reshma: Yes, I want some very sweet mangoes and some sweets also.

Mummy darling: Oh my dear (پیری) Reshma! My crazy daughter! What shall I do with you?

Reshma: Mummy darling. Will you buy me some sweets?

Mummy darling: OK but you will eat them after dinner.

Reshma: Thank you, Mummy darling. You are the best mother in the world. I love you very much! Bye.

Mummy darling: Bye, my crazy daughter!

7.16 Songs

(۱) اچھا، تو ہم چلتے ہیں
پھر کب ملو گے؟
جب تم کہو گے
نُحمرات کو؟
ہاں، ہاں، آدھی رات کو
کہاں؟ وہیں جہاں کوئی آتا جاتا نہیں

(۲) یاد آ رہی ہے (۲)

تیری یاد آ رہی ہے (۲)

یاد آنے سے

تیرے جانے سے

جان جا رہی ہے

(۳) شام ڈھل رہی ہے

تم یاد آ رہی ہو

شام ڈھل رہی ہے

آسمان بھی روتا ہے

میرا غم سُننے کے بعد

شام ڈھل رہی ہے

Glossary for Songs

وہاں = there (emphatic form of وہاں)

ڈھلنا = to decline, sink, fade (as sunset, life, etc.)

جہاں = where (relative pronoun)

7. 17 Vocabulary

athlete/player (m/f)

کھلاڑی

to bathe

غُسل کرنا ، نہانا

to be able to, can

سکنا

best

بہترین

better

بہتر

both

دونوں

box (m)	ڈبہ
to change	بدلنا
to cry	رونا
clothes (m)	کپڑے
to come along, to go along, to set out, to walk, to embark	چلنا
to cook	پکانا
door (m)	دروازہ
father (m)	والد، ابا، پتا، باپ، بابا
father-in-law	سسر
favorite	پسندیدہ
flower (m)	پھول
forgive/excuse me	معاف کیجئے / کرو
forty	چالیس
grandfather (maternal)	نانا
grandfather (paternal)	دادا
grandmother (maternal)	نانی
grandmother (paternal)	دادی
grown up, elder person (m/f)	بڑا / بڑی
holiday, vacation (f)	چھٹی
human being, man, person (m)	آدمی / انسان
hundreds of	سیکڑوں / سینکڑوں

hundreds of thousands of	لاکھوں
husband (m)	شوہر، پَت (پتی)
less	کم
letter (m)	خط
to listen	سننا
to be made, built, created;	بننا
to become	
to make, to build, to create	بنانا
millions of	کروڑوں
money, cash, wealth; coin (m)	پیساء، پیسہ
mother	والدہ، اماں (امی)، ماں، ماما
mother-in-law	ساس
more	زیادہ
narcissus (f)	نرگس
to open	کھولنا
or	یا
to pick up	اٹھانا
poor person (m); poor (adj.)	غریب
to reach	پہنچنا
ready	تیار
rich	امیر
scores of	پیسوں

service (f)	خدمت، سیوا
sister (f)	دیدی، باجی، آپا، بہن
a respectful title for sister or anybody older to whom one wants to show reverence	
shut up; be quiet	چپ رہو
something; some	کچھ
sorrow (m)	غم
studies, education (f)	پڑھائی
swift, quick; hot (spicy), fiery, sharp	تیز
that is to say, i.e.	یعنی
thirty	تیس
thought, idea, opinion (m)	خیال
thousands of	ہزاروں
trash (m)	کچرا
wife (f)	پتی، بیوی
worse	بدتر
worst	بدترین

Chapter 8

8.1 Formal Imperatives (with آپ)

The honorific imperative is used for people who are referred to with the آپ pronoun. It is formed by taking the stem of the verb and adding *یے* (ie) to it. (In Urdu, the *i* vowel can be written either as long or short. Thus one may write the imperative of لکھنا as لکھیے or لکھئے.)

Infinitive: کھانا	Stem: کھا	Imperative: کھائیے
ملنا	مل	میلیے
پڑھنا	پڑھ	پڑھیے

In stems that end in *ی*, a *ج* is inserted between the stem and *یے* (ie), e.g., پینا becomes پیجیے

Irregular verbs are:

Infinitive: لینا	Imperative: لیجیے
دینا	دیکھیے
کرنا	کھیے

In many situations the use of this imperative conveys the sense of English "please."

Please study. - پڑھیے۔

Please eat. - کھائیے۔

Translate these sentences using the honorific imperative:

1. Please eat two apples.
2. Please read this book.
3. Please come with me.

4. Please bring a box with you.
5. Please look.
6. Please take more food.
7. Please work better than this!
8. Please give a chicken.
9. Please drink some tea.
10. Please go home!

A more formal imperative than the aforementioned one is formed by the addition of گ to the formal imperative. This imperative is only used in situations in which great deference is implied.

جائے گا جانا
پڑھے گا پڑھنا
کھینچے گا کرنا

8.2 Informal Imperatives (with تم)

The imperative used to command those who are referred to in the تم form is formed by the addition of ۛ to the stem:

جاؤ جانا
پڑھو پڑھنا

There are two irregular تم imperatives:

دو دینا
لو لینا

Change the following formal imperatives into informal ones:

- ۱۔ لکھیے گا
- ۲۔ پیجئے
- ۳۔ دیکھیے گا
- ۴۔ سوئے گا
- ۵۔ کھیلے گا

8.3 Least Formal Imperatives (with تو)

The stem of the verb acts as the imperative to be used with the تو form.

کرنا	کر	do
دینا	دے	give
لینا	لے	take
کھانا	کھا	eat
پینا	پی	drink

8.4 Negative Imperatives

In order to form a negative imperative, insert مت or نہ right before the imperative word:

Don't do this (formal)!	یہ مت کیجئے!
Don't read (formal)!	مت پڑھیے!
Don't go (informal)!	نہ جاؤ!
Don't come (least formal)!	مت آ!

8.5 The Infinitive as Imperative

The infinitive of a verb can also serve as an imperative. It connotes a neutral or impersonal form of the imperative in contexts when degrees of formality are not regarded as necessary.

دو سیر گوشت دینا۔

Give two *sers* of meat.

یہ پانی مت پینا۔

Don't drink this water.

یہاں نہ بیٹھنا۔

Don't sit here.

8.6 Use of مہربانی and ذرا with Imperatives

When we encountered مہربانی in Chapter 1, its implication was one of "thanks." However, when مہربانی is used with the postposition سے, it acts as the adverb "kindly."

مہربانی سے یہ کام کیجئے۔

Kindly do this work/Please do this work.

The expression مہربانی فرما کر or مہربانی کر کے may also be used instead of مہربانی سے as an alternative expression for "please, kindly."

Whereas مہربانی is usually used with formal imperatives, ذرا can act as its counterpart in informal imperative constructions with the connotation of "just" or "please just." Idiomatically its use corresponds to the English expression "would you mind?" The literal meaning of ذرا is "slightly" or "a little bit."

ذرا وہ کتاب دو۔

Please just give that book (informal).

8.6 Reading and Translation Drill

- ۱۔ مہربانی سے وہ کتاب دیجئے۔
- مہربانی سے ہمارے ساتھ چلیئے۔
- مہربانی سے یہاں بیٹھیئے۔

مہربانی سے یہ خط پڑھیے۔

۲۔ ذرا یہ دیکھو۔

ذرا وہاں جاؤ۔

ذرا یہاں آ۔

ذرا پانی پی۔

Fill in the blanks with the appropriate form of the imperative of the verb indicated in the parentheses.

۱۔ مہربانی سے آپ یہ کتابیں _____ (read)

۲۔ مہربانی سے وہاں _____ (don't go, formal)

۳۔ ذرا یہ _____ (read, least formal)

۴۔ ذرا ہمارے لئے وہ چاول _____ (cook, informal)

۵۔ ذرا روٹی _____ (give, informal)

۶۔ پانی _____ (don't drink, informal)

۷۔ مرچ _____ (don't eat, least formal)

۸۔ ذرا ایک خط _____ (write, informal)

۹۔ پچاس سیب _____ (give, formal)

۱۰۔ پینتالیس کیلے _____ (take, formal)

Summary of Imperative Forms

Impersonal & Less Urgent	Least Formal, تو	Informal, تم	Formal, آپ	Infinitive
پڑھنا	پڑھ	پڑھو	پڑھیے	پڑھنا
کھانا	کھا	کھاؤ	کھائیے	کھانا

کھیلنا	کھیل	کھیلو	کھیپے	کھیلنا
پینا	پی	پیو	پچھے	پینا
لینا	لے	لو	لچھے	لینا
دینا	دے	دو	دکھے	دینا

Note: Gender is not marked in imperative forms.

8.7 Further Uses of ہونا

We have already encountered ہونا as the "to be" verb and its use in the habitual present tense as an auxiliary verb. ہونا is also used in the sense of "to become, to take place and to happen."

یہاں کیا ہو سکتا ہے؟

What can happen here/What can be done here?

یہاں کیا ہوتا ہے؟

What takes place here?

یہ کیا ہو رہا ہے؟

What is going on?

When ہونا is used with its participle forms, ہوتے، ہوتی، ہوتا، ہوتی، it indicates generalities or statements of fact.

آج کل بہت گرمی ہوتی ہے۔

Nowadays there is (generally) a lot of heat.

نیو یارک میں بہت گندگی ہوتی ہے۔

There is (generally) a lot of filth in New York.

کیا، ہارورڈ میں اچھے طالب علم ہوتے ہیں؟

Are there (generally) good students at Harvard?

کیا، ہندوستان میں کھانا اچھا ہوتا ہے؟

Is the food in India (generally) good?

8.7 Reading and Translation Drill

۱۔ امریکہ میں چیزیں بہت سستی ہوتی ہیں۔

یہ آم بہترین ہوتے ہیں۔

نہیں، یہ سیب بہتر ہوتے ہیں۔

ایرانی قالین بہترین ہوتے ہیں۔

وہاں گرمی ہوتی ہے یا سردی؟

۲۔ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟

آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟

یہاں وہ کام نہیں ہو رہا ہے۔

یہ کیا ہو رہا ہے؟

۳۔ لندن میں کیا ہو سکتا ہے؟

کیا، اس گھر میں کام ہو سکتا ہے؟

ان دفتروں میں کام ہو سکتا ہے۔

ہمارے گھر میں کام نہیں ہو سکتا۔

۴۔ کھانا ٹھنڈا ہوتا ہے۔

کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔

کھانا ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔

کھانا ٹھنڈا نہیں ہوتا۔

۵۔ کیا، یہ دودھ زیادہ گرم ہو سکتا ہے؟

جی نہیں۔ یہ اور گرم نہیں ہو سکتا۔

- پانی گرم ہو سکتا ہے۔
 پانی ٹھنڈا ہو رہا ہے۔
- ۶۔ چاول بہت مزیدار ہوتے ہیں۔
 روٹی بہت مزیدار ہوتی ہے۔
 دال سب سے زیادہ مزیدار ہوتی ہے۔
 زیادہ نمک سے کھانا مزیدار نہیں ہوتا۔
- ۷۔ صحت کے لئے دودھ کوک سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔
 گوشت صحت کے لئے اچھا نہیں ہوتا۔
 بہت مصالحے بھی صحت کے لئے اچھے نہیں ہوتے۔
 کیا، مرچ صحت کے لئے اچھی ہوتی ہے؟
- ۸۔ مت شرمائیے۔ اور روٹی لیجیے۔
 مت شرمائیے۔ اور بریانی لیجیے۔
 مت شرمائیے۔ اور دودھ پیجیے۔
 مت شرمائو۔ اور پاڑ لو۔
- ۹۔ بس! یہ بہت زیادہ ہے۔
 بس! اب گھر چلو!
 بس! زیادہ مرچ صحت کے لئے ٹھیک نہیں۔
 بس! اور مت پیجیے۔
- ۱۰۔ سبزی گوشت سے زیادہ مزیدار ہوتی ہے۔
 دودھ پانی سے مہنگا ہوتا ہے۔
 نمبو پیاز سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔
 کیا، دہی دودھ سے سستا ہوتا ہے؟

8.8 The Past Participles of ہونا تھا -

The verb ہونا has two past participles, each of which is associated with a special meaning and function. We will discuss the تھا participle here and the ہوا participle in Chapter 12. The past participle تھا and its various forms, تھے (masculine plural), تھی (feminine singular), and تھیں (feminine plural), are used for "was, were." It is declined as follows:

<i>Feminine</i>	<i>Translation</i>	<i>Masculine</i>	<i>Pronoun</i>
تھی	I was	تھا	میں
تھی	You were	تھا	تو
تھی	She/he was	تھا	یہ/وہ
تھیں	We were	تھے	ہم
تھیں	You were	تھے	آپ
تھیں	They were	تھے	یہ/وہ
تھیں	You were	تھے	تم

Examples:

وہ کل رات کو کہاں تھے؟

Where were they last night?

میں دس سال پہلے طالب علم تھا۔

Ten years ago I was a student.

وہ چیز میز پر تھی۔

That thing was on the table.

کل صبح آٹھ بجے لڑکیاں اسکول میں تھیں۔

Yesterday morning at eight o'clock the girls were in school.

تھا and its variants are also used as auxiliary verbs in various past tense constructions. They

function exactly like ہے in the present tense. Examples:

وہ کام کرتا تھا۔

He used to work.

وہ کام کر رہا تھا۔

He was working.

وہ کام کر سکتی تھی۔

She was able to work.

8.8 Reading and Translation Drill

۱۔ آپ چار سال پہلے کہاں تھے؟ راولپنڈی میں یا اسلام آباد میں؟

کیا، دو سال پہلے تم طالب علم تھے؟

نہیں، میں دو سال پہلے ڈاکٹر تھا۔

دس سال پہلے وہ لڑکی کہاں تھی؟

۲۔ تو کل کہاں تھا؟

کیا، تم کل باغ میں تھے؟

نہیں، ہم کل دفتر میں تھے۔

وہ لڑکیاں بھی ہمارے ساتھ دفتر میں تھیں۔

۳۔ یہ پٹھری زیادہ تیز نہیں تھی۔

کل رات سالن میں مریچ تیز تھی۔

کیا، آپ کے لئے کھانا زیادہ تیز تھا؟

بچپن میں اُن کی بیٹیاں بہت تیز تھیں۔

آپ بچپن میں سبزی خور تھے یا گوشت خور؟

Translate the following sentences into Urdu:

1. Were you a doctor 20 years ago?
2. He was a very bright student many years ago.
3. Rita Hayworth was our favorite actress.
4. Were you at Sheila's house with your friends last week?
5. Last week Raj was working in the restaurant. Now he is not there.

8.9 The Past Habitual Tense

The past habitual tense is formed in a manner similar to the present habitual tense except that the present form of the auxiliary verb ہوتا is replaced by its corresponding past form.

Present habitual:

- میں پڑھتا ہوں۔ I study.
وہ وہاں کام کرتا ہے۔ He works there.

Past habitual:

- میں پڑھتا تھا۔ I used to study.
وہ وہاں کام کرتا تھا۔ He used to work there.

This tense is used to denote regular or habitual actions in the past. The conjugation pattern is as follows:

<i>Feminine</i>	<i>Masculine</i>	<i>Pronoun</i>
پڑھتی تھی	پڑھتا تھا	میں
پڑھتی تھی	پڑھتا تھا	تو
پڑھتی تھی	پڑھتا تھا	وہ/یہ
پڑھتی تھیں	پڑھتے تھے	ہم

پڑھتی تھیں
پڑھتی تھیں
پڑھتی تھیں

پڑھتے تھے
پڑھتے تھے
پڑھتے تھے

تم
آپ
وہ/یہ

8.9 Reading and Translation Drill

- ۱۔ میں سات سال پہلے وہاں پڑھتا تھا۔
کیا، تم اُن کے دفتر میں کام کرتے تھے؟
وہ ہمارے ساتھ گاتے تھے۔
- ۲۔ ایک زمانے میں وہ بہت اچھا گاتی تھی۔
ہم اُن کے ساتھ کبھی کبھی کھیلتے تھے۔
ایک زمانے میں تم اچھا ناچتے تھے۔
آپ ہر وقت کیا یاد کرتی تھیں؟
میں بچپن کے دن یاد کرتی تھی۔
- ۳۔ بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کھیلتے تھے۔
شور کی وجہ سے ہم نہیں پڑھ سکتے تھے۔
اُن کی وجہ سے ہم کام نہیں کرتے تھے۔
وہ تمہاری وجہ سے روتے تھے۔
- ۴۔ میں گرمی کی وجہ سے کھانا نہیں پکا سکتا ہوں۔
ہم سردی کی وجہ سے گھر کے باہر نہیں نکلتے ہیں۔
بارش کی وجہ سے وہ باہر نہیں کھیلتا تھا۔
کیا، تم کام کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتے تھے؟
- ۵۔ کیا، آپ بچپن میں تیز چیزیں کھاتی تھیں؟
ایکسڈنٹ سے پہلے وہ عورت گاڑی بہت تیز چلاتی تھی۔

میری وہ گاڑی تو آپ کی گاڑی سے بھی زیادہ تیز چل سکتی تھی۔
وہ تیز دھوپ کی وجہ سے مکان کے اندر کام کرتی تھی۔

8.10 The Past Continuous Tense

The past continuous tense is used to describe actions that were in progress at a particular time in the past. Again, this tense is formed in the same way as the present continuous tense, except that the present form of ہونا is replaced by its past counterpart.

Present continuous:

میں پڑھ رہا ہوں۔ I am studying.

وہ کام کر رہا ہے۔ He is working.

Past continuous:

میں پڑھ رہا تھا۔ I was studying.

وہ کام کر رہا تھا۔ He was working.

The conjugation pattern is as follows:

<i>Feminine</i>	<i>Masculine</i>	<i>Pronoun</i>
پڑھ رہی تھی	پڑھ رہا تھا	میں
پڑھ رہی تھی	پڑھ رہا تھا	تو
پڑھ رہی تھی	پڑھ رہا تھا	وہ/یہ
پڑھ رہی تھیں	پڑھ رہے تھے	ہم
پڑھ رہی تھیں	پڑھ رہے تھے	تم
پڑھ رہی تھیں	پڑھ رہے تھے	آپ
پڑھ رہی تھیں	پڑھ رہے تھے	وہ/یہ

8.10 Reading and Translation Drill

- ۱۔ اُس وقت وہ عورتیں کتابیں پڑھ رہی تھیں۔
اُس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟
اُس وقت میں ٹیلیفون پر بات کر رہا تھا۔
کیا، اُس وقت ہوائی جہاز بمبئی سے دلی جا رہا تھا؟
- ۲۔ ایک بوڑھا آدمی اسکول کے لڑکوں کے لئے کھانا پکا رہا تھا۔
باورچی مہمانوں کے لئے بریانی پکا رہا تھا۔
آپ کی لڑکیاں بہت شرارت کر رہی تھیں۔
پولیس چور کو پکڑ رہی تھی۔
- ۳۔ پیاس کی وجہ سے بچے رو رہے تھے۔
امریکہ میں بھوک کی وجہ سے کتنے لوگ مر رہے تھے؟
بیماری کی وجہ سے کبیر کچھ بھی نہیں کھا رہا تھا۔
گرمی کی وجہ سے وہ بیمار ہوتی تھی۔
- ۴۔ پچھلے ہفتے، جمعرات دوپہر کو، عورتیں بازار جا رہی تھیں۔
پیر کی صبح وہ طالب علم اسکول جا رہا تھا۔
اتوار کی رات کو سب گھر والے سو رہے تھے۔
منگل کی شام کو ہم دوستوں کے ساتھ ہندوستانی فلموں کے گیت سن رہے تھے۔
کل تیز ہوا چل رہی تھی۔

8.11 Cardinal Numbers 41-50

۴۱ اکتالیس

۴۲ بیالیس

۴۳ تینتالیس

چوالیس	۴۴
پینتالیس	۴۵
چھیالیس	۴۶
سینتالیس	۴۷
اڑتالیس	۴۸
اُنچاس	۴۹
پچاس	۵۰

8.12 Pronunciation Drill: Doubling of Consonants

پتہ	پتہ
کتھا	کتھا
بتا	بتا
کتا	کتا
پتا	پتا
ڈبا	ڈبا
گدا	گدا
رستا	رستا
مدا	مدا
جھتا	جھتا
صفاک	صفا
غدار	غدر
سجاد	سجدہ
غسل	غسل

رزاق

سچا

کچا

رزق

اچھا

لچھا

8.13 گفتگو (Conversation)

(راج کے گھر میں، کھانے پر)

نرگس بیٹی، تم یہاں بیٹھو۔

جی نہیں۔ آنٹی آپ یہاں بیٹھیے۔

نہیں، نہیں۔ وہ ہر وقت یہاں بیٹھتی ہے، میرے پاس!

ریشما! تو کہاں جا رہی ہے؟ یہاں بیٹھ۔

نہیں۔ میں نرگس دیدی کے پاس بیٹھنا چاہتی ہوں۔

او ہو! یہ کیا ہو رہا ہے؟

ہاں، ہاں۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ تم لوگ بیٹھو۔

نرگس، کیا تم پانی پینا چاہتی ہو یا دودھ؟

نہیں۔ نرگس لسی پیئے گی۔

لسی! لسی گھر میں نہیں ہے۔ ہاں، البتہ دہی ہے۔ کیا، دہی کھاؤ گی؟

بیٹی، یہ تمہارا گھر ہے، مت شرمناؤ۔ اچھا، یہ چاول ہیں، یہ روٹی، یہ مرغی

کا سالن، یہ سبزی، یہ گوشت کی بریانی، یہ پاپڑ اور یہ ہے آم کا اچار۔ تم

سبزی خور تو نہیں؟

نہیں آنٹی میں ہر چیز کھاتی ہوں۔ یہ تو بہت اچھی چیزیں ہیں۔ مگر میں

کھانے سے پہلے پیاز اور نمک کھاتی ہوں۔

کیا؟! مٹی، روٹی دیکھیے۔ میں بھی آج روٹی کے ساتھ پیاز کھاؤنگا۔

- پتاجی: ہاں! تمہاری ماں بہت اچھی مٹی ہے اور وہ بہت اچھا پکاتی ہے۔ مگر آج اس مرغی کے سالن میں مرج کم ہے۔
- مٹی: تم اچار لو۔ اچار میں بہت زیادہ مرج ہے۔ یہ نمبو کا اچار ہے۔ اور وہ آم کا ہے۔
- پتاجی: نرگس، تم بچپن میں کہاں رہتی تھیں؟
- نرگس: میں بچپن میں راجستھان میں رہتی تھی۔ ہمارے رشتہ دار دلی، لکھنؤ، اور بنارس میں بھی تھے۔
- پتاجی: کیا تمہارے والد فوج میں تھے؟
- نرگس: جی نہیں۔ وہ آرکیٹیکٹ تھے اور راجستھان کے ایک شہر، جئے پور، میں کام کرتے تھے۔ میں وہاں بورڈنگ اسکول میں تھی۔
- پتاجی: ہاں، راجستھان بہت خوبصورت جگہ ہے مگر وہاں بہت گرمی ہوتی ہے۔
- نرگس: جی ہاں، مگر گرمیوں کے موسم میں ہم کشمیر جاتے تھے۔ کشمیر بہت ٹھنڈی جگہ ہے۔ یہ بریانی تو بہت مزیدار ہے۔ اس میں کیا ہے؟
- مٹی: اس میں چاول، بکری کا گوشت، دہی، پیاز، نمک اور دو تین مصلے ہیں۔
- رشی: ریشما، کیا تم میرے لئے کوک لا سکتی ہو؟
- مٹی: گھر میں کوک نہیں ہے۔ تم دودھ پیو۔ یہ صحت کے لئے اچھا ہے۔ کوک صحت کے لئے اچھی نہیں۔ ریشما، یہ تم کیا کھا رہی ہو؟
- ریشما: مٹھائی
- روی: تم بالکل پاگل ہو۔ کھانے سے پہلے مٹھائی کھا رہی ہو؟
- ریشما: تم بھی پاگل ہو۔
- مٹی: ریشما، نہیں۔ روی تم سے بڑا ہے۔ اچھا، یہاں آؤ۔ دیکھو، یہ مزیدار مرغی کا سالن، سبزی اور روٹی کھاؤ۔

ریشما: نہیں! میں مٹھائی کھانا چاہتی ہوں۔
 زرگس: ریشما، تم اور میں کھانے کے بعد مٹھائی کھا سکتی ہیں۔
 ریشما: دیدی آپ بہت اچھی ہیں۔ آپ ہمارے گھر سے مت جائیے۔
 راج: ہاں۔ میں بھی زرگس سے یہ کہہ رہا ہوں!
 (سب لوگ ہنستے ہیں۔)
 پتاجی: تم تو ایک پاگل عاشق ہو۔
 راج: ہاں عاشقی ہی میرا کام ہے!
 زرگس: راج!!

8.14 Conversation Practice

Ali: Sunita, you sit here. Reshma, you sit over there, and I'll sit by you.
 Sunita: Is the food (generally, ہوتا ہے) good here?
 Reshma: Yes, it is (generally) very good. I was here last week. The chicken curry and biriyani are delicious.
 Sunita: But I don't eat meat. I am vegetarian.
 Ali: You can eat lentils, bread, and yogurt. Lentils are (generally) very good.
 Reshma: Yes, they are also good for your health.
 Waiter: What do you people want to eat and drink? Would you like to eat papad?
 Ali: No, we will drink lassi and we will eat chicken curry, biriyani, rice, lentils, vegetable curry, and yogurt.
 Sunita: Also, give us (ہم کو) some onions and pickles. Are the pickles very hot?
 Reshma: A lot of red peppers are not good for your health. Ali also eats a lot of spices.
 Waiter: In our pickles there are no red peppers. Would you like some bread with your

food?

Ali:

Yes, we will take both bread and rice.

8.15 Songs

(۱) میری جان کچھ بھی کچھئے
چاہے جان میری لیجئے
پر دل ہمیں کو دیکھئے
کبھی یاد ہمیں بھی کچھئے
کبھی نام ہمارا لیجئے
سپنوں میں آیا کچھئے

(۲) سانسوں کی ضرورت ہے جیسے زندگی کے لئے
بس ایک صنم چاہئے عاشقی کے لئے
جام کی ضرورت ہے جیسے بے خودی کے لئے
ہاں ایک صنم چاہئے عاشقی کے لئے
بس ایک صنم چاہئے عاشقی کے لئے۔

(۳) آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں میں ہو آنکھوں میں
آنکھوں میں تیرا ہی چہرہ
دھڑکن میں تیری ہی یادیں
کرتی ہیں دیوانہ
ہائے کہاں گئیں وہ راتیں
وہ میٹھی میٹھی سی باتیں

کرتی تھیں جو دیوانہ

Glossary for Songs

ہمیں کو = emphatic form of ہم (see ch. 12)	بے خودی = selflessness; being beside oneself;
"only to me/us"	ecstasy, madness (f)
ہمیں = special object form of ہم (see ch. 9)	جام = goblet, cup (usually of wine) (m)
آیا کچھے = keep on constantly coming	چہرہ = face (m)
جیسے = just as	میٹھا = sweet
صنم = idol; beloved, sweetheart (m)	گئیں = past tense (feminine plural) of verb جانا

8.16 Vocabulary

airplane (m)	ہوائی جہاز
although	البتہ، اگرچہ
army (f)	فوج
to catch, apprehend	پکڑنا
chicken (f)	مرغی
child (m)	بچہ
childhood (m)	بچپن
cold (adjective)	ٹھنڈا
cold (noun, f)	سردی، ٹھنڈ
cook (m)	باورچی
curry (m)	سالن
chicken curry	مرغی کا سالن

meat curry	گوشت کا سالن
vegetable curry	سبزی کا سالن
to die	مرنا
dream (m)	سپنا
enough!	بس
fear (m/f)	ڈر
to fear	ڈرنا
to fear x	x سے ڈرنا
fifty	پچاس
guest (m/f)	مہمان
health (f)	صحت
hot	گرم
hunger (f)	بھوک
knife (f)	چھری
to laugh	ہنسنا
last, past, previous; back; latter	پچھلا
lemon/lime (m)	نمبو، لیموں
lentils (f)	دال
lover (m)	عاشق
being a lover (f)	عاشقی
meat (m)	گوشت
meat eater (m/ f)	گوشت خور

milk (m)	دودھ
mischievous (f)	شرارت
necessity (f)	ضرورت
necessity/need for x	x کی ضرورت
noise, uproar, disturbance (m)	شور
onion (f)	پیاز
out, outside	باہر، کے باہر
papad (crispy appetizers) (m)	پاپڑ
pepper (f)	مرچ
pickles (hot) (m)	اچار
please, kindly (with آپ forms)	مہربانی سے، مہربانی کر کے
(with تم forms)	مہربانی فرما کر
relatives, family members (m)	ذرا
rice (m pl)	رشتہ دار
rice w/ meat or vegetables (f)	چاول
salt (m)	بریفانی
to scream, yell	نمک
season (m)	چیننا
to be shy, recitent	موسم
sick, ill (adj.); sick person (m/f)	شرمانا
sickness, illness (f)	بیمار
	بیماری

to sit	بیٹھنا
song (m)	گیت، گانا، نغمہ
to speak, to talk, converse	بات کرنا
spices (m)	مصالحہ / مسالا
sunshine, heat of sun (f)	دھوپ
time, age; world; fortune (m)	زمانہ
thief (m)	چور
thirst (f)	پِیاس
vegetable (f)	سبزی
vegetarian (m/f)	سبزی خور / شاکاہاری
woman (f)	عورت
yogurt (m)	دہی

Chapter 9

The postposition **کو** in Urdu has several uses. We will systematically discuss the most important uses in this chapter.

9.1 **کو** as a Temporal Marker

As we have seen in previous chapters, days of the week and most of the times of the day are marked by **کو** to mean "on," "in," and "at."

میں ہر پیر کو اسکول جاتا ہوں۔

I go to school every Monday.

کیا، وہ شام کو سینما جاتے ہیں؟

Does he go to the cinema in the evening?

Note that among the times of the day only **صبح** "morning" does not use the postposition **کو**.

9.1 Reading and Translation Drill

- ۱۔ میں اس اتوار کو ٹینیس کھیل سکتا ہوں۔
کیا، تم منگل کو میرے ساتھ ٹینیس کھیل سکتے ہو؟
نہیں، میں منگل اور بدھ کو بہت مصروف ہوں۔
ہم لوگ جمعرات کو کھیل سکتے ہیں۔
- ۲۔ کیا، آپ ہر روز صبح دفتر جاتے ہیں؟
وہ ہر روز دو پہر کو دفتر جاتے ہیں۔
وہ لڑکیاں رات کو کھانا نہیں کھا سکتیں۔
وہ لڑکے آج شام کو مرغی کی بریانی اور دال پکا سکتے ہیں۔

Translate the following sentences into Urdu:

1. We can play tennis on Saturday because we are busy on Friday.
2. My friend drinks wine every evening.
3. Can you read books every morning?
4. What are you (informal) doing tonight?
5. Why are both of you going to school on Sunday?

9.2 کو as a Direct Object Marker

When the direct object of an Urdu sentence is animate or specific, then کو marks such an object.

میں علی کو بھیجتا ہوں۔

I send Ali.

(subject -- direct object -- object marker کو -- verb)

میں اُس لڑکے کو بھیجتا ہوں۔

I send that boy.

(subject -- direct object -- object marker کو -- verb)

Although it is necessary to use کو with a direct object that is animate, we can see in the example below that کو can also mark a direct object when that object is inanimate but needs to be emphasized. If no emphasis is intended, then کو is not employed after inanimate objects.

آپ اس قالین کو خریدیئے۔

You buy this carpet. (*emphasis on object*)

(subject -- inanimate direct object -- object marker کو -- verb)

آپ یہ قالین خریدیئے۔

You buy this carpet. (*object not emphasized*)

(subject -- inanimate direct object -- verb)

9.2 Reading and Translation Drill

- ۱۔ میں علی کو کھانے پر بلاتا ہوں۔
کیا، تم اُس دوست کو کھانے پر بلارہے ہو؟
ہم اُن دوستوں کو کھانے پر نہیں بلایا سکتے۔
وہ لڑکیاں میرے دوست کو کھانے پر بلارہی ہیں۔
- ۲۔ میں شام کو یہ کتاب بھیج سکتا ہوں۔
کیا، تم راشد کو بھیج سکتے ہو؟
نہیں۔ ہم راشد کو نہیں بھیج سکتے۔
میں اُس کے بھائی کو بھیج رہی ہوں۔
- ۳۔ یہ کتابیں اچھی ہیں۔ آپ ان کو خریدیے
کیا، آپ ان تصویروں کو خریدنا چاہتے ہیں؟
نہیں۔ ہم اُن خوبصورت تصویروں کو خریدنا چاہتے ہیں۔
یہ قالین بہت مہنگی ہے۔ ہم اس قالین کو نہیں خرید سکتے۔

9.2 Substitutions

- ۱۔ میں راج کو بلاتی ہوں۔
that beautiful girl
those clever boys
your friend's brother
his friend
- ۲۔ وہ پھل والے کو بھیجتا ہے۔
that vagabond

those famous actors

our daughter

your (least formal) doctor

۳۔ کیا، آپ ان کتابوں کو بیچتے ہیں؟

those newspapers

the best book

these big expensive houses

his red shoes

9.3 کو as an Indirect Object Marker

When a sentence has both a direct and an indirect object, only the indirect object is marked by کو.

He gives a book to Ali.

(subject-- verb--direct object--indirect object)

The above word order is the usual order in English in which the direct object precedes the indirect object. In Urdu the word order is reversed, with the indirect object usually preceding the direct object.

وہ علی کو کتاب دیتا ہے۔

(subject -- indirect object marked by کو -- direct object -- verb)

If the sentence has temporal and locative elements then they are placed between the indirect and direct objects.

وہ علی کو شام کو وہاں کتاب دے سکتا ہے۔

In the evening, he can give Ali the book there.

(subject-- indirect object marked by کو -- temporal phrase -- locative phrase --direct object -- verb)

This order may slightly change depending upon the element of the sentence that needs to be especially emphasized.

شام کو وہ علی کو وہاں کتاب دے سکتا ہے۔

By placing شام کو at the beginning of the sentence, the temporal element is emphasized.

9.3 Reading and Translation Drill

- ۱۔ میں سنیل کو پیسے دیتا ہوں۔
کیا، آپ مجھ کو پیسے دے سکتے ہیں؟
مہربانی سے راج کو پیسے دیجئے۔
شیلہ اور رما کو پیسے دو۔
- ۲۔ کیا، تم علی کو اخبار دے رہی ہو؟
نہیں، میں علی کو وہ اچھی کتابیں دے رہی ہوں۔
کیا، آپ زاہد کو روٹی دے سکتے ہیں؟
ہم اُن ہوشیار لڑکوں کو مٹھائی دے سکتے ہیں۔
- ۳۔ وہ ان لڑکیوں کو شام کو اسکول میں کتابیں دیتے ہیں۔
وہ غریبوں کو ہر دو پہر کو دتی بازار میں روٹیاں دیتے ہیں۔
میں اُن غریبوں کو ہر دو پہر کو دتی بازار میں روٹیاں دے سکتا ہوں۔
وہ ہمارے دوست کو ہر روز ہسپتال میں دوائی دیتے ہیں۔

Translate the following sentences into Urdu:

1. He gives me money every Monday.
2. Can you give the poor money tonight?
3. They give food to my friends every Thursday.

4. What can you give us?
5. I can give you the world.

پسند -- in Verbal and Adjectival Constructions کو 9.4

In Urdu the logical subject of certain verbal and adjectival constructions is sometimes marked by "pleasing" is a predicate adjective used in constructions in which the logical subject in English is marked by کو. The verb (ہے or ہیں) agrees with the grammatical subject in Urdu.

علی کو یہ کتاب پسند ہے۔

Ali likes this book. (Literally: This book is pleasing to Ali.)

(کتاب = grammatical subject in Urdu, علی = logical subject in English)

مجھ کو یہ چیزیں پسند ہیں۔

I like these things. (Literally: These things are pleasing to me.)

(چیزیں = grammatical subject in Urdu, میں = logical subject in English marked by کو)

In the sentences above, the verb agrees with the grammatical subjects in Urdu (کتاب and چیزیں) and not with the logical subjects in English. In the past tense, the auxiliary تھا, in its appropriate forms, replaces ہے following the same rules of agreement.

مجھ کو یہ پھل پسند تھا۔

I liked this fruit.

(verb تھا agreeing with پھل = grammatical subject in Urdu)

لڑکے کو کتاب پسند تھی۔

The boy liked the book.

(verb تھی agreeing with کتاب = grammatical subject in Urdu)

مہمانوں کو سبزیاں پسند تھیں۔

The guests liked the vegetables.

(verb ^{تھیں} agreeing with ^{سبزییاں} = grammatical subject in Urdu)

9.4 Reading and Translation Drill

- ۱۔ مجھ کو یہ عمارتیں بہت پسند ہیں۔
کیا، آپ کو وہ دوکانیں پسند ہیں؟
ان کو یہ گھر پسند نہیں۔
ہم کو وہ کتابیں بہت پسند ہیں۔
- ۲۔ مجھ کو سیر کرنا بہت پسند ہے۔
کیا، آپ کو لتا مگیشکر کی آواز پسند ہے؟
ہاں، ہم کو لتا مگیشکر کی آواز مڈونا کی آواز سے زیادہ پسند ہے۔
اُن کو وہ اخبار ان اخباروں سے زیادہ پسند ہے۔
- ۳۔ مینا کو بازار کا اچار پسند نہیں تھا۔
چنکج کو زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں تھا۔
ملاہ کو بدترین لوگ کیوں پسند تھے؟
عابد کو کشمیری لڑکیاں بہت پسند تھیں!

Translate the following sentences into Urdu:

1. I like Madonna very much.
2. Some people like tea more than coffee.
3. Do you (least formal) like these big buildings?
4. I like *biryani* very much but I can't eat rice.
5. I don't like meat, but I like sweets very much.
6. Did Reshma like the Chinese food?

7. When Ravi was in India, he did not like watching Indian movies.
8. He is my favorite actor but he cannot sing well. His voice is not very good.

9.5 کو in Infinitive + ہے Construction

کو marks the logical subject of "the infinitive + ہے" construction which conveys that something "has to be," "is necessary," or "must be done."

علی کو پڑھنا ہے۔

Ali has to study.

رحیم کو جانا ہے۔

Rahim has to go.

At times, the verbal infinitive may have an object. In such a situation, in some dialects of Urdu-Hindi the infinitive agrees with that object:

علی کو کتاب پڑھنی ہے۔

Ali has to read the book.

In the above sentence, the verbal infinitive پڑھنا has been declined to پڑھنی because کتاب, the object of پڑھنا, is feminine. In order to make a negative sentence, نہیں is used.

علی کو نہیں پڑھنا ہے۔

Ali doesn't have to study/read.

علی کو پڑھنا نہیں ہے۔

Ali doesn't have to study/read (emphatic).

In the past and future tenses, the verb ہے is replaced by the auxiliary تھا or ہوگا:

رحیم کو گھر جانا تھا۔

Rahim had to go home.

رحیم کو گھر جانا ہوگا۔

Rahim will have to go home.

علی کو کتاب پڑھنی تھی۔

Ali had to read the book.

In the last sentence, the verb پڑھنی تھی agrees with the gender of its object کتاب

9.6 Infinitive as the Subject

In the "infinitive + ہے" construction, the infinitive can also act as the subject of the sentence.

پڑھنا ہے۔

It is necessary to study/studying is necessary.

If an adjective is inserted between the infinitive and ہے, then the adjective becomes the predicate of the infinitive.

پڑھنا اچھا ہے۔

It is good to study/studying is good.

In the past and future tenses, the auxiliaries تھا and ہوگا replace ہے:

پڑھنا اچھا تھا۔

It was good to study/ studying was good.

پڑھنا اچھا ہوگا۔

It will be good to study/studying will be good.

9.5-9.6 Reading and Translation Drill

۱۔ مجھ کو آج بہت پڑھنا ہے۔

کیا، تم کو آج بہت پڑھنا ہے؟

ہم کو کل بہت لکھنا ہے۔

- ۲۔ کیا، اُن کو یہ کتابیں پڑھنی ہیں؟
تجھ کو یہ خط لکھنے ہیں۔
میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ مجھ کو وہ کام کرنا ہے۔
ہاں، اُس کو یہ پچاس اخبار پڑھنے ہیں۔
میں بہت مصروف ہوں، مگر مجھ کو وہاں جانا ہے۔
- ۳۔ کیا، آپ کو کل شام کو گانا ہے؟
نہیں، مجھ کو کل صبح گانا ہے۔
آپ کو کل رات کو کہاں جانا ہے؟
اُن کو کل دو پہر کو یہاں آنا ہے۔
- ۴۔ کل رومی کو اردو کی کلاس کے لئے ایک مضمون لکھنا تھا۔
پچھلے سال اس شاعر کو کتنی غزلیں لکھنی تھیں؟
پچھلے ہفتے ایلکس کو نیویارک جانا تھا۔
ہسپتال میں رہنے کے لئے اس بیچارے بیمار کو کتنے پیسے دینے ہو گئے؟

Translate the following sentences into Urdu:

1. I have to write these three essays (papers) by tomorrow.
2. Do you have to read your friend's letters at this time of the night?
3. I have to go to school on Sunday.
4. What do they have to do tomorrow afternoon?
5. She doesn't have to cook.
6. What did you have to do all day yesterday?

9.7 in چاہئے Constructions

چاہئے constructions are similar to "the infinitive + ہے" construction in that the logical subject

in such constructions is also marked by **کو**. **چاہئے** is an impersonal verb form that may be preceded by either a noun or a verbal infinitive. In case of a noun, the construction means that the noun is desired, wanted, or needed by the logical subject. For example,

جیم کو ایک کتاب چاہئے۔

Jim wants a book.

(logical subject "Jim" marked by **کو**)

اس دُنیا میں سب کو پیار چاہئے۔

In this world everyone needs love.

(logical subject "everyone" marked by **کو**)

If the object desired is plural, then **چاہئے** may be optionally nasalized:

کیا، آپ کو یہ کپڑے چاہئیں؟

Do you want these clothes?

In the past tense, the **چاہئے** construction uses the past auxiliary **تھا**. Since the logical subject is marked by **کو**, the past auxiliary will agree in number and gender with the desired object.

Examples:

راج کو ایک سیب چاہئے تھا۔

Raj wanted an apple. (the auxiliary **تھا** agreeing with **سیب**)

نرگس کو کچھ ساڑیاں چاہئے تھیں۔

Nargis wanted some saris. (the auxiliary **تھیں** agreeing with **ساڑیاں**)

In order to convey the sense that something "ought to" or "should be" done, a verbal infinitive is placed before **چاہئے**. The logical subject continues to be marked by **کو**, which cuts off agreement between it and the impersonal **چاہئے**:

علی کو پڑھنا چاہیے۔

Ali ought to study/read.

چھوٹی بچی کو ابھی سونا چاہیے۔

The little girl ought to sleep now.

In some dialects of Urdu-Hindi, the verbal infinitive is made to agree in number and gender with its object, if it has one:

علی کو کتاب پڑھنی چاہیے۔

Ali ought to read the book.

(verb پڑھنا agreeing with its object کتاب)

دوکاندار کو یہ پھل بیچنے چاہئیں۔

The shopkeeper ought to sell these fruits.

(verb بیچنا agreeing with its object پھل)

In the past tense, تھا is added at the end of the sentence. This auxiliary will agree in number and gender with any object of the verbal infinitive. Examples:

علی کو پڑھنا چاہیے تھا۔

Ali ought to have/should have studied.

دوکاندار کو یہ پھل بیچنے چاہیے تھے۔

The shopkeeper ought to have/should have sold these fruits.

نہیں Placing نہیں constructions may be put into the negative by using the particle

toward the end of the sentence increases the emphasis of the negation. Example:

کالج کے طالب علم کو شراب نہیں پینا (پینی) چاہیے!

کالج کے طالب علم کو شراب پینا (پینی) نہیں چاہیے!

A college student should not drink alcohol!

9.7 Reading and Translation Drill

- ۱۔ مجھ کو وہاں جانا چاہیے۔
تم کو یہ کام کرنا چاہیے۔
آپ کو ہر روز اخبار پڑھنا چاہیے۔
تم کو کچرے کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے!
- ۲۔ اُن کو یہاں آنا چاہیے، مگر وہاں بہت کام کرنا ہے۔
ہم کو یہ کتابیں پڑھنی چاہئیں مگر ہم بہت مصروف ہیں۔
آپ کو دوپہر کو نہیں کھیلنا چاہیے۔
مجھ کو وہ جگہ پسند نہیں مگر وہاں جانا ہے۔
- ۳۔ یہ قالین بہت سُندر ہے۔ کیا تم کو یہ قالین چاہیے؟
نہیں، ہم کو وہ پھول چاہیے۔
مجھ کو چاول، گوشت اور دہی چاہیے۔
اُن لڑکیوں کو پھل، مٹھائی اور پھول چاہئیں۔
- ۴۔ اُس آدمی کو پانچ قمیضیں چاہیے تھیں۔
پارٹی کے بعد ریشما کو جلدی گھر جانا چاہیے تھا۔
ماسیکل کو اتنی بریانی نہیں کھانی چاہیے تھی۔
زمیندار کو غریب لوگوں سے زیادہ کرایہ نہیں لینا چاہیے تھا۔

Translate the following sentences into Urdu:

1. He ought to write these papers (essays) now.
2. We ought to eat but we have to go there.
3. Sunil ought not to have fallen in love with Nargis!

4. Both these houses are expensive. Would you like to buy them?
5. I would like some salt, onions, and bread.
6. We ought to wash our clothes.
7. The guest wanted some more alcohol.
8. Sheila's brother wants five shirts.
9. The patient (sick person) ought to have drunk this medicine.
10. Rahim should have sold this beautiful carpet yesterday.

9.8 کو with Abstract Possessions

کو marks the possessor of abstract nouns such as "tiredness" (تھکن), "happiness" (خوشی), "worry" (فکر), "leisure" (فرصت) and so on. In this construction, the verb agrees with the abstract noun being possessed since the logical subject in English is marked with کو. We will discuss this further in Chapter 11 when we consider expressions of possession.

مجھ کو تھکن ہے۔

I am tired.

کیا، آپ کو فرصت ہے؟

Do you have free time?

ہم کو بہت فکر ہے۔

We are very worried.

سنیل کو پیسوں کی ضرورت تھی۔

Sunil needed money (lit. Sunil had the need for money).

In the last example above, the past tense auxiliary تھی is in the feminine agreeing with the abstract noun ضرورت.

9.8 Reading and Translation Drill

- ۱۔ کیا، تم کو آج بہت تھکن ہے؟
اُس کو آج بہت تھکن ہے، کیا؟
میں ٹینیس نہیں کھیل سکتا کیونکہ مجھ کو بہت تھکن ہے۔
ہم وہاں نہیں جا رہے ہیں کیونکہ ہم کو تھکن ہے۔
۲۔ کل میرا خاندان آ رہا ہے۔ مجھ کو بہت خوشی ہے۔
کیا، تم کو بھی بہت خوشی ہے؟
سینڈریلا کو بھی بہت خوشی تھی کیونکہ وہ بھی پارٹی میں جا رہی تھی۔
اُس لڑکے کو خوشی ہے کیونکہ آج وہ بہت مٹھائی کھا سکتا ہے۔
۳۔ ہاں، بیچارے بیمار طالب علم کو بہت فکر ہے۔
آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیا، آپ کو فکر ہے؟
ہاں، آج مجھ کو بہت فکر ہے۔
اُس پاگل لڑکی کو بالکل فکر نہیں تھی۔
۴۔ میں نہیں کھیل سکتا۔ مجھ کو فرصت نہیں۔
کل اُن کو بہت فرصت تھی۔ آج وہ بہت مصروف ہیں۔
ہم نیو یارک جا رہے ہیں کیونکہ ہم کو فرصت ہے۔
کیا، آپ کے دوستوں کو پچھلے ہفتے فرصت تھی؟
۵۔ ولیم کو کس چیز کی ضرورت تھی؟
کیا، ہندوستان جانے کے لئے امریکنوں کو ویزا کی ضرورت ہے؟
پچھلے پیر کو اکبر کو فرصت کی بہت ضرورت تھی۔
انتہا کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟!

Translate the following sentences into Urdu:

1. My friends can play tomorrow because they have free time (leisure).
2. I cannot work because I am very tired.
3. Are you (informal) happy today?
4. No. I am worried because tomorrow evening I have to go to school.
5. I have some free time today and I ought to play tennis.
6. The patient needed the best doctor (lit. had need of the best doctor).
7. Did you need more books from the library last night? (lit. did you have the need for more books from the library last night?)

9.9 Special Object Forms

When certain pronouns in the oblique case are combined with **کو**, they generally have a special form:

مجھ کو	مجھے
تجھ کو	تجھے
تم کو	تمہیں
اس کو	اسے
اُس کو	اُسے
ہم کو	ہمیں
ان کو	انہیں
اُن کو	اُنہیں
کس کو	کسے
کن کو	کنہیں

The use of these special forms is considered preferable in idiomatic Urdu.

مجھ کو کام کرنا ہے۔

مجھے کام کرنا ہے۔

I have to work.

Both these sentences are grammatically correct, but the second sentence is more idiomatic. Note that the combination of pronouns and postpositions is only possible when the postposition کو immediately follows the pronouns.

9.9 Reading and Translation Drill

- ۱۔ مجھے آج وہاں جانا ہے۔
تجھے اُس سے ملنا چاہیے۔
تمہیں بہت پڑھنا ہے۔
کیا، آپ کو یہ پھل لینے ہیں؟
۲۔ کل کسے کام کرنا ہے؟
پرسوں کنہیں کام کرنا ہے؟
مجھے بہت بخار ہے، مگر میں سو نہیں سکتا کیونکہ مجھے وہاں جانا ہے۔
تجھے کھانسی ہے، مگر اُسے بخار ہے۔
۳۔ ہمیں اُسے شراب نہیں دینی چاہیے!
انہیں کیا پسند ہے؟ کافی یا چائے؟
انہیں یہ کتاب اسے دینی نہیں چاہیے۔
کل رات کو مجھے گھر جلدی جانا تھا۔
۴۔ اُسے یہ کام کرنے کی فرصت نہیں تھی۔
کیا! انہیں آپ سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے!

ہمیں ایک ٹھنڈی کوکا کولا چاہیے۔
اس بات کے بارے میں تمہیں زگس کی والدہ سے پوچھنے کی ضرورت تھی۔

Translate the following sentences into Urdu using the special object form.

1. He has a lot of work but he has to go there.
2. Do you (informal) have free time? We don't have free time.
3. To whom will you (least formal) give this book?
4. I will send him in the evening.
5. Do you (informal) have a cough?
6. I should have gone home last night! I am very sick today.

9.10 Stem + کے/کر

When two actions are performed consecutively by the same subject, the sentence is formed in this manner:

stem of the infinitive of the first verb + کے/کر + conjugated form of second verb.

The enclitics کر or کے divide the two actions and can be used interchangeably unless the first verb is کرنا or a complex verb formed with کرنا. If this is the case then only the enclitic کے can be used.

میں ناچ کر گاتا ہوں۔

Having danced, I sing.

(subject -- verb 1 stem -- enclitic -- verb 2)

The second verb is conjugated and agrees with the subject.

میں کام کر کے ٹی۔ وی دیکھتا ہوں۔

Having done work, I watch T.V.

The "stem + کر" construction occurs in one of the common Urdu phrases used to express "please." Instead of using مہربانی سے for "please" or "kindly," the phrase مہربانی کر کے (lit. "having done a kindness") may be used. In formal Urdu, the verb فرماتا (lit. "to order, to command") is sometimes used instead of کرنا, resulting in the phrase مہربانی فرما کر (lit. "having commanded a kindness") being employed as a very polite equivalent of the English "please."

مہربانی سے بچے کا سیٹ بیلٹ باندھیے!
 مہربانی کر کے بچے کا سیٹ بیلٹ باندھیے!
 مہربانی فرما کر بچے کا سیٹ بیلٹ باندھیے!

Please fasten the child's seat belt.

Combine the two sentences in the following manner and then translate them into English:

Example:

میں کھانا کھاتا ہوں۔ میں گھر جاتا ہوں۔
 میں کھانا کھا کر گھر جاتا ہوں۔

Having eaten the food, I go home.

- ۱۔ وہ اخبار پڑھتا ہے۔ وہ خط لکھ سکتا ہے۔
- ۲۔ ٹینیس کھیلو۔ دودھ پیو۔
- ۳۔ شام کو کام کیجیے۔ رات کو سینما دیکھیے۔
- ۴۔ ہماری لڑکیاں گاتی ہیں۔ ہماری لڑکیاں ناچ سکتی ہیں۔
- ۵۔ تم ٹی۔وی دیکھتے ہو۔ تم سو سکتے ہو۔
- ۶۔ بیچاری غریب لڑکی کچرا اٹھا رہی تھی۔ بیچاری غریب لڑکی کچرا کھا رہی تھی۔
- ۷۔ عورت بازار سے سبزی خریدتی ہے۔ عورت سبزی پکائیگی۔
- ۸۔ پاکستان کے صدر اس کمرے میں تشریف لائیں گے۔ پاکستان کے صدر اس بڑی کرسی پر

تشریف رکھینگے۔

9.10 Reading and Translation Drill

- ۱۔ میں کام کر کے وہاں جاتا ہوں۔
وہ کام کر کے کھیلتا ہے۔
کیا، تم کام کر کے پڑھتی ہو؟
نہیں، میں پڑھ کے کام کرتی ہوں۔
- ۲۔ میں گوشت پکا کر کھاتا ہوں۔
وہ سبزیاں پکا کر نہیں کھا سکتا۔
کیا، تو کام کر کے نہیں کھا سکتا؟
ہم آئیس کریم خرید کر کھا رہے ہیں۔
- ۳۔ کیا، تم ہر روز گا کر سوتی ہو؟
نہیں، میں ہر رات پڑھ کر سوتی ہوں۔
کیا، وہ ہر پیر کو ٹینیس کھیل کر کام کرتے ہیں؟
نہیں، وہ کام کر کے ٹینیس کھیل رہے ہیں۔
- ۴۔ مہربانی فرما کر یہ کام کیجئے۔
مہربانی فرما کر ہمارے گھر تشریف لائیے۔
مہربانی فرما کر یہاں بیٹھیے۔
مہربانی فرما کر تشریف رکھیے۔
مہربانی فرما کر اُن کو کھانا دیجئے۔

9.11 Noun-Verb Agreement in Urdu

In Urdu, if there are several inanimate nouns, the number-conjugation of the verb will depend on the last object in the series.

مجھ کو چاول، دال، اور روٹی بہت پسند ہے۔

I like rice, dal, and bread.

The end verb is ہے instead of ہیں because روٹی is singular. If the series of nouns has animate beings, then the verb will be in the plural:

مجھ کو علی، راشد، رومی اور گیتا بہت پسند ہیں۔

I like Ali, Rashid, Ravi, and Gita very much.

9.11 Reading and Translation Drill

- ۱۔ آج کھانے میں گوشت، روٹی، چاول اور مرغی کا سالن ہے۔
کیا، آپ کے گھر میں دہی اور روٹی ہے؟
مجھے برگر، پیزا اور کوک بہت پسند ہے۔
اُس کو بریانی اور مٹھائیاں بہت پسند ہیں۔

Translate the following sentences into Urdu:

1. Sheila likes Matt Damon, Brad Pitt, and Tom Cruise. Which actors do you like?
2. Please give Neil and Dimple apples, oranges, and milk.
3. Do you (least formal) like chicken curry and rice?
4. Do you (informal) like Lata Mangeshkar and Muhammad Rafi? -- Who are they?
5. We don't like Amitabh Bachchan. Our favorite actor is Shahrukh Khan.
6. Mallar liked that blue shirt.
7. Abid has to buy some pens and books from the store.

9.12 Cardinal Numbers 51-60

۵۱ اکاون

۵۲ باون

۵۳	ترپن
۵۴	چون
۵۵	پچپن
۵۶	چھپن
۵۷	ستاون
۵۸	اٹھاون
۵۹	اُنسٹھ
۶۰	ساٹھ

9.13 Expressing Time with the Enclitic کے/کر

The verb بجنا, "to strike," is used in Urdu to express time in phrases that are equivalent to the English "o'clock." In order to express *complete hours*, the past participles of بجنا - بجے/بجایا are used. بجایا is only used for 1, and بجے for all other numbers.

ایک بجایا ہے۔ It's one o'clock.

گیارہ بجے ہیں۔ It's eleven o'clock.

For expressions indicating minutes past the hour, بجنا is combined with the enclitic کے/کر.

In order to say 8:10, one would say "having struck 8, it is 10 minutes."

آٹھ بج کر دس منٹ ہیں۔ 8:10

پانچ بج کے بیس منٹ ہیں۔ 5:20

In this construction, کے/کر are added to the stem of بجنا and then followed by the number of minutes. To express minutes before the hour, the postposition میں is used instead of کے/کر with the verb بجنا. The postposition میں puts the infinitive بجنا into the oblique.

دس بجنے میں بیس منٹ ہیں۔ 9:40

(literally: There are twenty minutes in the striking of ten.)

To state that something will occur or take place at a certain time, the postposition **پر** is used for "at," when a specific number of minutes is mentioned. With other time expressions involving complete hours (or fractions of hours), the postposition is generally not explicitly used but implied. Consequently the past participle of **بجنا** is used in its oblique form, i.e., **بجے**. Example:

ٹرین دس بجے نکلیگی۔

The train will depart at ten o'clock.

ٹرین ایک بجے روانہ ہوگی۔

The train will depart at one o'clock.

(Note: past participles in above two examples are in the implied oblique)

ہوائی جہاز دس بج کر پانچ منٹ پر پہنچ رہا ہے۔

The airplane is arriving at five minutes past ten.

ہوائی جہاز دس بجنے میں پانچ منٹ پر پہنچ رہا ہے۔

The airplane is arriving at five minutes to ten.

To express a.m. or p.m., the time of the day is stated with **کو** if appropriate:

دوپہر کو دو بجے آئیے!

Come at two p.m. (lit. two o'clock in the afternoon)!

Sometimes the possessive **کے** may also be used in this construction instead of **کو**:

رات کے دس بجے تو کہاں جا رہا تھا؟

Where were you going at ten o'clock at night (at 10 p.m.)?

To express exact time, the word **ٹھیک** is used before the time expression:

ہماری چھوٹی بیٹی ہر صبح ٹھیک چار بجے جاگتی ہے۔

Our little daughter wakes every morning at exactly 4 o'clock.

9.13 Reading and Translation Drill

- ۱۔ میں دس بج کر بیس منٹ پر سوتا ہوں۔
وہ سات بج کر پانچ منٹ پر آ سکتا ہے۔
کیا، تم گیارہ بج کر بیس منٹ پر جا سکتی ہو؟
نہیں، مجھ کو گیارہ بج کر بیس منٹ پر کام کرنا ہے۔
- ۲۔ آٹھ بجنے میں دس منٹ پر ملاز اسکول میں تھا۔
کل صبح ٹھیک نو بجنے میں پچیس منٹ پر امیت کو وہاں کیوں جانا ہوگا؟
اسکول بس ہر روز ٹھیک سات بجنے میں بیس منٹ پر بچوں کو لینے کے لئے آتی ہے۔
میں آپ کے دفتر ٹھیک ایک بجے پہنچوں گی۔
امریکہ میں گرمیوں کے مہینوں میں رات کو آسمان پر تارے دیر سے نکلتے ہیں۔
- ۳۔ میرے خیال میں بارش کی وجہ سے ہوائی جہاز وقت پر دلی نہیں پہنچے گا۔
میرے خیال میں پی۔ آئی۔ اے کا ہوائی جہاز دیر سے آئے گا۔
ایئر انڈیا کے افسر کے خیال میں ہوائی جہاز گیارہ بجنے میں چھتیس منٹ پر کلکتہ سے روانہ ہوگا۔
- ۴۔ مہربانی فرما کر آپ لوگ ٹھیک چار بج کر دس منٹ پر ہسپتال کے سامنے مجھ سے ملیئے!
آپ جمعرات کو یہاں سے کتنے بجے نکلیں گے؟
میں حیدرآباد کے لئے صبح پانچ بیس کی ریل گاڑی سے روانہ ہوں گا۔
کل رات حسین بیمار تھا۔ اس کے لئے ہم رات کے دو بجے ہسپتال میں تھے۔
کیا، تم لوگ میرے گھر تین بجے تک پہنچ سکتے ہو؟
یہ آل انڈیا ریڈیو ہے۔ اس وقت رات کے گیارہ بج رہے ہیں۔

Write out the following times in Urdu:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. 1:00 | 11. 11:39 p.m |
| 2. 2:10 | 12. 12:40 a.m. |
| 3. 3:17 | 13. 1:43 |
| 4. 4:20 p.m. | 14. 2:47 a.m. |
| 5. 5:22 a.m. | 15. 3:49 p.m. |
| 6. 6:24 | 16. 4:51 p.m. |
| 7. 7:25 | 17. 5:52 a.m. |
| 8. 8:28 p.m. | 18. 6:54 p.m. |
| 9. 9:32 | 19. 7:55 |
| 10. 10:37 | 20. 8:58 p.m. |

Translate the following passage into English:

میرا نام سیما ہے۔ میں کورنیل میں پڑھتی ہوں۔ کورنیل بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے۔ مجھ کو کورنیل بہت پسند ہے۔ میرا خاندان بھی نیویارک میں رہتا ہے۔ میرے والد صاحب پروفیسر ہیں اور میری والدہ گھر میں کام کرتی ہیں۔ میرے ماں باپ ہر سال پاکستان جاتے ہیں مگر میں اُن کے ساتھ نہیں جاسکتی کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں ہر وقت مصروف رہتی ہوں۔ مجھے آج بھی بہت پڑھنا ہے۔ پڑھ کر ایک مضمون لکھنا ہے۔ مضمون لکھ کر میں دیوی کے گھر جاؤنگی۔ دیوی میری سہیلی ہے۔ وہ بھی کورنیل میں پڑھ رہی ہے۔ وہ ہندوستان سے ہے۔ وہ اس وقت کام کر رہی ہے۔ کام کر کے وہ میرے لئے کھانا پکائے گی۔ وہ بہت مزیدار کھانا بناتی ہے۔ ہم دونوں کو دال اور روٹی بہت پسند ہے۔ ہم ہر روز شام کو کھانا کھا کر ٹینیس کھیلتی ہیں۔ ٹینیس کھیلنے کے بعد، ہم دونوں ٹی۔ وی دیکھتی ہیں۔ میرا پسندیدہ پروگرام فرینڈز ہے۔ اچھا، اب مجھے جانا ہے۔ خدا حافظ۔

9.14 گفتگو (Conversation)

- ممی: نرگس بیٹی، کیا، تم چائے پینا چاہتی ہو؟
- نرگس: جی نہیں۔ مگر مجھے ہاتھ دھونے ہیں۔
- راج: نرگس دیکھو، غسل خانہ اُدھر ہے۔
- پتاجی: راج، کل شام کو تم کیا کر رہے ہو؟ کیا، تم کو فرصت ہے؟
- راج: جی پتاجی۔ مجھ کو فرصت ہے۔ کل دو پہر کو ہمیں بہت کام کرنا ہے۔
- پتاجی: مجھ کو حسین کے لئے پھل خریدنے ہیں۔ وہ ہسپتال میں ہے۔
- ممی: ہاں۔ مجھے بھی وہاں جانا چاہیے۔ وہ بیچارہ بیمار ہے۔ ریشما، کیا، تم ہسپتال جا کر حسین بھائی کو یہ مٹھائی دے سکتی ہو؟
- ریشما: ممی، مجھے بہت تھکن ہے۔ میں اب سونا چاہتی ہوں۔
- نرگس: کیا، تم میرے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتی ہو؟
- ریشما: ہاں، ہاں! میں سو کر کھیل سکتی ہوں۔
- نرگس: یہ مٹھائی بہت مزیدار ہے۔ مجھ کو سب مٹھائیاں بہت پسند ہیں۔ ریشما، ادھر آؤ۔ تھوڑی مٹھائی کھاؤ۔
- ریشما: جی نہیں دیدی۔ میں اب سونا چاہتی ہوں۔
- راج: نرگس، کیا تم ٹی۔ وی دیکھنا چاہتی ہو؟
- نرگس: کیا وقت ہے؟
- راج: نو بج کر دس منٹ ہیں۔
- ممی (نرگس سے): تم صبح کب اُٹھتی ہو؟
- نرگس: میں سات بجے اُٹھتی ہوں۔
- ممی: اچھا نرگس۔ اب تم بیٹھو۔ میں توجاتی ہوں۔

نرگس: اچھا آئی۔ خدا حافظ۔ اب مجھے بھی جانا چاہیے۔ کل صبح مجھے بہت کام کرنا ہے۔
 راج: میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ کیا تم پندرہ منٹ اور بیٹھ سکتی ہو؟ مجھے لگتے
 کو کھانا دینا ہے۔

نرگس: کیوں؟ پندرہ منٹ کے بعد کیا ارادہ ہے، راج؟
 راج: بولو! تم کو مجھ سے پیار ہے؟
 نرگس: راج!

9.15 Conversation Practice (1)

Create a dialogue with at least 8-10 sentences, using the following words and constructions:

تھکن
 فرصت
 فکر
 خوشی
 پسند

infinitive + ہے

infinitive + چاہیے

verbal stem + کر

9.15 Conversation Practice (2)

Anil: Hello, Madhu, how are you?
 Madhu: Fine, thanks. What are you doing here? Do you come to work even on Sunday?
 Anil: No, I don't come every Sunday, but I have to do a lot of work today. Having
 done my work, I can play tennis with Ashwin.
 Madhu: Yes, I also don't have a lot of free time. Having done this work, I have to

cook. There is no food in the house.

Anil: Would you like to play tennis with Ashwin and me? Playing tennis is good for health. We play tennis at five o'clock.

Madhu: I like tennis very much but I ought to study. Can I play with both of you tomorrow?

Anil: Yes, we can play tomorrow. I have to go. I am meeting Ashwin at ten minutes to five at his house.

Madhu: Take these. These are very good sweets.

Anil: These sweets are very good. Can I give them to Ashwin?

Madhu: No, you eat these. I can make more for Ashwin tomorrow.

9.16 Songs

(۱) تو چیز بڑی ہے مست مست
تو چیز بڑی ہے مست
نہیں تجھ کو کوئی ہوش ہوش
اُس پر جو بن کا جوش جوش
نہیں تیرا، نہیں تیرا کوئی دوش دوش
مدہوش ہے تو ہر وقت وقت
تو چیز بڑی ہے مست مست
عاشق ہے تیرا نام نام
دل لینا تیرا کام کام
میری بانہیں مت تھام تھام
بدنام ہے تو بد مست مست

تو چیز بڑی ہے مست مست

(۲) او باغوں میں بہار ہے؟ (ہے)

کلیوں پے نکھار ہے؟ (ہے)

او تم کو مجھ سے پیار ہے؟

(نانا نانا۔۔۔۔)

اے باغوں میں بہار ہے؟

بولو تم کو اقرار ہے؟ (ہاں ہے)

پھر بھی انکار ہے؟ (ہاں ہے)

او تم کو مجھ سے پیار ہے؟ (نانا نانا۔۔۔۔)

اے باغوں میں بہار ہے؟

بولو کیا دل بیقرار ہے؟ (ہے)

مجھ پے اعتبار ہے؟ (ہاں ہے)

جینا دشوار ہے؟ (ہے، ہے)

آج سوموار ہے؟ (ارے بابا ہے!)

تم کو مجھ سے پیار ہے؟ (ہے، ہے۔۔۔۔۔)

(۳) تم سے ملنے کی تمنا ہے

پیار کا ارادہ ہے

اور ایک وعدہ ہے جانم

جو کبھی ہم ملے تو زمانہ دیکھیگا اپنا پیار۔۔۔۔۔ او میرے یار!

Glossary for Songs

ہوش = understanding, awareness (m)	کلی = flower bud (f)
جوہن = youthfulness; adolescence (m)	نکھار = glow, shine; freshness (m)
جوش = fervor, zeal, ardor (m)	اقرار = consent, agreement (m)
دوش = fault, blemish (m)	انکار = refusal, denial (m)
مدہوش = intoxicating; stupefying; perplexing	بے قرار = restless, uneasy, anxious
بانہہ = arm; sleeve (f)	اعتبار = confidence, trust (m)
تھامنا = to hold; to seize	تمنا = desire, wish (f)
بدنام = disreputable, infamous	وعدہ = promise (m)
بہار = spring season (f)	جانم = my beloved (Persian)

9.17 Vocabulary

to call/invite	لمانا
to come out, to arise; to depart	نکلنا
to depart, to set out	روانہ ہونا
cough (f)	کھانسی
to enter (formal Urdu)	تشریف لانا
essay/composition (m)	مضمون
fever; wrath; steam (m)	بخار
girlfriend (for girls)	سہیلی
hand (m)	ہاتھ
happiness (f)	خوشی
hour (m)	گھنٹا

in that direction/in this direction	اُدھر / اِدھر
intention (m)	اِرادہ
intoxicating	مست
late	دیر سے
leisure; free time (f)	فُرصت
medicine (f)	دوا، دوائی
pleasing	پسند
poor thing/fellow (f/m)	بیچارہ / بیچاری
quiet/silent	خاموش
to sell	بیچنا
to send	بھیجنا
shirt (f)	قمیض
to sit down (formal Urdu)	تشریف رکھنا
sixty	ساٹھ
some, few; scanty, little; less	تھوڑا
stroll, walk, tour (f)	سیر
to stroll, to take a walk, to tour	سیر کرنا
tiredness (f)	تھکن
voice, sound, noise (f)	آواز
to wake up/rise	اُٹھنا/ جاگنا
to wash	دھونا
worry (f. or m.)	فکر

Chapter 10

10.1 The Verb جانتا, "To Know"

The verb جانتا, the generic form of the verb "to know," is used in the following instances:

1. When the subject desires to express familiarity/acquaintance with a person.
2. When the subject expresses knowledge about a general fact or an area/field or a skill.

When جانتا is used in cases in which its object is animate or specific, then the object is marked by کو. Remember that کو is a postposition and nouns/pronouns marked by it will be in the oblique.

میں سلمان کو جانتا ہوں۔

(subject -- object -- object marker کو -- verb)

I know Salman.

میں اس لڑکے کو جانتا ہوں۔

(subject -- object -- object marker کو -- verb)

I know this boy.

میں اُردو اور ہندی جانتا ہوں۔

I know Urdu and Hindi.

In the last example, Urdu and Hindi are inanimate objects, so they are not marked by کو.

Important note: The verb جانتا should not be confused with the verb جانا "to go." The stem of جانتا

is جان while that of جانا is جا. Thus میں جانتا ہوں means "I know" while میں جاتا ہوں

means "I go." Similarly, میں جانوں گا means "I will know" and میں جاؤں گا means "I will go."

10.1 Reading and Translation Drill

- ۱۔ میں صرف سلمان خان کو جانتا ہوں۔
کیا، آپ ٹام کروز کو جانتے ہیں؟
نہیں۔ مگر میری بہنیں ٹام کروز کو جانتی ہیں۔
وہ بل کلنٹن کو جانتے ہیں، کیا؟
- ۲۔ ہم عربی نہیں جانتے مگر اردو/ہندی جانتے ہیں۔
کیا، وہ تمہارا نام جانتے ہیں؟
جی نہیں۔ وہ میرا نام نہیں جانتے۔
کیا، وہ سب لوگ انگریزی جانتے ہیں؟
- ۳۔ کیا، ہم آپ کے والد صاحب کا اسم شریف جان سکتے ہیں؟
اُن کے پیار کی قیمت دینا کیا جانیگی؟
کون جانتا ہے کہ پچھلی جمعرات کو کیا تاریخ تھی؟
بچپن میں، یہ بوڑھی عورت ان سب چیزوں کے نام جانتی تھی!

10.1 Substitutions

- ۱۔ میں (اُن لڑکوں) کو جانتا ہوں۔

these girls

that beautiful girl

your brother

his family

- ۲۔ کیا، وہ (تم) کو نہیں جانتے تھے؟

these players/athletes

those students

our daughters

this clever girl

۳۔ ہم (اُردو) نہیں جانتے، مگر (انگریزی) جانتے ہیں۔

Hindi

German

Gujarati

Bengali

names of these people

their names

this famous poet

that clever boy's name

10.2 معلوم ہونا Construction

معلوم ہونا, or "to be known," is a complex verbal formation, formed with the predicate adjective معلوم and the auxiliary verb ہونا. In comparison to جانتا, the construction معلوم ہونا is used in a restricted context. It primarily denotes knowledge of one specific fact or a group of ascertainable facts such as:

1. times of the day
2. prices of things
3. names of people, etc.

جانتا, being a more expansive verb "to know," can often replace معلوم ہونا, but the reverse is usually not possible. In معلوم ہونا constructions, the logical subject in English is marked by کو:

کیا، آپ کو وقت معلوم ہے؟

Do you know the time?

(Note: Although آپ is the logical subject in English, in Urdu it is actually the grammatical object, and وقت is the grammatical subject, with which the verb ہونا agrees. The literal translation of the example above is: "Is the time known to you?")

کیا، اُس کو اُن کے نام معلوم ہیں؟

Does he know their names?

In the example above, the verb ہونا is in the plural because the grammatical subject in Urdu (نام) is plural.

مجھ کو اس چیز کی قیمت معلوم نہیں۔

I don't know the price of this thing.

In the past tense, the appropriate form of the auxiliary تھا is used:

مجھے معلوم تھا کہ انھیں فکر تھی۔

I knew that he was worried.

Similar to the معلوم ہونا construction, but perhaps more colloquial, is one that employs the word پتا, meaning "trace, clue, hint; address." It too is used with the verb ہونا with the logical subject in English being marked by کو to indicate knowledge of a specific fact or piece of information.

آپ کو پتا ہے کہ شالیمار باغ کہاں ہے؟

Do you know where is the Shalimar garden?

جناب، مجھے پتا نہیں!

Sir, I don't know.

پتا may also be used with the verb چلنا, with the logical subject in English marked by کو, as the verb "to come to know."

ہمیں اس بات کے بارے میں کب پتا چلیگا؟

When will we (come to) know about this matter?

10.2 Reading and Translation Drill

- ۱۔ کیا، تمہیں میرے گھر کا پتا معلوم ہے؟
جی نہیں۔ ہمیں آپ کے گھر کا پتا نہیں معلوم۔
اُسے ایسا بھٹن کے گھر کا پتا معلوم ہے، کیا؟
تمہارے گھر کا پتا کسے معلوم تھا؟
- ۲۔ اُن طالب علموں کو کل کی تاریخ نہیں معلوم تھی۔
کیا، آپ کو آج کی تاریخ معلوم ہے؟
مجھ کو آپ کی سالگرہ کی تاریخ معلوم ہے۔
کیا، آپ کو ہمارے امتحان کی تاریخ معلوم ہے؟
ہم کو ان قالینوں کی قیمت معلوم ہے۔
کیا، تجھ کو اس دوائی کی قیمت معلوم تھی؟
مجھ کو اُن کتابوں کی قیمتیں معلوم ہیں۔
اُن کو اس چائے کی قیمت نہیں معلوم۔
- ۳۔ کیا، آپ کو ایسا بھٹن کی بیوی کا نام معلوم ہے؟
جی ہاں، مجھ کو معلوم ہے۔ اُن کا نام جیہ بہاؤری ہے۔
کیا، تم کو امریکہ کے صدر کا نام معلوم ہے؟
نہیں، مگر مجھ کو ہندوستان کے صدر کا نام معلوم ہے۔
- ۵۔ کیا، آپ کو پتا نہیں کہ وہ بیچارہ بہت غریب تھا۔
کیا، اس کے ساجن کو پتا ہے کہ وہ ہر وقت اُس کو یاد کرتی ہے اور سوتی نہیں؟
ہم لوگوں کو پتا ہے کہ مجنون ایک مشہور مست عاشق تھا۔
مجھے کیا پتا تھا، میری سہیلی صرف سبزی کھائیگی۔
میری ممی کو راج کے بارے میں سب کچھ پتا تھا۔

10.3 The Verb آنا and Knowledge of Learned/ Acquired Skills

We have already encountered آنا in its meaning "to come." آنا is also used in constructions in sentences that denote the knowledge of a learned/acquired skill. In such a construction, the logical subject in English is marked by کو, thus becoming an object in Urdu. The verb agrees with the grammatical subject in Urdu or the logical object in English:

مجھ کو اردو آتی ہے۔

I know Urdu.

کیا، آپ کو سرود بجانا آتا ہے؟

Do you know how to play sarod?

In the first sentence, the verb is feminine because its grammatical subject (Urdu) is feminine. In the second sentence, the verb is masculine because its grammatical subject, the infinitive سرود بجانا, "to play sarod," is a verbal noun in the masculine. Note that the grammatical subject of آتا can either be a proper noun, اردو, or a verbal noun, بجانا. Sometimes, the agreement of the verb will vary depending on the definition of the grammatical subject:

کیا، آپ کو گاڑی چلانا آتا ہے؟

Do you know how to drive a car?

The grammatical subject in the sentence above is گاڑی چلانا, "driving a car," hence the verb is in the masculine.

کیا، آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے؟

Do you know how to drive a car?

In the second example, since گاڑی is feminine, the infinitive چلانا can take on a feminine ending, and in that case so will the verb آتی. In the past tense, the appropriate form of the auxiliary تھا is

used.

راج کو ناچنا آتا تھا۔

Raj used to know how to dance.

10.3 Reading and Translation Drill

- ۱۔ مجھے تیرنا آتا ہے۔
کیا، تجھے گانا آتا ہے؟
جی ہاں، مجھے گانا آتا ہے۔
اُسے ٹینیس کھیلنا آتا ہے۔
- ۲۔ اُن لڑکوں کو پکانا آتا ہے۔
ان لڑکیوں کو کام کرنا آتا ہے۔
اُس کے لڑکے کو گاڑی چلانی نہیں آتی۔
تمہیں سکوٹر چلانا آتا ہے، کیا؟
- ۳۔ اُسے ناچنا نہیں آتا۔
ہمیں گانا نہیں آتا۔
کیا، انہیں اُردو آتی ہے؟
نہیں۔ اُنہیں صرف انگریزی آتی ہے۔

10.3 Substitutions

- ۱۔ ہمیں (گانا) آتا ہے۔

how to dance

how to swim

how to cook

how to eat

۲۔ نرگس کو (لکھنا) (آتا ہے۔)

will know how to read this book

used to know how to cook Indian food

used to know a little Chinese

will know how to make yogurt

10.3 Translations

Translate the following into idiomatic Urdu:

1. Do you know my favorite actor?
2. I know who Javed Akhtar is, but I don't know him (personally). He is a poet, isn't he?
3. Excuse me, sir, do you know where is the post office?
4. My grandmother (maternal) used to know the famous actor Dilip Kumar.
5. I know that Amitabh Bacchan is taller than you (informal).
6. Does Nargis know how to make spaghetti with Indian spices?

10.4 The Verb پوچھنا, "To Ask"

When پوچھنا "to ask" is used in Urdu, the indirect object is followed by a سے:

میں اُس سے پوچھتا ہوں۔

I ask him.

(subject -- indirect object -- marker سے -- verb)

میں اُس عورت سے پوچھوں گی۔

I will ask that woman.

(subject -- indirect object -- marker سے -- verb)

The direct object, if animate or specific, is followed by کے بارے میں. If the object is not

animate or specific, the use of میں کے بارے میں is optional.

میں اُس سے علی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔

I am asking him about Ali.

کے بارے میں (subject -- indirect object -- marker سے -- animate direct object -- object marker میں اُس سے علی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔
-- verb)

میں اُس سے یہ بات (اس بات کے بارے میں) پوچھتا تھا۔

I used to ask him about this matter.

(subject -- indirect object -- marker سے -- inanimate direct object -- verb)

10.4 Reading and Translation Drill

- ۱۔ وہ مجھ سے اُس بوڑھے آدمی کا نام پوچھتا ہے۔
وہ تم سے اُن لڑکوں کے نام پوچھتا ہے۔
وہ اُن لڑکوں سے تمہارا نام پوچھتا ہے۔
ہم اُن لڑکیوں سے تمہارا نام نہیں پوچھتے۔
۲۔ تم ہم سے اُن کا پتا پوچھتے ہو؟
نہیں، میں اُس اچھی لڑکی سے اُن کا پتا پوچھتی ہوں۔
آپ کس سے اُن کا پتا پوچھ رہے ہیں؟
میں ان ہوشیار لڑکوں سے اُن کا پتا پوچھ رہی ہوں۔
۳۔ تم یہ سوال وزیر اعظم کے پیچھے سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ سچ نہیں بولیگا۔
جناب، آپ میرے دل کی باتیں مجھ سے نہ پوچھیے!
وہ ہوشیار عورت پاکستان کے صدر سے ایک مشکل سوال پوچھ گئی۔
شاہ رخ جی، کیا ہم آپ سے پیار کے بارے میں دو تین سوال پوچھ سکتے ہیں؟

10.4 Substitutions

۱۔ (راج) سے پوچھیے۔

That girl

These boys

My brother

Your clever friend

۲۔ میں (زاہد) سے (علی) کے بارے میں پوچھتا ہوں۔

that girl your brother

that boy these doctors

that vagabond's home my father

Imran Khan's address that athlete

10.5 The Verb ملنا with کو and سے

The meaning of certain verbs changes depending upon the postposition with which they are used.

1) ملنا + postposition سے to mark the object means "to meet":

میں علی سے ملتا ہوں۔

I meet (with) Ali.

وہ اُن لڑکیوں سے ملتے ہیں۔

They meet (with) those girls.

In the above sentences, the object (of meeting) is marked with سے.

2) ملنا + postposition کو to mark its logical subject in English means "to get, obtain, find":

وہاں مجھ کو خدا ملتا ہے۔

I find God there.

اُس کو وہ چیزیں ملتی ہیں۔

He gets those things.

آپ کو یہ کتابیں کہاں ملتی ہیں؟

Where do you get these books?

In the above sentences, the logical subject in English, that is the person/thing who is getting, obtaining, or finding something is marked by کو. Note that the verb in all the sentences agrees with the things that are being obtained or found.

10.5 Reading and Translation Drill

- ۱۔ ہم عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں۔
کیا، تم امریکہ کے صدر سے ملنا چاہتے ہو؟
نہیں، میں امریکہ کے صدر سے ملنا نہیں چاہتا مگر ہندوستان کے وزیر اعظم سے ملنا چاہتا ہوں۔
- ۲۔ میں اُن خوبصورت لڑکیوں سے ملنا چاہتی ہوں۔
کیا، ہم بولیوڈ میں شاہ رخ خان سے مل سکتے ہیں؟
نہیں، آپ وہاں اُس سے نہیں مل سکتے۔
ہم بھی اُن ڈاکٹروں سے مل رہے ہیں۔
آپ اُن مشہور شاعروں سے کب ملیں گے؟
- ۳۔ کیا، ہم کو بازار میں یہ سندر چیزیں ملتی ہیں؟
آپ کو پاکستان میں ہر چیز مل سکتی ہے۔
آج کل یہاں کیا ملتا ہے؟
آج کل یہاں کچھ بھی نہیں ملتا۔

۴۔ معاف کیجئے، اُس خوبصورت لڑکی کو آنکھوں کا کاجل کہاں ملیگا؟
 معاف کیجئے، ہمیں تاج محل ہوٹل میں دو کمرے ملیں گے؟
 معاف کیجئے، میری اس سہیلی کو چائے کب ملیگی؟
 معاف کیجئے، نرگس جی، اس مست عاشق سے ملیئے۔ وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے!

Translate into Urdu:

1. We are meeting those boys today.
2. Can I meet that famous professor?
3. They get all those beautiful things in India.
4. What can you (informal) get in Canada?
5. Those girls want to meet Shahrukh Khan.
6. Where will I find medicine for this illness?
7. Raj used to get sweets from this famous sweet shop.

10.6 The Verb کہنا with کو and سے

When the verb کہنا means "to tell," the person to whom something is being said or told is usually marked by سے.

میں اُن سے کہتا ہوں۔

I tell them.

میں اُن سے ایک بات کہتا ہوں۔

I tell them a thing.

When the object of کہنا is marked by کو, then it means to call the object something, usually something negative, but not necessarily so.

لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں؟

What do people call you?

لوگ آپ کے ہونٹوں کو یا قوت کہتے ہیں۔

People call your lips rubies.

اس چیز کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟

What is this thing called in English?

10.6 Reading and Translation Drill

- ۱۔ میں اُن سے یہ باتیں کہتا ہوں۔
وہ مجھ سے یہ سب چیزیں کہتا ہے۔
راج نرگس کو دیکھ کر غزل کہتا ہے۔
آپ اُس سے کیا کہتے ہیں؟
کیا تم مجھ سے دل کی باتیں کہو گے؟
- ۲۔ ان چیزوں کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟
کیا، شاعر کو انگریزی میں "poet" کہتے ہیں؟
کیا، لوگ آپ کو آوارہ کہتے ہیں؟
جی نہیں، لوگ مجھ کو آوارہ نہیں کہتے۔ آسمان کا تارا کہتے ہیں۔
- ۳۔ آپ ڈاکٹر سے کیا کہہ رہے تھے؟
تو مجھے اُلٹو کہتا ہے؟! تو سب سے بڑا اُلٹو ہے!
پاکستان کے صدر ہندوستان کے وزیراعظم سے کیا کہہ سکتے ہیں؟
انگریزی میں نرگس کے پھول کو کیا کہتے ہیں؟
مجھے کچھ بھی کہو! پاگل کہو، مست کہو مگر میں تم سے پیار کرتا ہوں۔

Translate the following sentences into Urdu:

1. Why are you telling me these things?

2. Tell him, "don't go there."
3. What is "love" in Urdu?
4. What does he tell your friends?
5. What does he call your friends?

10.7 Indefinite Pronouns and Adjectives

کوئی can be used as a pronoun or an adjective and, depending on context, may mean "someone, anyone, any; approximately."

وہاں کوئی کھیل رہا ہے۔

Somebody is playing over there.

When کوئی is used as a pronoun in an affirmative sentence, then it means somebody, anybody, or a particular person. کوئی as a pronoun subject is usually singular, hence the verb remains singular too. When کوئی is used with نہیں, then it means nobody.

وہاں کوئی نہیں تھا۔

Nobody was over there.

کوئی may also be used as an adjective, as in the following sentence:

کیا، کوئی آدمی آ رہا ہے؟

Is some man coming?

آپ کو لا بریری سے کوئی کتاب چاہیے؟

Do you need any book from the library?

The oblique form of کوئی is کسی.

آپ کسی سے اس بات کے بارے میں پوچھیے۔

You ask someone concerning this matter.

Before specific numbers کوئی may also be used as an adjective meaning "some, approximately."

In this case its oblique form is the same as the nominative:

اس قمیض کی قیمت کوئی تین سو روپے تھی۔

The price of this shirt was approximately three hundred rupees.

ان پچاس سیب میں کوئی چار یا پانچ خراب ہونگے۔

Among these fifty apples, approximately four or five will be rotten.

Note: Following idiomatic usage, the noun سیب in the second sentence does not adopt its plural oblique form because a specific number -- پچاس -- precedes it.

کچھ can also be used as an indefinite pronoun or adjective. Depending on context, it may mean "something, anything; somewhat; some, any; a little."

وہاں کچھ ہے۔

There is something over there.

کچھ as an adjective means some or a few.

وہاں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے۔

There were some boys playing over there.

When کچھ is used with نہیں it means "nothing."

وہاں کچھ نہیں ہے۔

There is nothing over there.

When used with بھی it means "anything at all, anything whatsoever; nothing at all."

ممی ڈارلنگ آپ کو بازار سے کچھ بھی چاہیے؟

Mummy darling, do you want anything at all from the market?

10.7 Reading and Translation Drill

- ۱۔ کیا، کوئی گھر میں ہے؟
کیا، کوئی وہاں جا رہا ہے؟
نہیں، وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔
یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔
- ۲۔ ذرا دیکھو! کوئی بچہ ہماری گاڑی پر ناچ رہا ہے!
کیا، یہاں کوئی لڑکی پڑھتی ہے؟
نہیں، یہاں کوئی لڑکی نہیں پڑھتی۔
کوئی بھی لڑکا وہاں نہیں جا سکتا تھا۔
- ۳۔ کیا، آپ یہ باتیں کسی سے پوچھ سکتے ہیں؟
نہیں، ہم یہ باتیں کسی سے نہیں پوچھ سکتے۔
کسی ڈاکٹر کو اُس بیمار آدمی کے گھر جانا چاہیے۔
یہاں بہت کام ہے۔ آج کسی کو کام کرنا ہے۔
- ۴۔ اُن کے گھر میں کچھ اچھی چیزیں ہیں۔
کیا، آپ کے مکان میں کچھ سندر چیزیں ہیں؟
نہیں، ہمارے مکان میں کچھ بھی نہیں ہے۔
میں کچھ لڑکوں سے اِس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔
ریشما تو کیا کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں مُمی ڈارلنگ!
نرگس ایک کمرے میں کسی سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہی تھی!
- ۵۔ یہ نہیں ہو سکتا! میں جانتی ہوں کہ اُس کمرے میں کوئی نہیں تھا!
دیوالی کے پروگرام میں کوئی دو سو لوگ تھے۔
اگلے مہینے پاکستان سے کوئی تین ہزار لوگ دُئی کے لئے روانہ ہو گئے۔

۶۔ گرمیوں میں اکثر اس ہوٹل میں کوئی نہیں ہوتا ہے۔

راج کی بلی چیتا اکثر بیمار رہتی ہے۔

دلی میں ہوائی آلودگی (air pollution) کی وجہ سے کچھ لوگوں کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے۔

دفتر کے اکثر لوگ آپ کی پارٹی میں نہیں آ سکیں گے مگر کوئی بات نہیں!

Translate into idiomatic Urdu:

1. Do you need some work?
2. The poor boy is so sick on account of love that he eats nothing at all.
3. Can anyone take (use verb لے جانا) this child to the hospital? He is somewhat sick.
4. Is there any need (ضرورت) to go to Delhi?
5. I think that at night you will not be able to get any taxis from the hotel.
6. Because of air pollution, I will not stay in Los Angeles.

10.8 Fractions and Mass Measurements

Fractions

Fractions used to express quantity in Urdu are as follows:

quarter	پاؤ
half	آدھا/آدھ
3/4	پون
1 1/4	سوا
numeral + 1/4	numeral + سوا
1 1/2	ڈیڑھ
2 1/2	دھائی

numeral + 1/2

numeral + ساڑھے

(except for 1 1/2 and 2 1/2, see above)

Note: آدھا and پون are only used as adjectives with nouns and not with numerals.

پونے [lit. quarter less than] is used before numerals to mean three quarters.

پونے دو کیلو آم

1 3/4 kilo mangoes [lit. quarter less than two].

پونے چار گز کاٹئے۔

Please cut 3 3/4 yards [lit. quarter less than four].

مجھے آدھی روٹی چاہیے۔

I want half a bread.

ہمیں پون پیالی چائے چاہیے۔

We want 3/4 cup of tea.

Note: پونے and ساڑھے can only be used with numerals and not with nouns.

مجھے ساڑھے پانچ کیلو سیب چاہیے۔

I want 5 1/2 kilos of apples.

کیا، اُن کو پونے دو کیلو گوشت چاہیے؟

Do they want 1 3/4 kilos of meat?

Review of Fractions from 1 - 4

1/4	پاؤ	1 1/4	سوا	2 1/4	سوا دو	3 1/4	سوا تین
1/2	آدھا، آدھا	1 1/2	ڈیڑھ	2 1/2	ڈھائی	3 1/2	ساڑھے تین
3/4	پون	1 3/4	پونے دو	2 3/4	پونے تین	3 3/4	پونے چار
1	ایک	2	دو	3	تین	4	چار

Note: Numbers larger than four follow the same pattern to express fractions as for the numeral 3.

Mass Measurements

In the previous chapters we have seen that mass nouns in Urdu (پانی) are treated as singular entities just like their English counterparts:

یہ پانی اچھا ہے۔

This water is good.

Similar logic is followed for other nouns like سبزی (vegetables).

یہ سبزی اچھی ہے۔

This vegetable is good.

The above sentence expresses the opinion that a specific type of vegetables, in mass quantity, is good. If you want to express that more than one kind of vegetables are good, then سبزی should be expressed in plural form:

یہ سبزیاں اچھی ہیں۔

These vegetables (different kinds) are good.

As far as specific measurements are concerned, the words used to express measurements immediately precede the thing that is being measured.

ایک پیالی چینی۔

One cup (of) sugar.

دو چمچے نمک۔

Two spoons (of) salt.

Note that Urdu disposes of any possessive postpositions that are the equivalent of the English

"of."

10.9 Telling Time in Fractions

12:45	پون بجا ہے۔
1:00	ایک بجا ہے۔
1:15	سوا بجا ہے یا سوا ایک بجا ہے۔
1:30	ڈیڑھ بجا ہے۔
1:45	پونے دو بجے ہیں۔
2:00	دو بجے ہیں۔
2:15	سوا دو بجے ہیں۔
2:30	ڈھائی بجے ہیں۔
2:45	پونے تین بجے ہیں۔
3:00	تین بجے ہیں۔
3:15	سوا تین بجے ہیں۔
3:30	ساڑھے تین بجے ہیں۔

The pattern is regular from 3:30 to 12:30.

As we have seen in Chapter 9, the past participle of بچنا (بچا/بچے) is used as the Urdu equivalent of o'clock. As long as the base number is 1, time is expressed as بجا, that is, in the singular.

Note that 30 minutes past the hour is expressed through ساڑھے except in the case of 1:30

(ڈیڑھ) and 2:30 (ڈھائی). To express am or pm, times of the day such as صبح, دوپہر, شام, and

رات are used.

1:45 pm دوپہر (کے) پونے دو بجے۔

Write out the following times in Urdu:

10.9 Reading and Translation Drill

- ۱۔ مجھ کو پاؤ کیلو چاول چاہیئے۔
 کیا، آپ کو آدھ کیلو چینی چاہیئے؟
 جی نہیں، مجھ کو پون کیلو چینی چاہیئے۔
 ہم کو سوا دو کیلو پیاز چاہیئے۔
- ۲۔ سنئے، کیا یہاں ڈیڑھ کیلو مرچ مل سکتی ہے؟
 معاف کیجئے، آپ کو یہاں ڈیڑھ کیلو مرچ نہیں مل سکتی۔ یہ مٹھائی کی دکان ہے!
 میں ساڑھے پانچ کیلو پھل خریدنا چاہتا ہوں۔
 کیا، آپ بھی ساڑھے پانچ کیلو پھل خریدنا چاہتے ہیں؟
- ۳۔ اُن لڑکیوں کو پونے آٹھ کیلو سیب چاہیئے۔
 ہمیں آدھ کیلو سبزی چاہیئے۔
 کیا، تمہیں چار پیالی دودھ چاہیئے؟
 نہیں، مجھے صرف چار پتھے دودھ چاہیئے۔

Answer the following questions in complete Urdu sentences:

- ۱۔ آپ ہالی ووڈ میں کس کو جانتے ہیں؟
- ۲۔ کیا، آپ سنسکرت جانتے ہیں؟
- ۳۔ کیا وقت ہے؟
- ۴۔ کیا، آپ کو امریکہ کے صدر کا نام معلوم ہے؟
- ۵۔ کیا، آپ کے دوست کو ایلزبتھ ٹیلر کے گھر کا پتا معلوم ہے؟
- ۶۔ کیا، آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے؟
- ۷۔ کوئی آپ کو اُلو بنا سکتا ہے؟

- ۸۔ کیا، آپ کو تیرنا آتا ہے؟
- ۹۔ آپ جارج بُش سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟
- ۱۰۔ آپ بولی ووڈ میں کس سے ملنا چاہتے ہیں؟
- ۱۱۔ آپ یونیورسٹی میں کیا پڑھتے ہیں؟
- ۱۲۔ اُردو میں "student" کو کیا کہتے ہیں؟
- ۱۳۔ کیا، آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں؟
- ۱۴۔ آپ ہر روز ڈھائی بجے کیا کرتے ہیں؟
- ۱۵۔ آج کیا تاریخ ہے؟

10.10 Cardinal Numbers 61-70

۶۱	ایکٹھ
۶۲	باسٹھ
۶۳	ترسٹھ (تریسٹھ)
۶۴	چوٹھ
۶۵	پنہٹھ
۶۶	چھیاسٹھ
۶۷	سرسٹھ (سڑسٹھ)
۶۸	اڑسٹھ
۶۹	انہتر
۷۰	ستر

پتاجی (مٹی سے): میری جان! کیا مجھے اور مٹھائی مل سکتی ہے؟
 مٹی: نہیں۔ کیا، آپ کو معلوم نہیں کہ مٹھائی آپ کی صحت کے لئے خراب ہے؟
 پتاجی: او ہوا! ہاں، مجھے یہ تو معلوم ہے۔ مگر میں کیا کر سکتا ہوں؟ مٹھائی مجھ کو
 بہت پسند ہے۔

نرگس: کیا، انکل بیمار ہیں؟
 مٹی: نہیں، یہ بیمار نہیں ہیں۔ چار سال پہلے تمہارے انکل بہت مٹھائی کھاتے تھے
 اور اُس کی وجہ سے اُن کی طبیعت خراب رہتی تھی۔ دن رات ہم ہسپتال میں
 گزارتے تھے۔ میں گھر کا کچھ بھی کام نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے ڈاکٹر صاحب
 اب بھی کہتے ہیں کہ مٹھائی دل کے لئے اچھی نہیں اور اُنہیں مٹھائی نہیں کھانی
 چاہیئے۔

نرگس: ہاں، یہ تو سچ ہے۔ آپ کے ڈاکٹر کون ہیں؟
 پتاجی: اُن کا نام انوپ سنگھ ہے۔ کیا، تم اُن کو جانتی ہو؟
 نرگس: ہاں، ہاں، میں اُن کو اور اُن کی بیوی کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ دونوں
 بہت اچھے انسان ہیں۔ کیا، اُن کو معلوم ہے کہ میں راج کی دوست ہوں؟
 مٹی: نہیں، یہ اُن کو نہیں معلوم۔ اچھا بیٹی، کیا تم کو گانا آتا ہے؟
 نرگس: جی؟ میری آواز اچھی نہیں، میں بچپن میں گاتی تھی مگر اب میں اچھا ناچتی ہوں
 اور مجھے کتھک بہت پسند ہے۔

پتاجی: واہ! کیا، تم ابھی ہمارے سامنے ناچ سکتی ہو؟
 نرگس: انکل آج نہیں مگر کل میرا پروگرام ہے اور آپ لوگ اُس میں آ سکتے ہیں۔
 مٹی: کل تو ہم مصروف ہیں۔ میری سہیلی بہت بیمار ہے۔ اُس سے ملنا ہے۔ اچھا
 بیٹی، گھر میں مٹھائی بہت ہے۔ تم یہ مٹھائی ہسپتال میں کسی کو دے سکتی ہو؟

نرگس: آنٹی ہسپتال میں کوئی بھی مٹھائی نہیں کھائے گا۔

(راج گھر میں آتا ہے)

راج: نہیں، نہیں، تم رادھا کو مٹھائی دے سکتی ہو۔ رادھا بھی بہت میٹھی ہے!

نرگس: بس راج۔ اب مجھے جانا ہے۔ تم رادھا کو مٹھائی دے سکتے ہو اور اس کی

میٹھی میٹھی باتیں ہر وقت سن سکتے ہو!!

مٹی: یہ رادھا کون ہے؟ کیا تمہاری سہیلی ہے؟

نرگس: یہ آپ راج سے پوچھیے۔ اُس کو رادھا بہت پسند ہے۔ دیکھو راج! ساڑھے

گیارہ بجے ہیں۔ کل صبح مجھ کو کام کرنا ہے۔

راج: اچھا، اچھا، تم ناراض کیوں ہو؟ رادھا میٹھی نہیں۔ تم سب سے زیادہ میٹھی

ہو۔ اب بیٹھو گی؟

نرگس: نہیں۔ نہیں بیٹھو گی راج! اچھا، آنٹی، انکل، میں اب جانا چاہتی ہوں۔

اجازت چاہتی ہوں۔ ہم پھر ملینگے۔

مٹی+پتاجی: خدا حافظ بیٹی۔

راج: چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔

نرگس: نہیں۔ رادھا کے پاس جاؤ!

10.12 Conversation Practice

Anil: Hello Usha. This is my friend Seema. We are going to buy *paan* for Seema's mother.

Usha: Yes, I know Seema. She studies with me.

Seema: How are you, Usha?

Usha: Fine, thanks. Anil, do you know how to drive a car?

Anil: No, I don't. But Seema knows how to drive a car. Where do you have to go?

Usha: I have to go to Shehla's house. She is very ill. But her house is very far and the bus

always (ہمیشہ) leaves late.

Seema: I know Shehla. She is a good friend of mine. Can we come along with you to Shehla's house?

Usha: Of course. I have to buy some fruits for Shehla. Can we all go to the fruitseller's shop?

Anil: Do you know the address of the fruitseller's shop?

Usha: Yes, it is near that big hospital.

Anil: OK, let's go after half an hour. Seema and I will be here with the car at 4:30 pm. Be ready!

10.13 Songs

(۱) مجھے کچھ کہنا ہے
مجھے بھی کچھ کہنا ہے
پہلے تم! پہلے تم!
دیکھو جس طرح لکھنؤ کے دو نوابوں کی
گاڑی پہلے آپ (۴x) کر کے نکل گئی تھی
اس طرح ہماری پہلے تم (۴x) میں یہ
مستی بھری رت نہ چلی جائے
اچھا میں کہتی ہوں۔۔۔ اکثر کوئی لڑکی اس حال میں
کسی لڑکے سے سولہویں سال میں
جو کہتی ہے وہ مجھے کہنا ہے۔
اکثر کوئی لڑکا اس حال میں کسی لڑکی سے
سولہویں سال میں جو کہتا ہے، وہ مجھے کہنا ہے۔
اکثر کوئی لڑکی۔۔۔ اکثر کوئی لڑکا۔۔۔ اکثر کوئی لڑکی۔۔۔ اس حال میں۔۔۔

(۲) ایک پیار کا نغمہ ہے
 موجوں کی روانی ہے
 زندگی اور کچھ بھی نہیں
 تیری میری کہانی ہے
 کچھ پا کر کھونا ہے
 کچھ کھو کر پانا ہے
 جیون کا مطلب تو آنا اور جانا ہے
 دو پل کے جیون سے ایک عمر چرائی ہے
 زندگی اور کچھ بھی نہیں۔۔۔

Glossary for Songs

نواب = a lord, prince, governor (m)	موج = wave (f)
رُت = season (f)	روانی = flow, flux, going (f)
مستی بھری رُت = season filled with intoxication	جیون = life, existence; livelihood (m)
نغمہ = song, melody (m)	

10.14 Vocabulary

address; hint, clue, trace (m)	پتا
to come to know; to find out	پتا چلنا
air, wind (f)	ہوا
aerial	ہوائی
air pollution (f)	ہوائی آلودگی
to be/become upset, angry	ناراض ہونا
birthday (f)	سالگرہ

to call (something a name) (use with کو)	کہنا
cup (f)	پیالی
date/history (f)	تاریخ
to drive	چلانا
to drive a car	گاڑی چلانا
to find	پانا
generally, often; most; many	اکثر
half	آدھ / آدھا
(numeral + half)	ساڑھے
kilogram	کیلو
to know	جاننا، معلوم ہونا
life, lifetime; also age (f)	عمر
to lose	کھونا
manner, style (f)	طرح
minister (government) (m/f)	وزیر
prime minister (m/f)	وزیر اعظم
nobody	کوئی نہیں
nothing	کچھ نہیں
one and a quarter	سوا
one and a half	ڈیڑھ
owl; fool; stupid (m)	اُلو

permission (f)	إجازت
to give permission (to leave)	إجازت دینا
to play (an instrument)	بجانا
price, cost (f)	قیمت
purpose, intent; motive (m)	مطلب
quarter	پاؤ
question (m)	سوال
numeral less than a quarter (m)	پونے
seventy	ستر
somebody/anybody; some	کوئی
something/anything	کچھ
speech, word; thing (abstract); matter; affair (f)	بات
to spend time, to pass time	گزارنا
spoon; sycophant (colloquial)(m)	چمچہ
to steal	چرانا
sugar (f)	چینی
sweet	میٹھا
to swim	تیرنا
temperament, health (f)	طبیعت
three-quarters	پون
true (adj.); truth (m)	سچ

two and a half

ڈھائی

Chapter 11

11.1 The Interrogative کیسا

The meaning of کیسا depends upon its location in the sentence. When کیسا appears before the noun it is modifying, it can be translated as "what kind of." When کیسا appears before the verb it can be translated as "how." Its oblique form کیسے is often used adverbially.

وہ کیسی لڑکیاں ہیں؟

What kind of girls are those?

وہ کیسے لڑکے تھے؟

What kind of boys were those?

آپ کی بیٹی کیسی ہے؟

How is your daughter?

وہ آپ سے کیسے ملیگا؟

How will he meet you?

Note that کیسا, when not being used adverbially, acts as a marked adjective and agrees in number and gender with the noun it modifies.

11.1 Reading and Translation Drill

- ۱۔ یہ کیسی سبزی ہے؟
- یہ کیسا شہر ہے؟
- وہ کیسے لوگ تھے؟
- وہ کیسی قالینیں تھیں؟

۲۔ آپ کے والد صاحب کیسے ہیں؟

اُس لڑکی کی صحت کیسی ہے؟

اُن کے دوست کیسے تھے؟

تمہارا کتنا کیا تھا؟

۳۔ تمہیں یہ بات کیسے معلوم تھی؟

آپ اس پرانی کنگھی سے کیسے کنگھی کریں گے۔

وہاں ریڈیو چل رہا ہے! کتنا شور ہے! مریض کیسے آرام کر سکیں گے؟

ہمیں اس بات کا مطلب کیسے معلوم ہوگا؟

11.2 The Interrogative کتنا

کتنا, "how much, how many," like کیا, acts like a marked adjective and agrees in gender and number with the noun it modifies.

آپ کی کلاس میں کتنی لڑکیاں ہیں؟

How many girls are in your class?

ہسپتال میں کتنے مریض تھے؟

How many patients were there in the hospital?

اُن کا گھر کتنا بڑا ہے؟

How big is their house?

کتنا can also be used in an exclamatory manner.

اُن کا گھر کتنا بڑا ہے!

Their house is so big!

11.2 Reading and Translation Drill

۱۔ آپ اس دوکان سے کتنی پیالیاں خریدنی چاہتے ہیں؟

آج ولیم کو کتنے کپڑے دھونے ہیں؟

تمہارا مکان کتنا بڑا ہے؟

تیرے کتنے دوست ہیں؟

۲۔ یہ شہر کتنا خوبصورت ہے!

وہ لڑکیاں کتنی سُندر ہیں!

ٹام کروڈ کتنا اچھا اداکار ہے!

آپ کتنے خراب ہیں!

۳۔ ریشما کتنی میٹھی باتیں کر رہی ہے!

اُس فیکٹری (کارخانے) میں کتنی عورتیں کام کرتی تھیں؟

ایک ہوشیار طالب علم ایک سال میں کتنی کتابیں پڑھ سکتا ہے؟

اتنا کم مرغی کا سالن کتنے مہمان کھا سکیں گے؟

11.3 Expressing "To Have"

Urdu does not have the verb equivalent of the English "to have." Instead, Urdu uses three different constructions to convey the corresponding meaning of the English "to have." These constructions depend on the nature of the object possessed.

1. *Expressing human relationships, legal ownership, and parts of the body.*

In such a construction, the possessive adjectives or possessive postpositions کی، کے، کا are used with the logical subject in English. The appropriate form of the verb ہونا (in present, past, or future tenses) agrees with the object being possessed. For example:

میرے دو لڑکے ہیں۔

I have two boys.

(possessive adjective -- object of possession -- verb)

میری دس انگلیاں ہیں۔

I have ten fingers.

بیچارے لڑکے کا کوئی نہیں ہے۔

The poor boy has no one.

اُس آدمی کا ایک گھر تھا۔

That man had a house.

اگلے سال حسین کی بھی بیوی ہوگی۔

Next year Hussein too will have a wife.

11.3 Reading and Translation Drill (1)

۱۔ ہمارے دس دوست ہیں۔

اُن کے چار بھائی ہیں۔

اُس کی دو بہنیں ہیں۔

میری پانچ سہیلیاں ہیں۔

۲۔ تیری دو آنکھیں ہیں۔

ہماری ایک ناک ہے۔

رادھا کے دو ہاتھ ہیں۔

میرے لمبے بال ہیں۔

۳۔ کیا تمہارا بڑا گھر ہے؟

کیا تمہاری کوئی اولاد ہے؟

اُن کے دو پیر ہیں۔

ارے! آپ نہیں جانتے کہ اُس عورت کے تین شوہر ہیں!

۴۔ اُن کے پندرہ مکان تھے۔

کیا، آپ کی زمین تھی؟
 ہماری بیس دوکانیں تھیں۔
 کیا، اُس کے کوئی رشتہ دار تھے؟

2. Expressing possession of material, movable objects.

In order to express possession of material, movable objects, the postposition **پاس** or "near" is used with nouns or pronouns representing the logical subject in English. The verb **ہونا**, in all its tenses, agrees with the object being possessed. Note that several pronouns adopt their possessive forms when used with **پاس**. For example **پاس کے**. میرے پاس = میں + کے پاس. For example

اُس عورت کے پاس بہت پیسے ہیں۔

That woman has a lot of money.

(logical subject in English -- **پاس** -- object of possession -- verb)

کیا، آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں؟

Do you have these things?

میرے پاس صرف دو کتابیں تھیں۔

I only had two books.

کیا، کل تمہارے پاس دکان میں مٹھائی ہوگی؟

Tomorrow you will have sweets in the shop?

11.3 Reading and Translation Drill (2)

- ۱۔ کیا، آپ کے پاس بہت ڈالر ہیں؟
 جی نہیں، میرے پاس ایک بھی ڈالر نہیں۔
 اُن کے پاس بہت پیسے ہیں۔
 ہم غریب ہیں۔ ہمارے پاس ایک بھی پیسہ نہیں۔

۲۔ اُن کے پاس تین ہوائی جہاز ہیں۔

ہمارے بھائی کے پاس یہ گاڑی ہے۔

اُن کی بہن کے پاس وہ اچھی کتاب ہے۔

میرے والد کے پاس وہ خوبصورت قلم ہے۔

۳۔ دوکاندار کے پاس چینی نہیں تھی۔

بس میڈم! مجھے اور کھانا نہیں چاہیے! میرے پاس بہت چاول ہیں!

چور کے پاس کچھ بھی پیسے نہیں تھے۔ صرف کچرا تھا!

تیرے پاس بہترین چائے ہے۔ تو کہاں سے خریدتی ہے؟

3. *Expressing abstract possessions.*

As already discussed in Chapter 9, the postposition کو is used with the subject in order to convey abstract possessions.

مجھے بہت کام ہے۔

I have a lot of work.

اُس کو بخار ہے۔

He has fever.

ہمیں فکر تھی۔

We were worried.

اُنہیں بالکل فرصت نہیں تھی۔

They did not have any free time at all.

نہ سونے کی وجہ سے اُن کو تھکن ہے۔

On account of not sleeping, they are tired (lit. they have tiredness/fatigue).

کیا، آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے؟

Do you need this thing? (Do you have the necessity of this thing?)

Note: ضرورت is feminine, hence the possessive particle preceding it will always be کی. The expression is x کی ضرورت ہونا, to have need of x.

11.3 Reading and Translation Drill (3)

- ۱۔ آج ہمیں بہت کام ہوگا۔
جمعرات کو اُن کو کام ہوگا۔
کیا، آپ کو پیر کو بہت کام ہے؟
نہیں، پیر کو مجھے بہت کام نہیں۔
- ۲۔ اُس لڑکی کو بخار تھا۔
ہمارے لڑکے کو بہت بخار ہے۔
میرے دوست کو بخار ہے۔
اُن کی سہیلی کو بخار ہے۔
- ۳۔ کیا، اُس کو کھانسی تھی؟
ہمیں بہت کھانسی تھی۔
اُن لڑکوں کو کھانسی ہے۔
اُس کے دوست کو کھانسی ہے۔
- ۴۔ اُن طالب علموں کو زکام ہے۔
کیا، آپ کو زکام تھا؟
نہیں، مجھ کو زکام نہیں تھا۔
ہمیں بخار ہے اور ہمارے دوستوں کو زکام ہے۔
- ۵۔ اُنہیں اس بات کی بہت فکر تھی۔
اُس لڑکے کو ہماری بہت فکر ہے۔

مجھے اِس بات کا بہت غم تھا۔
ہمارے لڑکوں کو اُس کا بہت غم تھا۔

Translate the following sentences into Urdu:

1. I have three brothers and one sister.
2. Do you (formal) have two eyes?
3. Bill Gates has a lot of money. People say he is the richest man in the world.
4. We will have a lot of free time. We should not spend it (گزارنا) in doing useless things.
5. They have a lot of work, but they ought to go there.
6. Nargis will also need (ضرورت) to have her teeth examined.
7. The patient doesn't have a fever but has a cough.
8. Do you have a need for a lot of love in your life?
9. I was very worried about these things.
10. Excuse me, sir. Do you sell combs? I don't have one; I want to buy a good comb.
11. The landlord in this village has a lot of land and money, but he does not help the poor.

11.4 The Possessive Adjective اپنا

When the subject of the sentence is also the possessor of a noun in that sentence, then the declinable possessive adjective اپنا is used:

میں اپنے پروفیسر سے ہر روز ملتا ہوں۔

I meet my (own) professor every day.

وہ اپنی لڑکی سے ملتی ہے۔

She meets with her (own) daughter.

مجھے اپنا کام کرنا چاہیے۔

I ought to do my (own) work.

ہمارے لڑکے اپنے دوستوں کے ساتھ فٹبال کھیلینگے۔

Our boys will play football with their (own) friends.

Note: اپنا immediately precedes the possessed object and agrees in number and gender with the possessed object. اپنا is also used to emphasize the possessor/owner of nouns. In such circumstances, اپنا follows the possessive noun or adjective:

یہ اس کی اپنی چیز ہے۔

This is his (very own) thing.

وائٹ ہاؤس پریزیڈنٹ کا اپنا گھر نہیں، امریکن لوگوں کا گھر ہے۔

The White House is not the president's (own) house, it is the house of the American people.

11.4 Reading and Translation Drill

- ۱۔ میں اپنی گاڑی چلا رہا تھا۔
وہ اپنی کتاب پڑھ رہے تھے۔
کیا، تم وہاں اپنا کام کر سکتے تھے؟
اُن کی وجہ سے ہم اپنا گھر صاف نہیں کر سکتے تھے۔
- ۲۔ کیا، آپ اپنی لڑکی کو ہارورڈ بھیجنا چاہتے تھے؟
ہم اپنے لڑکوں کو برکلی بھیجنا چاہتے ہیں۔
وہ اپنے نوکر کو بازار بھیج سکتا ہے۔
تم اپنے طالب علموں کو اردو کی مفید کتابیں خریدنے کے لئے کہاں بھیجو گے؟
- ۳۔ یہ میرا اپنا گھر نہیں۔
کیا، یہ تمہاری اپنی گاڑی ہے؟

ہم کو ہمارے اپنے قلم پسند تھے۔
اُن کو اُن کی اپنی کتابیں پسند نہیں تھیں۔

11.5 The Reflexive Pronoun خود

خود is a reflexive pronoun that refers back to the subject of the sentence in a manner similar to that of the English "self" or "selves."

میں خود پڑھتا ہوں۔

I myself study.

وہ خود وہاں جاتے ہیں۔

They themselves go there.

11.5 Reading and Translation Drill

- ۱۔ یہ کام میں خود کر رہا تھا۔
کیا، آپ خود وہاں رہ سکتے تھے؟
ہم تو سبزی خور ہیں۔ ہم خود شکاہاری کھانا پکا مینگے۔
اُن کو خود جانا چاہیئے۔
- ۲۔ اُس کو خود پڑھنا ہے۔
یہ کتابیں وہ خود پڑھ سکتا ہے۔
تم خود بھی بیکار باتیں کرتے ہو۔
بل کلنٹن خود بھی یہاں رہتے ہیں۔
- ۳۔ بچوں کی والدہ خود رو رہی تھیں۔
راج خود چور کو پکڑیگا۔
پاکستان کے صدر خود یہاں تشریف لائینگے۔
یہاں کا راجہ خود بہار میں اس خوبصورت باغ میں سیر کرتا تھا۔

Translate the following sentences into English:

1. We will eat with our friends tomorrow.
2. This is his (very own) idea.
3. Madonna herself is singing tonight.
4. Do you (informal) yourself study at Princeton?
5. I used to go to India with my family every December.
6. We do not cook meat in our house.
7. Do you yourself know how to play the piano?
8. Abid himself was helping Nilofer.
9. Their life was so busy that they themselves could not rest.
10. In his childhood, the old man had his (very own) hair and teeth.
11. Please stop (prevent) your children from playing with the flowers in the garden.

11.6 Noun + والا

When the suffix **والے/والی/والا** is attached to an oblique noun, it frequently signifies the doer, seller or user of that noun. In the case of place names, a construction with **والا** indicates the resident of a place. Several of these expressions with this suffix have idiomatic meanings that are also listed here.

<i>Feminine</i>	<i>English</i>	<i>Masculine</i>
پھل والی	fruit seller	پھل والا
سبزی والی	vegetable seller	سبزی والا
جوتے والی	shoe seller	جوتے والا
تانگے والی	tonga driver	تانگے والا

گاؤں والی

villager

گاؤں والا

گھر والی

wife, husband

گھر والا

کام والی

one who does work, servant

کام والا

دلی والی

a Delhi resident

دلی والا

یہاں بہت پھل والے رہتے ہیں۔

Many fruit sellers live here.

آپ کی گھر والی کیا کرتی ہے؟

What does your wife do?

اخبار والا روز ہمارے گھر آتا تھا۔

The newspaper man used to come to our house every day.

In some instances, the addition of the **والا** suffix to a noun may result in an adjective:

مجھے دودھ والی چائے پسند ہے۔

I like tea with milk.

11.7 Adjective + **والا**

The suffix **والا** can be added to adjectives in order to avoid ambiguity or to lay emphasis. In such an instance **والا**, like the adjective to which it is attached, will agree with the noun it is modifying.

مجھے وہ لال والی ٹوپی دیجیئے۔

Please give me that red hat.

You would say this if you are pointing to the red hat as opposed to hats of other colors.

11.8 Postposition or Adverb + **والا**

The addition of the **والا** suffix to an adverb or postposition transforms it into an adjective or a

کیا، وہ اُوپر والے کمرے میں رہتا ہے؟

Does he stay in the upstairs room?

وہ باہر والی لڑکی ہے۔

She is the girl who was/is outside.

اُوپر والا ہم کو ہر وقت دیکھتا ہے۔

God (lit. The One Above) watches us all the time.

مجھے نیچے والی ساڑی دکھائیے۔

Please show me the sari that is underneath.

11.6-11.8 Reading and Translation Drill

- ۱۔ وہ پھل والا وہاں جائیگا۔
ہم گاؤں والے ہیں۔ ہم کو وہاں کا پتا نہیں معلوم۔
یہاں سب کام والے ہیں، بیکار نہیں۔
میں اُوپر والے سے ڈرتا ہوں۔
- ۲۔ یہ امریکہ والے بہت ہوشیار ہوتے ہیں۔
کیا، پاکستان والے سندر ہوتے ہیں؟
گاؤں والے اچھے ہوتے ہیں، کیا؟
شہر والے اچھے نہیں ہوتے۔
- ۳۔ مجھے وہ کالی والی پتلون پسند ہے۔
کیا، آپ کو یہ لال والی ساڑی پسند ہے؟
ہمیں وہ سفید والی کتاب دیجیئے۔
یہ نیلا والا گھر اچھا ہے۔

۴۔ وہ اندر والی دوکان میں کام کر رہا ہے۔

کیا، تم اُوپر والے کمرے میں رہ سکو گے؟

وہ بات باہر والی لڑکیوں کو معلوم تھی۔

تم نیچے والی کھڑکی بند کرو۔

۵۔ شرمیلا پرسوں والا اخبار پڑھ رہی تھی۔

پولیس والے یہاں والے چوروں کو اچھی طرح جانتے تھے۔

کیا آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والا گھر کس کا تھا؟

میں آپ کی بیٹی کے لئے وہ چھوٹی والی گرسی ابھی لاتا ہوں۔

11.9 Oblique Infinitive + والا

When the suffix والا is attached to the oblique infinitive it can be used in two different ways. In the first usage it indicates the performer of the action of the infinitive.

پھل بیچنے والے وہاں رہتے ہیں۔

The fruit sellers live over there.

آپ کی کام کرنے والی کہاں جا رہی ہے؟

Where is your worker going?

Note that والا will decline according to the number and gender of the performer of the action of the infinitive. In the second usage the oblique infinitive used with the والا suffix is used to denote immediate future or actions about to happen or take place. In such cases, the conjugated form of ہونا follows the والا suffix. The suffix will agree in number and gender with the subject.

میں ہندوستان جانے والا ہوں۔

I am about to go to India.

وہ کام کرنے والی ہے۔

She is about to work.

Note: In the last example above there is ambiguity in meaning. The sentence can be translated either as "She is about to work" or "She is a worker."

If the oblique infinite + والا construction is part of a phrase, it is best translated in English as a relative clause, beginning with "who," "which," or "that" as may be appropriate:

اس ہوائی جہاز میں بنگلہ دیش جانے والے لوگ تھے۔

In this airplane there were people who were going to Bangladesh.

اس کے خیال میں گوشت کھانے والے آدمی کی صحت بہت اچھی نہیں ہوتی۔

He thinks that the health of a person who eats meat is generally not good.

11.9 Reading and Translation Drill

- ۱۔ یہاں سبزی بیچنے والے آتے ہیں۔
کیا آپ اس کپڑے بیچنے والے کو جانتے ہیں؟
اب اخبار خریدنے والے آئینگے۔
کیا پڑھنے والے لڑکے کھیل سکتے ہیں؟
- ۲۔ میں کھانا پکانے والا ہوں۔
وہ لڑکیاں جانے والی ہیں۔
ہمارا دوست آنے والا ہے۔
کیا تم سونے والے ہو؟
- ۳۔ ابھی شیلہ آپ کو ٹیلیفون کرنے والی تھی۔
بہت زیادہ شراب پینے والے آدمیوں کو یہاں سے نکالو!
زیادہ سوال پوچھنے والا وہ طالب علم آج کلاس میں نہیں تھا۔
دیر سے آنے والے لوگوں کو یہاں تشریف رکھنا چاہیئے۔

Translate into Urdu:

1. He is a Delhi resident and he doesn't like Mumbai. He ought to go back.
2. That fruit seller will not be able to sell shoes.
3. I am about to buy that white hat. Do you like it?
4. His family has money and they are about to go to Las Vegas.
5. Many workers will not be able to go to work tomorrow because they have the flu.
6. They are about to sell their beautiful house in Lahore.
7. There is a lot more heat and sunshine in the big room that is upstairs.
8. The woman who drives the red car used to live in that big red house.
9. The train from New York will be arriving late. It is about to leave New York now.

11.10 Cardinal Numbers 71-80

۷۱	اکیہتر
۷۲	بہتر
۷۳	تہتر
۷۴	چوہتر
۷۵	پچہتر
۷۶	چھہتر
۷۷	ستہتر (ستر)
۷۸	اٹہتر
۷۹	اُنیاسی (اُناسی)
۸۰	اسی

گفتگو (Conversation) 11.11

- راج: تم کیسی ہو؟ کیا، تم اپنے دوستوں کے ساتھ سینما نہیں جا رہی ہو؟
- زرگس: نہیں راج۔ آج میری طبیعت خراب ہے۔ مجھے بہت کھانسی اور بُخار ہے۔
- کل رات کو میرے پیٹ میں درد بھی تھا۔
- راج: کیا، تم ہسپتال چلنا چاہتی ہو؟
- زرگس: ہاں مگر آج مجھے بہت کام ہے۔ کل جاؤنگی۔
- راج: تم کتنی پاگل ہو! کل تو میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکونگا۔ آج میرے پاس گاڑی ہے اور مجھے فرصت بھی ہے۔
- زرگس: ہاں، ہاں، میں خود جانا چاہتی ہوں۔ مگر مجھے فرصت نہیں۔ بہت کام ہے۔
- راج: تم اس حالت میں کام کرنے والی ہو؟ میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ ہمیں اب ہسپتال جانا ہے! کیا، تمہارا کوئی دوست آج کام کر رہا ہے؟
- زرگس: مجھے نہیں معلوم۔ اچھا مجھ کو وہ کالے والے جوتے دو۔
- (راج اور زرگس ہسپتال جاتے ہیں۔)
- راج: یہ نیا ہسپتال کتنا سُندر ہے! یہاں کتنے مریض رہ سکتے ہیں؟
- زرگس: کوئی دو سو۔ اچھا، یہاں گاڑی روکو۔ میں زیادہ دور نہیں چل سکتی۔
- راج: ٹھیک ہے۔ میں تمہارے پیچھے آتا ہوں۔
- (راج اور زرگس، ڈاکٹر کے دفتر میں۔)
- ڈاکٹر: نمستے زرگس جی۔ کیا حال ہے؟
- زرگس: میری طبیعت دو دن سے ٹھیک نہیں۔ کھانسی، بُخار اور پیٹ میں بھی درد ہے۔
- ڈاکٹر: میرے خیال میں فلو ہے۔ کیا، آپ کو کل رات کو درد کے ساتھ دست آ

رہے تھے؟

- نرگس: ہاں۔ پیٹ میں بہت درد تھا۔ اب ذرا بہتر ہے۔
- ڈاکٹر: اچھا۔ آپ اپنے خون، پاخانے اور پیشاب کا معاینہ کرایئے۔ آج کل شہر میں اسٹوماک فلو چل رہا ہے۔ آپ کو اچھی طرح آرام کرنا چاہئے۔
- نرگس: یہ تو بہت مشکل ہوگا۔ مجھے بہت زیادہ کام کرنا ہے۔
- ڈاکٹر: کل دو انگریز میرے ہسپتال میں تھے۔ اُن کے پیٹ میں بھی بہت درد تھا۔ وہ بہت پریشان تھے۔ مگر آج وہ بالکل ٹھیک ہیں اور اس وقت ٹینیس کھیل رہے ہیں۔ میں آپ کو بھی ایک اچھی دوائی دوں گا۔ آپ خود ڈاکٹر ہیں اور جانتی ہیں کہ یہ خطرناک بات نہیں ہے۔ آپ کل تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر پیشاب، پاخانے اور خون کا معاینہ ضرور کرایئے۔
- راج: ہاں، ڈاکٹر صاحب۔ معاینہ کرانا ہے۔ ان کو کھانے میں کیا کھانا چاہئے؟
- ڈاکٹر: نیبو کا شربت اور کیلے پیٹ کے درد کے لئے اچھے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ چاول اور دہی بھی مفید ہیں۔ بخار کم ہونے کے لئے ٹائیلول لیجئے۔
- نرگس: شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہم پھر ملیں گے۔
- ڈاکٹر: نرگس جی، آرام کیجئے۔ زیادہ کام مت کیجئے۔
- نرگس: اچھا، میں آرام کروں گی۔

11.12 Conversation Practice

Doctor: How are you doing today?

Anil: I have a stomach ache and severe cough. I also have a fever. Since yesterday I have diarrhea.

Doctor: Please open your mouth. Does it hurt here?

Anil: Yes, a lot!

Doctor: I think you have the flu. I'll give you medicine. Drink a lot of water and get (literally, take) rest. Drink very little milk for two or three days. It is not very good for your stomach.

Anil: Do you have a daughter?

Doctor: Yes, her name is Reena. Do you know her?

Anil: Yes, she is in my class. Sometimes both of us study in the library.

Doctor: You ought to come to our house sometime. I have two sons and you can play tennis with them. When will you be able to come?

Anil: Thanks. Can I come to your house Friday evening? Are you busy at that time?

Doctor: No, no. We are free. Eat dinner with us. What would you like to eat? My wife is from Hyderabad. She cooks Hyderabadi food very well.

Anil: I like Indian food very much, but I don't eat meat. Also I don't like very hot food.

Doctor: We also don't eat meat. We are vegetarians. Don't worry. My wife only puts a little pepper in our food. So we'll meet you Friday evening. Get (literally, take) a lot of rest.

Anil: Thank you and good-bye. We'll meet again.

11.13 Songs

(۱) اچھا تو ہم چلتے ہیں

پھر کب ملو گے؟

جب تم کہو گے

جمعرات کو؟

ہاں، ہاں، آدھی رات کو

کہاں؟ وہیں جہاں کوئی آتا جاتا نہیں

تو آؤ پاس بیٹھیں پل دوپل

آج نہیں کل
 کیوں کیوں؟
 آج نہیں کل
 یہ تو ایک بہانہ ہے
 واپس گھر بھی جانا ہے
 کتنی جلدی یہ دن ڈھلتے ہیں!
 ہائی! ٹاٹا۔۔۔ اچھا تو ہم چلتے ہیں۔

(۲) یہ دوستی، ہم نہیں توڑینگے
 توڑینگے دم مگر تیرا ساتھ نہ چھوڑینگے
 ارے، میری جیت تیری جیت
 تیری ہار میری ہار
 سن اے میرے یار
 تیرا غم میرا غم
 میری جان تیری جان
 ایسا اپنا پیار
 جان پہ بھی کھیلینگے
 تیرے لئے لے لینگے
 سب سے دشمنی
 یہ دوستی۔۔۔

(۳) میرے من کی گنگا

اور تیرے من کی جمنہ کا
بول رادھا بول سنگم ہوگا کہ نہیں
۔۔۔ نہیں! کبھی نہیں!

۔۔۔ جا! جا!

۔۔۔ جاؤ نہ! کیوں ستاتے ہو! ہوگا ہوگا ہوگا!

Glossary for Songs

بہانہ = excuse (m)

ڈھلنا = to fade, to sink, to decline

توڑنا = to break

چھوڑنا = to abandon, to give up

جیت = victory (f)

ہار = loss (f); also necklace (m)

دُشمنی = enmity (f)

من = heart, soul, spirit; mind; intellect (m)

گنگا = River Ganges (f)

جمنہ = River Jumna (f)

سنگم = union, confluence (m)

ستانا = to tease, to torment

11.14 Vocabulary

to become well

ٹھیک ہو جانا

blood (m)

خون

cold (illness) (m)

زکام

comb (f)

سنگھی

to comb

سنگھی کرنا

condition (f)

حالت

to cough

کھانسنہ

cough (f)

کھانسی

dangerous

خطرناک

to have diarrhea	دست آنا
ear (m)	کان
eighty	اسی
examination (medical), investigation (m)	مُعائِنَہ
to have something examined (medically)	مُعائِنَہ کرانا
finger (f)	اُنْگلی
flu (m)	نزلہ (فلو)
to go back, return	واپس جانا
hair (m)	بال
help (f)	مدد
to help	مدد کرنا
to help x	x کی مدد کرنا
land (f)	زمین
landlord (m)	زمیندار / مکان مالک
leg (m)	پیر
mouth, face (m)	مُنْہ / مُنْہ
nose (f)	ناک
offspring, children (f)	اولاد
pain (m)	درد
patient (m/f)	بیمار / مریض

to pour, to place, to put	ڈالنا
to be reduced	کم ہونا
to reduce	کم کرنا
rest (m)	آرام
to rest	آرام کرنا
self (reflexive); oneself	خود
servant (m)	فوکر
sherbet (beverage) (m)	شربت
stomach (m)	پیٹ
to stop, to prevent	روکنا
teeth (m)	دانت
thief (m)	چور
toilet/excrement/stool (m)	پاخانہ
town/city (m)	شہر
until	تک
urine (m)	پیشاب
useful, profitable	مفید
useless/unemployed	بیکار
worried	پریشان

Chapter 12

12.1 Simple Past Tense

The simple past tense indicates an action that has been completed.

1. I went home.
2. I saw the movie.

In order to form the simple past tense in Urdu, it is essential to know whether the verb is transitive or intransitive. Intransitive verbs are those that cannot have objects such as verbs of motion. Transitive verbs, on the other hand, have objects (for example, the verb "saw" in # 2 above). In addition, there are a few verbs that are transitive in English but their Urdu counterparts are treated as intransitive. A notable instance is the verb لانا "to bring." In the same vein, there are a few transitive verbs in Urdu whose English counterparts are intransitive. The chart below should make these distinctions clear.

Common Intransitive Verbs

to forget	بھولنا	to come	آنا
to bring	لانا	to go	جانا
to be afraid of / fear x	x سے ڈرنا	to speak / talk to x	x سے بولنا
to fight with x	x سے لڑنا	to live	جینا
to cry	رونا	to live	رہنا
to smile	مسکراتا	to get up	اٹھنا
to reach	پہنچنا	to rise / to awake	جاگنا

to be constructed/ become	بننا	to climb	چڑھنا
to bathe	نہانا	to meet x	ملنا x
to dance	ناچنا		

Intransitive when object is not expressed and **transitive** when the object is expressed:

to lose	ہارنا
to win	جیتنا
to understand	سمجھنا

Common Transitive Verbs

to say	کہنا	to open	کھولنا
to ask	پوچھنا	to buy	خریدنا
to do	کرنا	to sell	بیچنا
to see	دیکھنا	to sing	گانا
to eat	کھانا	to wash	دھونا
to drink	پینا	to dry x	x کو سکھانا
to keep	رکھنا	to work	کام کرنا
to read	پڑھنا	to clean	صاف کرنا
to write	لکھنا	to fix/repair	ٹھیک کرنا

Note: Urdu has a substantial number of verbs created by adding a "verbalizer" (usually کرنا and ہونا) to an adjective or noun to create a verb. For example, the Urdu equivalent of the verb "to work" is created by adding the verb کرنا to the noun کام; the verb "to clean" is similarly created by adding کرنا to the adjective صاف. While constructions with کرنا result in the creation of transitive verbs, those with ہونا produce intransitive verbs, for example, صاف ہونا "to be

clean."

12.2 The Simple Past Tense of Intransitive Verbs

To form the simple past tense of intransitive verbs, the past participle is used. The past participle is formed in the following way:

verb stem + ا (masculine singular subject)

verb stem + ے (masculine plural subject)

verb stem + ی (feminine singular subject)

verb stem + یں (feminine plural subject)

Examples:

ناچنا "to dance"

stem: ناچ

Feminine Singular	Masculine Singular	Pronoun
ناچی	ناچا	میں
ناچی	ناچا	تو
ناچی	ناچا	یہ/وہ
Feminine Plural	Masculine Plural	Pronoun
ناچیں	ناچے	ہم
ناچیں	ناچے	تم
ناچیں	ناچے	آپ
ناچیں	ناچے	یہ/وہ

If the stem of the verb ends in ا, or و, then the consonant ی is inserted for the masculine singular past participle.

لانا "to bring"

stem: لا

لایا

Masculine Singular

لائے

Masculine Plural

لائی

Feminine Singular

لائیں

Feminine Plural

سونا "to sleep"

stem: سو

سویا

سوئے

سوئی

سوئیں

If the stem of the verb ends in **ی** then it is shortened in the masculine forms. No additional **ی** is added for the formation of the feminine past tense.

جینا "to live"

stem: جی

جیا

Masculine Singular

جیئے

Masculine Plural

جی

Feminine Singular

جیئیں

Feminine Plural

12.1-12.2 Reading and Translation Drill

۱۔ میں وہاں سے آیا۔

وہ لڑکے امریکہ سے آئے۔

وہ خوبصورت لڑکی اس دوکان سے آئی۔

ہماری بہنیں ابھی آئیں۔

۲۔ وہ آدمی مجھ سے کیا بولا؟

وہ عورتیں ہم سے نہیں بولیں۔

کیا، تو اُن سے وہ بات بولی؟

- ۳۔ ہماری لڑکی آپ سے کیا بولی؟
 آپ اُس گھر میں کب تک رہے؟
 ہم وہاں دس بجے تک رہے۔
 سیما اُس شہر میں کبھی نہیں رہی۔
 احمد اُس ملک میں صرف دو سال تک رہا۔
 ۴۔ تو لاہور سے میرے لئے کیا لائی؟ کچھ نہیں!
 اُس کی والدہ بازار سے یہ پھل لائیں۔
 کیا، آپ میری کتابیں لائیں؟
 روم سروس والا ہمارے لئے دو پیالی چائے لایا۔

12.3 The Case of جانا "To Go"

An important intransitive verb, جانا, has an irregular pattern of conjugation.

Feminine Singular

میں گئی
 تو گئی
 تم گئیں
 آپ گئیں
 وہ گئی

Masculine Singular

میں گیا
 تو گیا
 تم گئے
 آپ گئے
 وہ گیا

Feminine Plural

ہم گئیں
 تم گئیں
 آپ گئیں
 وہ گئیں

Masculine Plural

ہم گئے
 تم گئے
 آپ گئے
 وہ گئے

12.3 Reading and Translation Drill

- ۱۔ میں دو سال پہلے پاکستان گیا۔
ہماری لڑکیاں کل لاہور گئیں۔
تمہاری سہیلی کہاں گئی؟
وہ لڑکے ابھی اُس باغ میں گئے۔
- ۲۔ کل شام کو آپ کہاں گئے؟
ہم اُن کے ساتھ نیو یارک گئیں۔
ہمارا ہوائی جہاز پانچ گھنٹے میں بوسٹن سے سین فرسیکو گیا۔
نوکر سبزی خریدنے کے لئے بازار گیا۔
- ۳۔ نیپال کے فنکار پرسوں اپنے وطن گئے۔
صاحب، آگرہ کی ٹرین تو دس بجے گئی۔
ہم اپنا سامان لے کر ہوائی اڈے گئے مگر ہوائی جہاز وہاں نہیں تھا۔
بھاری سامان اٹھا کے بوڑھی عورتیں بازار سے اپنے گھر گئیں۔
زیادہ بارش کی وجہ سے رومی سینما نہیں گیا۔

12.4 The Case of ہونا "To Be, To Happen, To Become"

The verb ہونا mean to be, to happen, or to become. The past participle forms of ہونا when it means "to be" are تھا، تھے، تھی، تھیں. The past participle forms of ہونا when it means "to become" or "to happen" are :

	Singular	Plural
Masculine	ہوا	ہوئے
Feminine	ہوئی	ہوئیں

Study the examples below illustrating constructions meaning "I became happy," "You became

happy," and so on:

<i>Feminine</i>	<i>Masculine</i>
میں خوش ہوئی۔	میں خوش ہوا۔
تو خوش ہوئی۔	تو خوش ہوا۔
تم خوش ہوئیں۔	تم خوش ہوئے۔
آپ خوش ہوئیں۔	آپ خوش ہوئے۔
وہ/یہ خوش ہوئی	یہ/وہ خوش ہوا۔
ہم خوش ہوئیں۔	ہم خوش ہوئے۔
تم خوش ہوئیں۔	تم خوش ہوئے۔
آپ خوش ہوئیں۔	آپ خوش ہوئے۔
وہ/یہ خوش ہوئیں۔	یہ/وہ خوش ہوئے۔

Other examples of the use of ہونا are:

وہاں کام ہوا۔

Work took place there.

یہاں تماشا ہوا۔

A spectacle happened here.

12.4 Reading and Translation Drill

- ۱۔ میں وہاں سے اُٹھی۔
وہ خوبصورت لڑکیاں وہاں سے اُٹھیں۔
مہارانی ایلیزابتھ اپنی کرسی سے کب اُٹھیں؟
تو یہاں سے کیوں اُٹھا؟
- ۲۔ ہمارا دوست اُس پیڑ پر چڑھا۔

وہ بہادر فنکار اپنا کام کرنے کے لئے قطب مینار پر چڑھا۔

تیری سہیلی ہمالیہ پر کب چڑھی؟

ہم پانچ سال پہلے اُس پہاڑ پر چڑھے۔

۳۔ تم آج صبح کب جاگے؟

وہ عورتیں ابھی نہیں جاگیں۔

ہمارا وطن ابھی نہیں جاگا۔

کیا ٹیلنل کے گیت کی وجہ سے گل کے دل میں پیار جاگا؟

۴۔ سنیل اور علی وہاں کبھی نہیں گئے۔

کل شام کو میں بازار گیا۔

وہ اُن لڑکیوں کے ساتھ سنیما گئی۔

آپ اُس مسجد میں جمعہ کو گئے؟

۵۔ میں بدھ کو نہایا۔

کیا، تم آج صبح نہائے؟

وہ لڑکے چار دن سے نہیں نہائے۔

وہ لڑکیاں کب نہائیں؟

۶۔ ہم دلی آج صبح پہنچے۔

تم لندن کب پہنچے؟

وہ لڑکی وہاں نہیں پہنچی۔

کیا، راجیش اُن کے گھر پہنچا؟

۷۔ یہ سُن کر وہ لڑکا بہت رویا۔

اُس آدمی کی کہانی سُن کر وہ لڑکیاں بہت روئیں۔

ایلٹن جان کا گانا سُن کر شاہزادہ چار لڑ بہت روئے۔

کیا، وہ سب لوگ یہ کتاب پڑھ کر روئے؟

۸۔ وہ نئی عمارت کب بنی؟

اُس دعوت میں کیا کیا بنا؟

شان کانری اُس فلم میں جیمز بانڈ بنا۔

اُس پرانے گھر کے پاس چار نئے گھر بنے۔

۹۔ وہ شرمندہ ہوئی۔

وہ شریر لڑکی اپنی والدہ کے سامنے شرمندہ ہوئی۔

ہمارے دوست اپنے والد کے سامنے شرمندہ ہوئے۔

اُن کا دوسرا لڑکا اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہوا۔

۱۰۔ ہمارے بھائی ہماری اس حرکت پر ناراض ہوئے۔

نرگس کی والدہ اُن لڑکوں کی اُس حرکت پر ناراض ہوئیں۔

میرے خیال میں، وہ لڑکا ناراض نہیں ہوا۔

جارج واشنگٹن کے والد اُن کی اس حرکت پر ناراض ہوئے۔

۱۱۔ غالب کی شاعری سن کر وہ بہت خوش ہوئے۔

میرا بائی کے بھجن سن کر وہ انگریز بہت خوش ہوا۔

پریم چند کی کہانی پڑھ کر وہ ہوشیار لڑکیاں خوش ہوئیں۔

شیکسپیر کا وہ ڈرامہ دیکھ کر برکلی کے طالب علم خوش نہیں ہوئے۔

۱۲۔ میں وہاں جا کر بہت بیمار ہوا۔

کیا، وہ عورتیں امریکہ میں بیمار ہوئیں؟

بوڑھا پھل والا بیمار ہوا۔

ہمارے دوست لندن میں بیمار ہوئے۔

۱۳۔ چور کو دیکھ کر راج پریشان ہوا۔

وہاں پہنچ کر وہ لڑکیاں بہت پریشان ہوئیں۔
ہمارے ماں باپ ہماری وجہ سے پریشان ہوئے۔
چور کو دیکھ کر ہم زیادہ پریشان نہیں ہوئے۔

Translate into Urdu:

1. Having seen my friend, I became very happy.
2. Did you and your brother become ill in India?
3. Those girls became worried after seeing that thief.
4. Did those bright students go to London?
5. What time did you (formal) wake up yesterday morning?
6. Did that man get up from there?
7. Those naughty boys climbed that mango tree.
8. Did they take a bath in this house?
9. I reached Mumbai this morning but my friends reached Mumbai last night.
10. What happened in Raja's house yesterday afternoon?
11. I became very embarrassed in front of my family.
12. I don't think he became upset yesterday.

12.5 Relatives and Correlatives

Relatives and correlatives are used to create clauses that frequently join two sentences which have a common noun, pronoun, adjective, or adverb. These clauses agree in number and gender with each other. The relative clause usually precedes the correlative clause but this order is quite flexible.

(جو) آدمی گا رہا ہے، (وہ) کون ہے؟

correlative

relative

Who is the man who is singing?

(وہ) کون ہے (جو) گا رہا ہے؟

relative

correlative

Who is that who is singing?

(جہاں) آپ کا دل ہے (وہاں) آپ کا گھر ہے۔

Your home is where your heart is.

The following chart lists the common sets of interrogatives, relatives, and correlatives:

Interrogative	Correlative of Proximity	Correlative of Distance	Relative
کیا/کون oblique: کن/کس	یہ oblique: اس/ان	وہ oblique: اُس/اُن	جو oblique: جس/جن
who/what?	this/these	that/those	who/that/which
کب	اب	تب	جب
when?	now	then	when
کب سے	اب سے	تب سے	جب سے
since/from when?	from now	since then	from the time when
کب تک	اب تک	تب تک	جب تک
until when?	until now	until then	as long as
کہاں	یہاں	وہاں	جہاں
where?	here	there	where
کہہ	ادھر	اُدھر	جہدھر

in which direction?	in this direction	in that direction	in which direction
(whither?)	(hither)	(tither)	(whither)
کِتنا	اِتنا	اُتنا	جِتنا
how much/how many?	this much/this many	that much/that many	as much/as many/the
			extent to which
کیسا	ایسا	ویسا	جیسا
how, what kind of, in	like this, in this manner	like that, in that	that which, of such
what manner?		manner	kind

12.5 Reading and Translation Drill

- ۱۔ جب تم برکلی میں پڑھ رہی تھیں، تب میں ٹیکساس میں پڑھ رہا تھا۔
جب آپ ناچ رہے تھے، تب میں گا رہی تھی۔
جب وہ پکا رہا تھا، تب میں گھر صاف کر رہا تھا۔
جب ہم سو رہے تھے، تب وہ ورزش کر رہا تھا۔
- ۲۔ جہاں ہم ورزش کر رہے تھے، وہاں اور کوئی ورزش نہیں کرتا تھا۔
جہاں ہم پڑھ رہے تھے، وہاں وہ کھیل رہا تھا۔
جدھر ہم جا رہے تھے، اُدھر اور کوئی نہیں تھا۔
جدھر تو جا رہا ہے، اُدھر ہم نہیں جانا چاہتے۔
- ۳۔ جتنا کھانا میں کھا رہا ہوں، اُتنا تم کو کھانا چاہیے۔
جتنی روٹیاں میں کھا رہی ہوں، اُتنی روٹیاں تم کو کھانی چاہئیں۔
جتنے لڑکے وہاں کھیل رہے ہیں، اُتنے تو میرے گھر میں بھی کھیل سکتے ہیں۔
جتنی لڑکیوں سے تم پوچھ رہے ہو، اُتنی لڑکیوں سے میں نہیں پوچھ سکتی۔
- ۴۔ جس جگہ آپ کام کر رہے تھے، وہ بہت خطرناک تھی۔

- جو جانور ادھر آ رہا تھا، وہ بہت خطرناک تھا۔
 جن لڑکیوں کو آپ پسند کرتے تھے، وہ اب یہاں کام نہیں کر رہی ہیں۔
 جو چیز آپ کو پسند ہے، وہ خطرناک چیز ہے۔
 ۵۔ جو چیزیں آپ کو پسند ہیں میں وہ لاؤنگا۔
 جس جگہ آپ جانا چاہتے ہیں، وہ جگہ ٹھیک نہیں۔
 جن چیزوں کو آپ خریدنا چاہتے ہیں، وہ بہت مہنگی ہیں۔
 جو لڑکا یہاں پڑھتا ہے، اُس کا نام علی ہے۔
 پیار کرنے والے کبھی ڈرتے نہیں۔ جو ڈرتے ہیں وہ پیار کرتے نہیں۔
 ۶۔ جہاں میں پڑھتا ہوں، وہاں ایک مشہور لڑکی بھی پڑھتی ہے۔
 جہاں ہم گاتے ہیں، وہاں وہ پڑھتی ہے۔
 جدھر تم جا رہے ہو، اُدھر ایک خوبصورت عمارت ہے۔
 ہمارا گھر اُدھر ہے، جدھر وہ لڑکے کھیل رہے ہیں۔
 ۷۔ جتنے پیسے میں چاہتا ہوں، اتنے پیسے وہ نہیں دے سکتے۔
 جتنا خوبصورت تاج محل ہے، لال قلعہ اتنا خوبصورت نہیں۔
 جتنی اچھی چیزیں فلورڈا میں ملتی ہیں، اتنی اچھی چیزیں یہاں نہیں ملتیں۔
 جتنا وقت اُن کے پاس ہے، اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔
 ۸۔ جیسا آپ پکاتے ہیں، ہم ویسا نہیں پکا سکتے۔
 جیسا کھانا آپ چاہتے ہیں، میں ویسا کھانا پکاؤنگی۔
 جیسی چیزیں آپ کے پاس ہیں، میں ویسی چیزیں خریدنا چاہتا ہوں۔
 جیسے طالب علم ہماری یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ویسے طالب علم دوسری یونیورسٹیوں
 میں نہیں پڑھتے۔

Translate into Urdu:

1. My house is in that direction in which you are going.
2. He who is my friend is not your friend.
3. The things that are pleasing to those girls are not pleasing to me.
4. The receipts for these bags are right there where you are looking.
5. In this country you cannot get the kind of carpets that you want.
6. I will meet you there where no one comes or goes!
7. Ever since Lata has come to America, she has become vegetarian.
8. Until her beloved comes back home, she will cry for him day and night!

Combine the following sentences using appropriate relatives and correlatives:

Example: لڑکی وہاں پڑھ رہی ہے۔ لڑکی میری بہن ہے۔ becomes in combination:

جو لڑکی وہاں پڑھ رہی ہے، وہ میری بہن ہے۔

- ۱۔ طالب علم ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ کیا، وہ کروڑ پتی بنے گا؟
- ۲۔ تم محبت کھو سکتے ہو۔ تم محبت پا بھی سکتے ہو۔
- ۳۔ بہادر لڑکا خطرناک چور سے دور بھاگا۔ بہادر لڑکے سے ملے۔
- ۴۔ کھڑکی سے دھوپ آ رہی ہے۔ کھڑکی صاف نہیں۔
- ۵۔ لٹل مگیشکر گیت گا رہی تھی۔ پچھلے سال گیت بہت مشہور تھا۔
- ۶۔ رشی ٹکٹ لینے کے لئے گیا۔ قطار لمبی تھی۔
- ۷۔ وہاں اونچے پہاڑ ہوتے ہیں۔ وہاں بارش زیادہ ہوتی ہے۔
- ۸۔ وہ ہر وقت یہ کہانی سناتی ہے۔ میں اس کہانی سے بیزار ہوں۔
- ۹۔ ماں اپنی چھوٹی لڑکی کو دیکھے گی۔ ماں روئے گی۔

12.6 The Particles *بھی* and *ہی*

We have already encountered the emphatic particle *بھی* which means "also" or "too."

میں بھی جا رہا ہوں۔

I too am going.

When *بھی* is used in a negative sentence, it corresponds to the English "even."

میں بھی نہیں جاؤنگا۔

Even I will not go.

بھی must immediately follow the word it is meant to emphasize.

The enclitic particle *ہی* is used to emphasize any element that precedes it. Used in this manner, it may often not be easily translatable in English:

اس سال ہی میں پاکستان جاؤنگا۔

This *year* (emphatic) I will go to Pakistan.

اس سال میں ہی پاکستان جاؤنگا۔

This year *I* (emphatic/myself/alone) will go to Pakistan.

اس سال میں پاکستان ہی جاؤنگا۔

This year I will go to *Pakistan* only (emphatic).

اس سال میں پاکستان جاؤنگا ہی۔

This year I will definitely *go* (emphatic) to Pakistan.

Note that *ہی* can sometimes correspond to the English "only."

اس گھر میں تم ہی کام کرتے ہو۔

In this house, only you work.

ہی can also come between the noun/pronoun and the postposition that follows:

یہ آپ کی کتاب ہے۔

This is *your* (emphatic) book.

or

یہ آپ کی ہی کتاب ہے۔

This is *your* (emphatic) book.

When ہی is combined with certain pronouns, it has a special form.

مجھے	=	ہی	+	مجھ
تجھے	=	ہی	+	تجھ
ہمیں	=	ہی	+	ہم
تمہیں	=	ہی	+	تم
یہی	=	ہی	+	یہ
وہی	=	ہی	+	وہ
اسی	=	ہی	+	اس
اُسی	=	ہی	+	اُس
انہیں	=	ہی	+	ان
اُنہیں	=	ہی	+	اُن

As far as adverbs are concerned, when ہی is combined with them in a special form, they have a meaning different from the one they have when ہی is written as a separate word:

right here	یہیں	only here	یہاں ہی
right there	وہیں	only there	وہاں ہی
right now	ابھی	only now	اب ہی
right then	تبھی	only then	تب ہی

12.6 Reading and Translation Drill

- ۱۔ کل میں ہی کام کر رہا تھا۔
پرسوں وہی گا رہی تھی۔
یہ تمہیں کو معلوم تھا۔
یہ آپ ہی کو معلوم تھا۔
۲۔ مجھ کو یہی چیز پسند ہے۔
تم کو وہی چیز پسند تھی۔
ہم کو اسی چیز کا نام معلوم نہیں تھا۔
اُن کو اُسی چیز کا نام معلوم نہیں تھا۔
۳۔ جان کینیڈی یہیں رہتے تھے۔
جیکی کینیڈی وہیں پڑھ رہی تھیں۔
وہ ابھی آنے والی ہے۔
یہ لڑکیاں تبھی پڑھ رہی تھیں۔

Translate into Urdu using 'یہ' for emphasizing the italicized element in the sentence:

1. *Those* people have no free time.
2. *You* (informal) alone are my God.
3. *In the big house*, there was a *small* child.
4. *I* only was anxious/worried about the exam.
5. Give your heart only to *us*.
6. Sir, the carpet shop is right *there*.
7. Only *here* can you buy such beautiful flowers.

12.7 The Interrogative کونسا

The interrogative کونسا acts as a marked adjective meaning "which one" and can precede both nominative and oblique nouns. The basic difference between کون (including the oblique forms کن and کس) and کونسا is that کونسا is used to inquire about a particular thing amidst many things:

آپ کو کونسا پھل پسند ہے؟

Which (out of all these) fruit do you like?

آپ کو کونسی چیز چاہیے؟

Which thing do you need?

12.7 Reading and Translation Drill

- ۱۔ وہ کونسا گھر ہے جس میں ایتنا بھ نچن رہتا ہے؟
آپ کو یہ خوبصورت کپڑے کونسی دوکان میں ملتے ہیں؟
تمہارے بیٹے کو کونسی مٹھائی پسند ہے؟
اُن کے دوستوں کو کونے جوتے چاہئیں؟
- ۲۔ اس کتاب کے علاوہ اور کونسی کتابیں پڑھنے کے قابل ہیں۔
اس ہوائی اڈے پر کونے ہوائی جہاز ٹھہرے؟
وہ فنکار کونے فن کے لئے مشہور تھا؟
ایتنا بھ نچن کی فلموں کے علاوہ آپ اور کونسی فلمیں دیکھینگے؟

12.8 Repetition of Adjectives

When non-interrogative adjectives are repeated, the repeated adjectives take on an intensified

form:

وہ بلبل میٹھے میٹھے گیت گاتی تھی۔

That nightingale used to sing very sweet songs.

This sentence could also be expressed as:

وہ بالکل بہت میٹھے گیت گاتی تھی۔

Similarly:

اُن کے گھر میں اچھی اچھی چیزیں ہیں۔

In their house, there are very good things.

could be expressed as:

ان کے گھر میں بہت اچھی چیزیں ہیں۔

The repetition of interrogative adjectives conveys a sense of variety:

آپ پاکستان میں کہاں کہاں جائیں گے؟

Where "all" will you go in Pakistan?

اُن کے گھر میں کون کون رہتے ہیں؟

Who "all" lives in their house?

In order to repeat کونسا, the forms کون کونسی / کون کونسے / کون کونسا are used instead of کونسا.
کونسا.

تمہیں کون کونسی لڑکیاں پسند ہیں؟

Which are (all the) girls you like?

12.8 Reading and Translation Drill

۱۔ اُس دوکان میں بہت اچھے اچھے پھل ملتے ہیں۔

وہاں سستی سستی قالینیں ملتی ہیں۔

ہندوستان میں بڑی بڑی عمارتیں ہیں۔

اُن باغوں میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں۔

۲۔ وہ لوگ لنڈن میں کہاں کہاں جائیں گے؟

ہم کو یہ خوبصورت چیزیں کہاں کہاں مل سکتی ہیں؟
ہارورڈ میں کون کون سے مشہور لوگ پڑھتے ہیں؟
آپ اس بازار میں کون کون سی چیزیں خریدنی چاہتے ہیں؟

Translate into Urdu using repeated adjectives or interrogatives:

1. What "all" will you buy for me in the market?
2. He has very beautiful houses.
3. That woman has two very small children.
4. What need is there to buy very expensive clothes?
5. Whom "all" will you meet with in Delhi?
6. Where "all" will you go when you tour Pakistan?

ان سوالوں کے جواب دیجئے:

- ۱۔ جب آپ اپنے گھر جاتے ہیں تب کیا کرتے ہیں؟
- ۲۔ جہاں آپ رہتے ہیں، وہاں اور کون رہتا ہے؟
- ۳۔ کیا، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے جتنا بیل گیٹس کے پاس ہے؟
- ۴۔ پچھلے سال گرمیوں کی چھٹیوں میں آپ کہاں تھے؟
- ۵۔ آپ اپنے بچپن میں کیا کیا کرتے تھے؟
- ۶۔ کیا، آپ اور آپ کے دوست بچپن میں شرارتیں کرتے تھے؟
- ۷۔ آپ کو یونیورسٹی میں کونسی چیزیں پسند ہیں؟
- ۸۔ آپ اور آپ کے دوست کھانے کے لئے کہاں کہاں جاتے ہیں؟
- ۹۔ دس سال پہلے آپ کا خاندان کہاں رہتا تھا؟

۸۱	اکیاسی
۸۲	بیاسی
۸۳	تراسی
۸۴	چوراسی
۸۵	پچاسی
۸۶	چھیاسی
۸۷	ستاسی
۸۸	اٹھاسی
۸۹	نواسی
۹۰	توے

12.10 گفتگو (Conversation)

- (نرگس، راج، ریشما، روی اور رشی۔۔۔ لکھنؤ کے ہوائی اڈے پر)
- راج: دیکھو نرگس، یہ کتنی لمبی قطار ہے۔ آج کئی ہوائی جہاز ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ ہم کو اس قطار میں ٹھہرنا چاہیئے۔ وہ اس سے چھوٹی ہے۔
- نرگس: ہاں راج۔ آج گرمی بھی بہت ہے۔ کیا، تمہارے پاس ہمارے ٹکٹ ہیں؟
- راج: ہاں، ہاں۔ میرے پاس ہم سب کے ٹکٹ ہیں۔
- ٹکٹ کلرک: کیا، آپ لوگوں کے ساتھ کچھ سامان ہے؟
- نرگس: جی ہاں یہ پانچ بیکس ہیں۔
- ٹکٹ کلرک: یہ تو بہت بھاری ہیں۔ ایکسیس بیگیج دینا ہے!
- نرگس: کیوں؟ ہم پانچ لوگ ہیں۔ اتنا سامان تو ضرور لاسکتے ہیں۔

- کلرک: نہیں میڈم! آج ہوائی جہاز پر بہت لوگ ہیں۔ اتنا وزن آپ نہیں لا سکتے۔
- راج: ہم ایک مہینے کے لئے جا رہے ہیں۔ دیکھیے گرمی بہت ہے اور میری بہن پریشان ہو رہی ہے۔ یہ چار دن سے بیمار تھی۔
- ریشما: ہاں۔ میں کل ہی ہسپتال سے آئی!
- کلرک: اچھا۔ آپ کے ٹکٹ بھی ریکنفرمڈ نہیں ہیں۔
- نرگس: کیا! میں خود پرسوں شہر میں ایرلائن کے دفتر پر گئی۔ یہ لیجئے ریکنفرمیشن کی رسید ہے۔
- کلرک: ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں۔
- (دلی میں ایک ٹیکسی میں)
- نرگس: (ٹیکسی والے سے) ہمیں پہاڑ گنج جانا ہے۔
- ٹیکسی والا: بس، اتنا ہی سامان ہے؟
- راج: ہاں، ہاں۔ کیا، تم کو پلوتیا ہوٹل کا پتا معلوم ہے؟
- ٹیکسی والا: ہاں صاحب، معلوم ہے۔
- نرگس: راج، آج کتنی پرانی یادیں واپس آ رہی ہیں۔ میں بچپن میں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، ہر سال دلی آتی تھی۔
- راج: اچھا!
- نرگس: ہم لوگ بہت مزے کرتے تھے۔ ہمارے نانا یہاں کام کرتے تھے اور وہ ہم کو لے کر تاریخی مقامات دکھانے کے لئے جاتے تھے۔ ہماری پسندیدہ جگہ لال قلعہ تھی۔
- روی: لال قلعہ کیا ہے؟
- نرگس: یہ مغلوں کے زمانے کا قلعہ ہے۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ یہاں ہر سال پندرہ اگست کو بہت بڑا جشن ہوتا ہے کیونکہ یہ ہندوستان کی آزادی کا دن

ہے۔

لال قلعہ کے علاوہ دلی میں اور کیا کیا دیکھنے کے قابل ہے؟
رشی: ہمایوں* کا مقبرہ، جامع مسجد، انڈیا گیٹ، برلا مندر، لودھی باغ، پرانا قلعہ، اور
نرگس: قُطُب مینار*۔ یہ سب وہ تاریخی مقامات ہیں، جہاں ہمیں جانا چاہیے۔ یہ اچھے
مقامات ہیں۔

نیکسی والا: کیا، آپ کنٹ پلین نہیں جائینگے؟ وہاں وِمپز ہے۔ وِمپز میں بہت اچھے
برگرز ملتے ہیں۔ جب سے وِمپز دلی میں آئی ہے تب سے امیر لوگ وہیں جاتے
ہیں۔

راج: نہیں، ہم وِمپز نہیں جائینگے۔ ہم وہاں جانا چاہتے ہیں جہاں مزیدار بریانی ملتی
ہے!

نیکسی والا: بریانی تو آپ کو نظام الدین کے قریب ملے گی، صاحب۔
نرگس: ہاں، ہاں۔ ہمیں نظام الدین تو جانا ہے۔ راج، تم کو قولی بہت پسند ہے، نا؟
راج: ہاں، بہت! نصرت فتح علی خان* تو مجھے بہت پسند ہیں۔ کیا، وہاں قولی ہوتی
ہے؟

نرگس: ہاں، ہر جمعرات کی شام کو وہاں قولی ہوتی ہے۔ وہاں نظام الدین اولیاء* کا
مزار ہے۔

راج: کیا یہ وہی نظام الدین ہیں جو ہندوستان کے بہت بڑے صوفی بُزرگ تھے؟
نرگس: ہاں، ہاں، یہ وہی تو ہیں۔ اور اُن کے مزار کے قریب ہندوستان کے دو
مشہور شاعروں، امیر خسرو* اور مرزا غالب* کی قبریں بھی ہیں۔

رشی: کل جمعرات ہے۔ ہمیں تو وہاں ضرور جانا چاہیے!

نیکسی والا: صاحب، یہ آپ کا ہوٹل ہے۔

راج: تمہارا بہت، بہت شکریہ۔ کتنے پیسے دینے ہیں؟

نیکی والہ: چار سو روپے صاحب۔
 راج: یہ تو بہت زیادہ ہے۔ ہم تو ہر وقت تین سو روپے دیتے ہیں۔
 نیکی والہ: ارے نہیں صاحب۔ یہ تو بہت کم ہیں۔ آج کل پیٹرول بھی بہت مہنگا ہے۔
 میرے چار بچے ہیں۔ مجھے اُن کو بھی پالنا ہے۔
 نرگس: ٹھیک ہے۔ کیا، تم ہر روز ہمارے ساتھ چل سکتے ہو؟ کیا تم کو سب تاریخی
 مقامات کے پتے معلوم ہیں؟
 نیکی والہ: جی ہاں۔ مجھے سب مقامات کے پتے معلوم ہیں۔ میں کل صبح آؤنگا۔
 نرگس: اچھا، شکریہ، کل ملیں گے۔

Notes

ہمایوں: Humayun, Mughal Emperor, died 1556.

قُطُب مینار: Qutub Minar, victory tower in Delhi built in the 13th century by the ruler Qutub

ad-Din Aibak

نُصرت فتح علی خان: Nusrat Fateh Ali Khan, renowned qawwali performer; died 1997.

نظام الدین اولیاء: Nizam ad-Din Auliya, famous Muslim mystic of Delhi; died 1325.

امیر خسرو: Amir Khusraw, a Persian poet who lived in Delhi, popularly considered to be a
 pioneer poet in Hindi; disciple of Nizam ad-Din Auliya; died 1326.

مرزا غالب: Mirza Ghalib, a prominent Persian and Urdu poet; died in Delhi in 1869.

12.11 Conversation Practice

Anil: This is such a beautiful restaurant. Who is the beautiful woman who is singing?

Sonia: The woman who is singing is Anuradha. She is very famous. She and I used to study
 together in college.

Renu: Really? To which college did you both go?

Sonia: We went to Amherst College. As long as I was in college, I used to listen to her every week.

Renu: Did your parents live in the United States at that time?

Anil: No, both our families used to live in India at that time. Only both of us were in this country.

Renu: My family used to live in India five years ago, but now they also live here.

Waiter: What would you people like to eat?

Renu: The food here is very good. (use emphatic 'ہی')

Anil: What "all" do you like here?

Renu: Their dosas are delicious. I also like their tanduri chicken.

Sonia: I don't eat meat. I would like a dosa and a mango lassi.

Anil: I would like a plate of tanduri chicken.

Renu: I will get a dosa too.

Sonia: After we eat, we ought to go to a movie. Yesterday I was about to go to the new Madhuri movie but I did not have a car. My brother was going to New York.

Anil: Yes, I like Madhuri very much. Is the theater very far from here?

Renu: No, no. The theater is very near. But there is always a long line in front of the theater. For this reason we ought to go before 9 o'clock.

12.12 Songs

اے میری زہرہ جبین، تجھے معلوم نہیں
تو ابھی تک ہے حسیں اور میں جواں
تجھ پہ قربان میری جان میری جاں

یہ شوخیاں، یہ باتکپن، جو تجھ میں ہے کہیں نہیں
دلوں کو جیتنے کا فن، جو تجھ میں ہے کہیں نہیں
میں تیری آنکھوں میں پا گیا دو جہاں۔

(۲) میرے سپنوں کی رانی کب آئیگی تو؟
آئی رُتِ مستانی کب آئیگی تو؟
بتی جائے زندگانی کب آئیگی تو؟
چلی آ تو چلی آ!
پیار کی گلیاں، باغوں کی کلیاں
سب رنگِ رلیاں پوچھ رہی ہیں
گیت پگھٹ پہ کس دن گائیگی تو؟

(۳) عشق پنا کیا مرنا یارا
عشق پنا کیا جینا
گڑ سے میٹھا عشق عشق
املی سے کھٹا عشق
وعدہ پکا عشق عشق
دھاگا کچا عشق

Glossary for Songs

زہرہ جبین = forehead radiant as Venus

حسین = beautiful

قربان = sacrifice, offering

گلی = alley (f)

کلی = flower bud (f)

رنگِ رلیاں = rejoicings, merriment (f)

شوخیوں = coquetry, playfulness, flirting (f)
 باتکپن = elegance, smartness; curvature (m)
 جیتنا = to win, to conquer
 فن = art, skill (m)
 جہان = world (m)
 رانی = queen (f)
 رُت = season (f)
 مستانی = intoxicating
 زندگانی = life (f)
 بیتنا = to pass, elapse

پنگھٹ = well, tank; place for drawing water (m)
 (کے) بنا = without
 گڑ = raw sugar, molasses (m)
 املی = tamarind (f)
 کھٹا = sour, tart, harsh
 وعدہ = promise (m)
 پکا = ripe; perfect; strong, firm; pure
 دھاگا = thread (m)
 کچا = unripe, raw; rough; unstable; weak; brittle

12.13 Vocabulary

action/deed; mischief;
 movement; (f)

حرکت

airport (m)

ہوائی اڈا

animal (m)

جانور

answer (m)

جواب

artist (m)

فنکار

ashamed, bashful, modest

شرمندہ

to be ashamed, bashful, etc.

شرمندہ ہونا

baggage, luggage, goods (m)

سامان

besides, moreover, in addition to

کے علاوہ

brave, courageous

بہادر

capable, able, skillful;	قابل
worthy of (with oblique infinitive)	کے قابل
to cause or make listen, to tell;	سنانا
to narrate	
celebration (m)	جشن
to climb	چڑھنا
cold (weather) (m or f)	سر دی (f) / جاڑا (m)
to enjoy	مزه کرنا
fed up	بیزار
to flee, to run away from	بھاگنا
fort (m)	قلعہ
grave, tomb (f)	قبر
grave/tomb shrine of Sufi	مزار
holy man (m)	
heavy	بھاری
Hindu devotional hymn;	بھجن
worship (m)	
historical	تاریخی
homeland (m)	وطن
independence, freedom (f)	آزادی
invitation; feast, party (f)	دعوت
mausoleum (m)	مقبرہ

millionaire (m)	کروڑپتی
minaret (m)	مینار
Mirabai -- a 16th century (?) poetess famous for her devotional songs to the Hindu deity Krishna	میر ابائی
mischievous	شریر
mosque (f)	مسجد
mountain, hill (m)	پہاڑ
Mughal -- dynasty that ruled India from the 16th to the 19th century	مغل
nightingale (m/f)	بلبل
ninety	نوے
place (m) (plural)	مقام (مقامات)
Premchand -- prominent author of Urdu-Hindi narrative prose; died 1936	پریم چند
prince (m)	شاہزادہ
qawwali -- spiritual-mystical song recited by Muslim mystics (f)	قوالی
queen, empress (f)	مہارانی
queue/line (f)	قطار
rain (f)	بارش
to rain	بارش ہونا

to raise/nourish; maintain	پالنا
to protect	
receipt (f)	رسید
to return/come back	واپس آنا
revered person/ respected elder	بزرگ
several; some; a few	کئی
skill, art, craft (m)	فن
to smile	مُسکراتنا
Sufi -- a Muslim mystic (m)	صوفی
tree, plant (m)	پیڑ
to wait; to stay	ٹھہرنا
weight (m)	وزن
to work out, to exercise	ورزش کرنا

Chapter 13

13.1 The Simple Past Tense of Transitive Verbs

Subjects of transitive verbs in the simple past tense are marked with the particle **نے**. This particle puts the subject and any modifying adjective into the oblique case.

نے with Pronouns as Subjects

Although **نے** puts noun subjects into the oblique, in the case of pronouns *only the third person* pronouns go into the oblique. The third person plural pronoun "they" has a special oblique form with **انہوں** or **انہوں** instead of the usual **ان** or **اُن**.

I saw

میں نے دیکھا

You (least formal) saw

تو نے دیکھا

You (informal) saw

تم نے دیکھا

You (formal) saw

آپ نے دیکھا

He/she/it saw

اس نے دیکھا

We saw

ہم نے دیکھا

You (informal) saw

تم نے دیکھا

You (formal) saw

آپ نے دیکھا

They saw

انہوں نے دیکھا

Note: the oblique forms of the interrogative **کون** "who" before **نے** are **کس** (singular) and **کنہوں** (plural).

Verb Agreement for Transitive Verbs

The particle **نے**, used to mark the subject of a transitive verb in the past tense, cuts off agreement between the subject and verb. Instead the verb agrees in number and gender with the object, if it is explicitly mentioned. For example:

میں نے کتاب دیکھی۔

I saw the book.

In the above sentence the past participle of the verb is in the feminine singular form because its object, "book," is feminine singular. In this tense the gender of the subject is irrelevant for agreement for transitive verbs. Similarly, in the sentence below, the verb participle is in the masculine plural form in agreement with the object "shoes."

میں نے آپ کے جوتے دیکھے۔

I saw your shoes.

In case the object is not explicitly mentioned or is indeterminate, the participle uses the masculine singular form as its default form.

میں نے دیکھا۔

I saw.

In case the object is marked by **کو** (as, for example, is mandatory for direct animate or specific inanimate objects), then the verb participle also remains in the masculine singular as the particle **کو** cuts off agreement between object and verb.

میں نے لڑکوں کو دیکھا۔

I saw the boys.

میں نے کتاب کو دیکھا۔

I saw the book.

In both sentences above, the verb agrees with neither the subject nor the object because of the particles **نے** and **کو** which mark each of them respectively. As a consequence, the verb adopts the default form - masculine singular.

13.2 The Case of کرنا، دینا، لینا

Three of the most commonly used transitive verbs have irregular past participles: کرنا، دینا، لینا

Masculine Singular	کیا، دیا، لیا
Masculine Plural	کئے، دیئے، لیئے، رکھے، دے، لئے
Feminine Singular	کی، دی، لی
Feminine Plural	کیں، دیں، لیں

Examples:

میں نے کام کیا۔

I worked.

(The verb agrees with object کام, masculine singular.)

اُس نے چیزیں لیں۔

He took the things.

(The verb agrees with object چیزیں, feminine plural.)

میرے والد نے مجھے کپڑے دیئے۔

My father gave me clothes.

(The verb agrees with object کپڑے, masculine plural.)

13.3 Negating the Simple Past Tense

In order to negate the simple past tense, **نہیں** is placed right before the verb.

ہم وہاں نہیں گئے۔

We did not go there.

میں نے اُن لڑکیوں کو نہیں دیکھا۔

I did not see those girls.

Placing نہیں after the past participle results in an emphatic negation:

اس نے کھانا کھایا نہیں۔

He did not eat the food at all.

13.1-13.3 Reading and Translation Drill

- ۱۔ راج نے ایک سیب کھایا۔
سیما نے پچاس سیب کھائے۔
اُنہوں نے اور اُن کے بیٹوں نے وہ اچھی مٹھائی کھائی۔
کیا، آپ نے کھانا کھایا؟
- ۲۔ میں نے اپنی گاڑی بیچی۔
اُس نے اپنا گھر بیچا۔
اُن لڑکیوں نے پچاس چیزیں خریدیں۔
تو نے یہ پھل کب خریدے؟
- ۳۔ کیا، اُن طالب علموں نے اپنے کپڑے دھوئے؟
کیا، طالب علموں نے اُن کپڑوں کو دھویا؟
ہم نے اپنے کپڑوں کو دھویا مگر ہم نے اُن کو نہیں سکھایا۔
آپ نے مجھ کو پھل دیئے مگر میں نے اُن کو نہیں کھایا۔
- ۴۔ کیا، اُن ہوشیار لڑکیوں نے وہ چیز دیکھی؟

- کیا، اُن ہوشیار لڑکیوں نے اُس چیز کو دیکھا؟
 حسن نے راج کو سب چیزیں دیں مگر راج نے اُن چیزوں کو دیکھا نہیں۔
 اماں نے اُس چیز کو راج کو دیا مگر راج نے وہ چیز نہیں دیکھی۔
- ۵۔ ایک امیر آدمی نے اس کو دو ہزار ڈالر دیئے۔
 پچھلے سال آپ نے اپنے گھر کا کتنا کرایہ دیا؟
 اُس عورت نے ڈر کر چور کو الماری میں سے سب مہنگی چیزیں دیں۔
 آپ نے میرا کام کیا یا نہیں؟
- ۶۔ پرسوں میں نے آپ کا بہت انتظار کیا۔
 انہوں نے ایک بجے تک ہوائی جہاز کا انتظار کیا۔
 تم یہاں میرا انتظار کرو! میں ابھی آتا ہوں۔
 کسی آدمی نے بہت دیر تک اُس حسین عورت کا انتظار کیا۔
- ۷۔ کیا! تو نے مجھے پہچانا نہیں؟
 اُس چور نے اپنے وکیل کو نہیں پہچانا۔
 منیر نے بھیڑ میں شاہزادے چارلس کو پہچانا۔
 اردو کے اس ہوشیار طالب علم نے ہزاروں شعروں میں سے مرزا غالب کے شعر کو
 پہچانا۔

Translate the following sentences into Urdu. Pay special attention to transitive and intransitive verbs.

1. Yesterday, my friend and I came from school at 4:00 pm.
2. Did you dance with your friend last Saturday?
3. Having seen the ghost, all the boys were frightened.
4. He went home with his brother.

5. When did you wake up this morning?
6. In my opinion, you did not do a lot of work.
7. Did that little boy smile? Poor fellow, he was very sick yesterday. He had a high fever.
8. At what time did they reach Islamabad?
9. I don't know about them but I reached Islamabad at 3:30 pm.
10. Did you (least formal) understand?
11. With whom did she dance? I don't know; there was a big crowd at the party.
12. I washed the clothes but I did not dry them.
13. Did you (informal) drink tea? No, I don't like tea.
14. They asked me a question but I did not reply (i.e., give an answer).
15. What "all" did you write in the letter?
16. London is very expensive. I bought only two things.
17. Where did the President of America give his speech last night? On T.V.?
18. His friend gave him a lot of things for his birthday.
19. Did they fix (ٹھیک کرنا) your telephone?
20. We cleaned our house because my brother is coming home tonight.

Change the tenses in the following sentences into the simple past tense, inserting **نے** when necessary, and then translate them into English. For example: ہم کل سنیما جائینگے "We will go to the movies tomorrow" will become ہم کل سنیما گئے "We went to the movies yesterday."

- ۱۔ گاؤں والے کپڑے دھو رہے ہیں۔
- ۲۔ کیا وہ چھوٹا لڑکا پیٹر پر چڑھ رہا ہے؟
- ۳۔ ہم اپنے خاندان کے ساتھ آئیگے

- ۴۔ شیلا اُس چیز کو دیکھ رہی ہے۔
- ۵۔ آپ جرمنی سے ہمارے لئے کیا کیا لائینگے؟
- ۶۔ تم اپنے گاؤں کب جاؤ گے؟
- ۷۔ کیا، آپ کی لڑکی روتی ہے؟
- ۸۔ میں چاول اور سالن کھاؤنگا۔
- ۹۔ روی اور نیل شراب نہیں پیتے ہیں۔
- ۱۰۔ کیا، راج نرگس سے لڑتا ہے؟
- ۱۱۔ اس کام کو کرنے میں تم کیوں دیر کر رہی ہو؟
- ۱۲۔ میرے خیال میں وہ لڑکی بھوت نہیں دیکھ سکتی۔

13.4 The Present Perfect Tense

The simple past tense is used to denote past actions that are completed. If these completed actions are connected to or have bearing upon the present, then the present perfect tense is used.

Simple Past Tense:

وہ ہندوستان سے آیا۔

He came from India.

(Action completed in the past)

Present Perfect Tense:

وہ ہندوستان سے آیا ہے۔

He has come from India.

(Action completed but still relevant to the present)

In order to form the present perfect tense, the past participle of the verb is followed by the appropriate present tense of the verb ہونا that agrees with the subject of the verb (in case of

intransitive verbs) or the object of the verb (in case of transitive verbs).

	Masculine	Feminine
I have come	میں آیا ہوں	میں آئی ہوں
You (least formal) have come	تو آیا ہے	تو آئی ہے
You (informal) have come	تم آئے ہو	تم آئی ہو
You (formal) have come	آپ آئے ہیں	آپ آئی ہیں
He/She/It has come	وہ آیا ہے	وہ آئی ہے
We have come	ہم آئے ہیں	ہم آئی ہیں / ہم آئے ہیں
You (informal) have come	تم آئے ہو	تم آئی ہو
You (formal) have come	آپ آئے ہیں	آپ آئی ہیں
They have come	وہ آئے ہیں	وہ آئی ہیں

Note: for the feminine plural, the feminine past participle is not nasalized, e.g., عورتیں آئی ہیں

Examples:

Intransitive Present Perfect Tense (verb agreeing with the subject)

علی باہر گیا ہے۔

Ali has gone out.

شیلا اور ریشما باہر گئی ہیں۔

Sheila and Reshma have gone out.

Transitive Present Perfect Tense (verb agreeing with the object)

راج نے دکان سے کتابیں خریدی ہیں۔

Raj has bought books from the shop.

(کتاب (verb agreeing with feminine object

نرگس نے ریشما کو پینے کے لئے دودھ دیا ہے۔

Nargis has given Reshma milk to drink.

(verb agreeing with masculine object دودھ)

13.4 Reading and Translation Drill

- ۱۔ سلیم وہاں گیا ہے۔
شہلا آج ہی دلی سے واپس آئی ہے۔
میں ابھی نہیں جاگی ہوں۔
ہم بالکل عجیب ملک میں آئے ہیں۔
- ۲۔ یہ ڈاک کب آئی ہے؟
وہ ڈاک ابھی گاؤں سے آئی ہے۔
میرے خیال میں یہ ڈاک اُس چھوٹے ڈاکخانے سے آئی ہے۔
کیا، آپ نے اپنی آج کی ڈاک پڑھی ہے؟
- ۳۔ ہمارے دوست نے دلی کی عدالت نہیں دیکھی ہے۔
کیا، تو نے لاہور کا ہوائی اڈا دیکھا ہے؟
میں نے ہوائی جہاز میں سفر نہیں کیا ہے۔
وہ وکیل ابھی ہوائی اڈے سے عدالت گیا ہے۔
- ۴۔ اُس مجرم نے لاہور کے قیدخانے میں کیا کھایا ہے؟
اُن مجرموں نے قیدخانے میں گرم گرم روٹیاں کھائی ہیں۔
علی نے اب تک چائے بھی نہیں پی ہے۔
راجہ نے شاد کے انتظار میں چائے نہیں پی ہے۔
میں نے اپنے دوست کے انتظار میں کھانا نہیں کھایا ہے۔
تم نے اُس عجیب شہر میں کیا کیا خریدا ہے؟

- ۵۔ میں نے سنا ہے کہ کل رات کو امیک نے اپنی الماری میں ایک بھوت دیکھا۔
میں نے سنا ہے کہ اس کروڑپتی نے اپنے شاندار گھر کو بڑھایا ہے۔
میں نے سنا ہے کہ حکومت نے آزادی کے دن ایک شاندار دعوت کی۔
میں نے سنا ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے لال قلعہ سے ایک تقریر کی ہے۔

13.5 The Past Perfect Tense

As in English, the past perfect tense emphasizes actions completed at a given point in time in the past.

علی بھی آیا تھا۔

Ali too had come.

راج نے مٹھائی کھائی تھی۔

Raj had eaten the sweets.

As in the present perfect tense, the past perfect tense is formed with the past participle of the verb. However, instead of using the present tense of the verb ہونا as an auxiliary, this construction uses the past tense auxiliary form of ہونا namely, تھا, and its variants. Again, the participle and its auxiliary have to agree with the subject of the intransitive verb or the object of the transitive verb:

ہیر اور رانجھا اس گاؤں میں رہے تھے۔

Hir and Ranjha had lived in this village.

ہیر اور رانجھا نے ایک آم کھایا تھا۔

Hir and Ranjha had eaten a mango.

13.5 Reading and Translation Drill

- ۱۔ شاہ جہاں نے تاج محل بنوایا تھا۔
اور نگزیب نے بادشاہی مسجد بنوائی تھی۔
کیا، جارج واشنگٹن نے وائٹ ہاؤس بنوایا تھا؟
نہیں، میرے خیال میں جان ایڈمز نے وہ عمارت بنوائی تھی۔
- ۲۔ آپ کی بہن نے کل رات کی دعوت کے لئے کیا بنایا تھا؟
میری بہن نے کل سموسے اور پکوڑے بنائے تھے۔
کیا، اُس آدمی نے مزیدار مٹھائی بنائی تھی؟
جی نہیں۔ اُس نے کچھ خاص مٹھائی نہیں بنائی تھی۔
- ۳۔ ہم ہندوستان اُس وقت نہیں گئے تھے۔
کیا، اُس مشہور اداکارہ نے وہاں کی خاص چائے پی تھی؟
جی نہیں، اُس مشہور اداکارہ نے آم کا خاص جوس (میٹو ملک شیک) پیا تھا۔
مجھے لسی نہیں پسند۔ میں نے وہاں پھل کا رس پیا تھا۔
- ۴۔ پولیس نے چالاک چور کو پکڑا تھا۔
عدالت میں جج صاحب نے خطرناک مجرم سے بہت سوال پوچھے تھے۔
چالاک وکیل نے مجرم سے قید خانے کی حالت کے بارے میں بات کی تھی۔
جن چوروں نے اس بینک کی چوری کی تھی، وہ بہت چالاک تھے۔
- ۵۔ جب اس کو ان باتوں کی معلومات ہوئی تھیں تب وہ بہت شرمندہ ہوا تھا۔
کل منیر نے دعوت میں آنے والے بچوں کے ساتھ مذاق کیا تھا۔
بچپن میں وہ بہادر آدمی ہمالیہ پر چڑھا تھا۔
میرے پروفیسر نے اپنی زندگی کی کہانی دہرائی تھی۔

13.6 Cardinal Numbers 91-100

- ۹۱۔ اکیانوے
- ۹۲۔ بانوے
- ۹۳۔ تیرانوے
- ۹۴۔ چورانوے
- ۹۵۔ پچانوے
- ۹۶۔ چھیانوے
- ۹۷۔ ستانوے
- ۹۸۔ اٹھانوے
- ۹۹۔ ننانوے
- ۱۰۰۔ سو

13.7 گفتگو (Conversation)

(نرگس، راج، روی، رشی اور ریشما دتی کی ہوٹل میں)

دروازے پر دستک۔۔۔

نرگس: کون ہے؟

روم سروس والا: نمستے میم صاحب۔ ہم آپ کی چائے لائے ہیں۔

راج: اتنی صبح! کیا، ان لوگوں کا دماغ خراب ہے؟ (روم سروس والے سے)۔ ہم

ابھی سو رہے ہیں۔ بعد میں آؤ۔

نرگس: راج! دس بج رہے ہیں۔ ہم کو جلدی اٹھنا چاہیے۔ ورنہ گرمی

بہت بڑھگی۔

راج: تم کب جاگیں؟

نرگس: میں رات میں سوئی نہیں۔ میرے سر میں بہت درد تھا۔

- راج: تم نے کچھ دوائی کھائی ہے؟ میرے سوتلیکس میں ایسپرین ہے۔
- زرگس: نہیں۔ اب تو میں ٹھیک ہوں۔ تم جلدی اٹھو، نہاؤ اور پھر ہم لال قلعہ جا سکتے ہیں۔ ریشما، رشی اور روی، تم لوگ بھی اٹھو۔ بہت دیر ہو رہی ہے۔
- ریشما: او دیدی! میں اور سونا چاہتی ہوں۔ آپ اور راج بھیا جا سکتے ہیں۔ مجھے تاریخی جگہوں سے بالکل دلچسپی نہیں۔ دیکھیے روی بھیا اور رشی بھیا کو کتنی تھکن ہے۔ وہ دونوں تو آنکھیں بھی نہیں کھول سکتے!
- رشی: او ہو! صُح صُح اتنا شور! ہمیں اور سونا ہے!
- روی: رشی بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ تم لوگ جاؤ! ہم بعد میں سیر کریں گے۔
- زرگس: کیا، تم دلی سونے کے لئے آئے ہو؟ اچھا، ٹھیک ہے۔ ہم دونوں جائیں گے۔
- روم سروس والا: میڈم! کیا آپ کو چائے چاہیے؟
- زرگس: ہاں، ہم بیس منٹ میں نیچے آئیں گے۔
- (زرگس اور راج ٹیکسی میں)
- زرگس: ہم کو لال قلعہ جانا ہے۔
- ٹیکسی والا: اچھا! آج اُدھر بہت بھیڑ ہے۔ میں اُدھر تھوڑی دیر پہلے ہی گیا تھا۔
- راج: کیا، کوئی خاص بات ہے؟
- ٹیکسی والا: ہاں صاحب۔ آج مُجمَعہ ہے۔ لال قلعہ کے پاس جامعہ مسجد ہے اور وہاں سب مُسلمان آج دو پہر کو نماز پڑھتے ہیں۔ کیا، لال قلعہ جانا ضروری ہے؟
- زرگس: کیا؟! ہاں بالکل ضروری ہے۔ اُس کے بعد ہم جامعہ مسجد بھی جائیں گے۔ وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔
- ٹیکسی والا: ہاں۔ یہ مغلوں کے زمانے کی عمارتیں ہیں۔ یہ عمارتیں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنوائی ہیں۔ کیا، آپ کو یہ معلوم تھا؟

نرگس: ہاں۔ میں نے ہندوستان کی تاریخ پڑھی ہے۔ مجھے تاریخی مقامات بہت پسند ہیں۔

راج: کیا، دلی میں چڑیا گھر نہیں ہے؟

نرگس: کیا؟ تم چڑیا گھر جاؤ گے؟

راج: کیوں نہیں؟

نرگس: ہاں، ہاں۔ مجھے معلوم ہے۔ تمہارا خاندان وہیں تو رہتا ہے۔ اُن سے ملنا بہت ضروری ہے۔

راج: کیا؟!

نرگس: ارے، بُرا مت مانو۔ میں تو مذاق کر رہی ہوں۔ تم بھی تو ہر وقت مذاق کرتے ہو!

ٹیکسی والا: لو صاحب۔ یہ ہے لال قلعہ۔ کتنا شاندار ہے!

راج: واہ! کیا چیز ہے!

نرگس: دیکھو راج۔ ۱۹۴۷ء میں، ہندوستان آزاد ہوا۔ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم، جواہر لال نہرو نے آزادی کے دن یہیں سے تقریر کی تھی۔ ایک زمانے میں یہاں مغل بادشاہ رہتے تھے۔ اُس کے بعد انگریزوں نے یہاں سے حکومت کی۔

ٹیکسی والا: آپ کی بہت معلومات ہیں۔ آپ لوگ یہاں کب تک رہینگے؟

راج: ہم یہاں دو بجے تک رہینگے۔ اُس کے بعد ہم جامعہ مسجد جائینگے۔

ٹیکسی والا: اچھا۔ میں دو بجے یہاں آپ کا انتظار کروں گا۔ صاحب آج تو دھوپ

بہت تیز ہے۔ کیا، آپ اپنی ٹوپی نہیں لائے ہیں؟

راج: ہاں۔ میں ٹوپی لایا ہوں اور ساتھ میں چھتری بھی لایا ہوں۔ وہ نرگس کے

پاس ہے۔

نرگس: چلو راج۔ بہت دیر ہو رہی ہے۔ لال قلعہ بہت بڑا ہے۔ ہم کو ہوٹل
جلدی واپس جانا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ریشما، رشی اور روی ہوٹل
میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں؟

13.8 Conversation Practice

- Mother: Anil! You are watching a lot of TV. Did you do your work?
- Anil: Yes, mummy. I did my work, washed the clothes, and organized my room.
- Mother: Did you eat the delicious samosas that I made?
- Anil: Mummy! I am not hungry. I want to watch TV. This is my favorite show.
- Mother: No. First eat these samosas and then drink this milk. It has bournvita
(chocolate) in it.
- Anil: I don't like milk. You know that. I ate two oranges and an apple.
- Mother: Milk is good for your health. Look - your brother drinks five glasses of milk
every morning and all the girls like him. Sunita Auntie told me yesterday that
your brother is the most handsome guy in school.
- Anil: Really! I did not know that. I will now drink six glasses.
- Mother: Just drink one glass right now otherwise the cow will not be very happy.

13.9 Songs

(۱) میرے گھر آئی ایک ننھی پری، ایک ننھی پری
چاندنی کے حسین رتھ پہ سوار
اُسکے آنے سے میرے آنگن میں
کھل اُٹھے پھول، گنگنائی بہار
دیکھ کر اُسکو جی نہیں بھرتا

چاہے دیکھوں اُسے ہزاروں بار
میں نے پوچھا اُسے کہ کون ہے تو؟
ہنس کے بولی کہ میں ہوں تیرا پیار
میں تیرے دل میں تھی ہمیشہ سے
گھر میں آئی ہوں آج پہلی بار

(۲) پیار ہوا اقرار ہوا ہے
پیار سے پھر کیوں ڈرتا ہے دل؟
کہتا ہے دل رستہ مشکل
معلوم نہیں ہے کہاں منزل
کہو کہ اپنی پریت کا گیت نہ بدلیگا کبھی
تم بھی کہو اس راہ کا میت نہ بدلیگا کبھی
پیار جو ٹوٹا ساتھ جو چھوٹا، چاند نہ چمکیگا کبھی
راتیں دسوں دشاؤں سے کہیںگی اپنی کہانیاں
گیت ہمارے پیار کے دہرائیں گی جوانیاں
میں نہ رہو گی، تم نہ رہو گے، پھر بھی رہیں گی نشانیاں

Glossary for Songs

تنہا = little, tiny, young

پری = fairy (f)

رتھ = chariot (m)

پر سوار x = riding on

آنگن = courtyard of a house (m)

اقرار = promise; agreement; acceptance (m)

رستہ = road, path (m)

منزل = goal, destination (f)

پریت = love; happiness, joy (f)

راہ = path, road (f)

کھل اٹھنا = to blossom, to flower

گنگنا = to hum, to sing softly

جی بھرنا = to be content, to be satisfied

میت = friend, lover (m)

چمکنا = to shine, glow, glimmer

دشا = direction (f)

13.10 Vocabulary

bad, evil, wicked	بُرا
to be affronted, to feel insulted	بُرا ماننا
beautiful	حسین
brain, mind, intellect (m)	دماغ
to cause to be built, constructed	بنوانا
to have X built	X کو بنوانا
to cause to laugh	ہسانا
clever, cunning, sly	چالاک
court (f)	عدالت
criminal (m)	مجرم
crowd (f)	بھیڑ
cupboard, cabinet (f)	الماری
to dry	سکھانا
facts, information (f)	معلومات
to fight x	x سے لڑنا
to forget	بھولنا
ghost (m)	بھوت
government (f)	حکومت

to govern	حکومت کرنا
to increase, to enlarge, to extend	بڑھنا
(intransitive)	
to cause to increase, enlarge	بڑھانا
(transitive; causative)	
interest (interesting) (f)	دلچسپی
joke, wit; taste (m)	مذاق
journey (m)	سفر
to make a journey, to travel	سفر کرنا
juice, nectar (m)	رس
late, a long while; a long period	دیر
of time, interval; lateness (f)	
to delay, to be a long time	دیر کرنا
to come late	دیر سے آنا
lawyer, agent (m/f)	وکیل
to live; to be alive	چینا
to lose (a battle, contest, game)	ہارنا
mail (f)	ڈاک
moon (m)	چاند
moonlight (f)	چاندنی
Muslim ritual prayers (f)	نماز
to recite namaz	نماز پڑھنا

oath (f)	قسم
to swear by x	x کی قسم کھانا
to open	کھولنا
otherwise	ورنہ
poetry; a couplet, a verse (m)	شعر
to play the role of x	x بننا
prison, jail (m)	قید خانہ
to recognize; to know; to	پہچاننا
perceive; to discern	
to repeat, to double, to fold	دہرانا
sign, memento, souvenir (m/f)	نشان (m) / نشانی (f)
special	خاص
speech, recital, statement (f)	تقریر
to give a speech	تقریر کرنا
splendid, stately, grand	شاندار
theft (f)	چوری
umbrella; canopy (f)	چھتری
village (m)	گاؤں
waiting, expectation (m)	انتظار
to wait for x	x کا انتظار کرنا
wonderful; surprising; strange	عجیب
zoo (m)	چوایا گھر

Chapter 14

14.1 لگنا Constructions

لگنا is an intransitive verb which has a wide variety of meanings, depending on the context in which it is being used. The range of its root meanings include "to be connected to," "to be attached to," "to be fastened with or hung to," "to stick or adhere to."

اس کی تصویر اس دیوار پر لگی ہے۔

His picture is hanging (has been hung) on the wall.

ہندوستان کے خط پر کتنے ٹکٹ لگتے ہیں۔

How many stamps for (literally, are attached to) a letter for India?

In addition to the above examples, there are many idiomatic expressions and constructions with لگنا, some of which are introduced below.

(A) لگنا in Constructions with کو

لگنا can be used to convey feelings, sensations (hunger, thirst, fear), and perceptions (to seem, to appear). It is also employed in constructions involving objects that strike or hit the body (bullets, arrows, wounds). In these constructions, the logical subject in English is marked by کو and the verb agrees grammatically with the feelings, sensations, or objects.

آج صبح پانچ بجے مجھے بھوک لگی۔

I felt hungry at five o'clock this morning.

کیا تم کو علی اچھا لگا؟

Did Ali seem nice to you?

راج کو لگتا ہے کہ نرگس کسی وجہ سے ناراض ہے۔

It seems to Raj that Nargis is displeased for some reason.

گرم چائے پینے کے بعد مجھے ٹھیک لگیگا۔

After drinking tea I will feel better.

مجرم کو گولی لگی۔

The criminal was struck by the bullet.

لگنا can also mean "to require," "to take (time)," "to cost" in constructions where the logical subject (in English) is marked by کو and the verb agrees in number and gender with the object:

میں گھر دیر سے آیا کیونکہ مجھے ایمیگریشن کے دفتر میں دو گھنٹے لگے۔

I came home late because it took me two hours in the Immigration office.

اُس ہوٹل میں کھانا کھانے میں بہت پیسے لگینگے۔

It will cost a lot of money to eat in that restaurant.

یہاں سے اسلام آباد پہنچنے میں کتنے گھنٹے لگینگے؟

How many hours will it take to reach Islamabad from here?

(B) *Oblique Infinitive* + لگنا

When لگنا follows an oblique infinitive, it conveys the sense of the commencement or beginning of the action associated with the verbal infinitive. In this construction, the verb of action always remains as the oblique infinitive and the verb لگنا agrees in number and gender with the subject. Although the "oblique infinitive + لگنا construction" occurs in all tenses, except for the present and past continuous ones, it is common to find it used in the past tense.

راج اسی ہسپتال میں کام کرنے لگا۔

Raj began to work in the same hospital.

ڈر کی وجہ سے، بچے رونے لگے۔

The children began to cry from (on account of) fear.

ہم کل وہاں کام کرنے لگیں گے۔

We will begin to work there tomorrow.

ہر روز وہ عورت دفتر سے گھر آ کر کھانا پکانے لگتی ہے۔

Every day that woman begins to cook after coming home from the office.

14.1 Reading and Translation Drill

- ۱۔ گاندھی جی کی تصویر اُس دیوار پر لگی ہے۔
آپ کے منہ پر کچھ لگا ہے۔
کل صبح ہمیں بہت بھوک لگی تھی۔
کیا، آپ کو پیاس نہیں لگی؟
- ۲۔ مجھے وہ لڑکی بہت خوبصورت لگی۔
کیا، تمہیں وہ فلم اچھی لگی؟
نہیں، مجھے انگریزی فلمیں اچھی نہیں لگتیں۔
ہمیں صرف انگریزی شاعری اچھی لگتی ہے۔
- ۳۔ اس کتاب کو ختم کرنے کے لئے بہت دن لگے۔
آپ کے دوست کے جانے کے بعد، آپ لوگ کیا کرنے لگے؟
میں کپڑے دھونے لگا اور شیلا گھر صاف کرنے لگی۔
میرے خیال میں اب تم کام کرنے لگو۔
- ۴۔ شرارت کرنے والے لڑکے اپنے ماسٹر کو دیکھ کر رونے لگے۔
جولائیٹ رومیو کے بارے میں سوچنے لگی۔
چور اپنی ماں کی قسم کھانے لگا۔

- ۵۔ ساڑھے بارہ بجے وہ پانچویں مسلمان نماز پڑھنے لگے۔
 مائیکل جیکسن کو دیکھ کر سب لڑکیاں چیخنے لگیں۔
 لیجئے، یہ دوائی پیچئے۔ آپ کو ابھی کچھ منٹوں میں ٹھیک لگنے لگیگا۔
 نرگس کو لگا کہ راج رادھا سے پیار کرنے لگا۔
 مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ایک بہت خطرناک چور ہے۔

Translate into idiomatic Urdu:

1. We are (feeling) very hungry. We have to eat now.
2. What all seemed beautiful to you in Agra?
3. All my friends began to go home.
4. How long (lit. how much time) does it take to go by car from Boston to New York?
5. The girl began to laugh a lot after she heard the joke.
6. The rich lady asked the washerman (دھوبی) how many days it would take to wash all the clothes.
7. Excuse me, sir, can you tell me how much a ticket to Benares would cost?
8. The boy was wounded in the head. (wound (f) = چوٹ; to be wounded = چوٹ لگنا).
9. It seems to me that in India mangoes are cheaper than apples.
10. I am not feeling well. I want to go home and sleep.

14.2 Verb Stem+ چکنا Construction

چکنا "to finish" is an intransitive verb which is never used by itself. Like the verb سکتا "to be able to, can," it must always be preceded by the stem of another verb. In such constructions, چکنا indicates the completion of the action denoted by the verbal stem which precedes it (i.e., finish doing something). Like the "oblique infinitive+ لگنا" construction, چکنا is found in all tenses,

except the present continuous and past continuous. Since it is primarily a completive auxiliary, it occurs most frequently in past tense constructions. Translations of "verb stem + چکنا" construction often incorporate the word "already" to indicate the sense of completion.

راج یہ کتاب پڑھ چکا تھا۔

Raj had already read (finished reading) this book.

وہ لڑکا اپنا دودھ پی چکا ہے۔

That boy has already drunk (finished drinking) his milk.

ہمارا نوکر گھر کا کام تین بجے تک کر چکیگا۔

Our servant will finish the house work by three o'clock.

14.2 Reading and Translation Drill

- ۱۔ وہ لڑکے یہ کتابیں پڑھ چکے ہیں۔
ہمارے مہمان جا چکے ہیں۔
وہ لڑکیاں پھل کھا چکی ہیں۔
میں کپڑے بدل چکی ہوں۔
- ۲۔ کیا، آپ اس سے پہلے بھی پاکستان دیکھ چکے ہیں؟
مجھے لگتا ہے کہ آپ دنیا کی سیر کر چکے ہیں۔
لڑکی اپنی والدہ کو خط بھیج چکی ہے۔
ہم اپنے صنم کو دل دے چکے ہیں۔
- ۳۔ جب عورتوں نے دیکھا کہ ہم کھانا کھا چکے ہیں تو وہ خود کھانے لگیں۔
جب زمیندار وہاں پہنچا تب تک وہ محنتی کسان سب شہر توڑ چکے تھے۔
جب ہم ہوائی اڈے پر پہنچے تو ہوائی جہاز نکل چکا تھا۔
جب امول گھر پہنچ چکا تھا تو اسے میرے پیسے یاد آئے۔

Translate into Urdu:

1. I had already finished eating when he came to my house.
2. The mother asked her son, "Have you already read this book?"
3. The student had already written his essay and given it to his professor.
4. Have you already seen a movie in which Shahrukh Khan is an actor?
5. When he had already left, then I remembered his name!
6. When the teacher reached the school, the students had already gone home.
7. When Shahrukh Khan had already left my shop, I recognized him.
8. The naughty boy had already climbed up the tree.
9. When Nargis and Raj arrived at the zoo, it was already closed (to be closed = بند ہونا).
10. When the doctor examined me, the fever had already come down (use اُترنا or کم ہونا).

14.3 The Oblique Infinitive + دینا Construction

The oblique infinitive of a verb in combination with the verb دینا is used to express the idea of allowing or permitting someone to do something as well as giving permission. The infinitive always appears in its inflected form while the verb دینا agrees in number and gender with the subject.

بیمار بچے کو سونے دیکھئے۔

Let the sick child sleep!

میرے والد صاحب مجھے ایک گاڑی خریدنے دیں گے۔

My father will allow me to buy a car.

The oblique infinitive + دینا construction is considered to be transitive. Therefore, in the simple

past tense, the subject of this construction is marked with نے with the verb دینا agreeing with the object.

انہوں نے لڑکی کو کتاب نہیں پڑھنے دی۔

They did not let the girl read the book.

(verb agreeing with object "book")

14.3 Reading and Translation Drill

- ۱۔ میری والدہ مجھے ٹی۔ وی۔ دیکھنے دیتی ہیں۔
کیا، آپ کے والد آپ کو قہال دیکھنے دیتے ہیں؟
نہیں۔ ہمارے والد ہم کو صرف خبریں دیکھنے دیتے ہیں۔
شیرا کی بہن اُس کو مٹھائی نہیں کھانے دیتی۔
- ۲۔ تم مجھے کام کرنے دو گے یا نہیں؟
شفیق کو بخار ہے۔ اُسے سونے دو۔
بس! اب تو مجھے رونے دیجیئے۔
راج اب تو رات کے بارہ بج رہے ہیں! زگس کو گھر جانے دو۔
ریشما! پچ رہو! ہمیں دُنیا کے سب سے عظیم فنکار کو سننے دو!
- ۳۔ میرے گھر والے نے مجھے بات بھی نہیں کرنے دی۔
اُس کم بخت (wretched) مُلک کی سردی نے ہمیں باہر بھی نہ جانے دیا۔
سمیر کے باپ نے اُسے جولی سے شادی نہیں کرنے دی۔
سردار صاحب نے اپنے لڑکے کو شراب نہیں پینے دی مگر پانی پینے دیا۔
- ۴۔ آپ کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سگریٹ نہیں پینے دینا چاہیئے۔
آپ کی یاد نے مجھے سونے نہیں دیا۔
اُس بہادر لڑکی نے چور کو پیسوں کی الماری (safe) کھولنے نہیں دی۔

می ڈارنگ راج کے پتاجی کو زیادہ مٹھائی کھانے نہیں دیتی ہیں۔

Translate into Urdu:

1. We will not allow our children to play outside in this cold. They can play inside the house with their toys.
2. When I go to Dubai, my friend lets me stay in his house. It is a splendid house with a pretty garden.
3. I have heard that India is a beautiful country. Let your daughter go to India.
4. His father does not allow him to stay outside after 11 pm.
5. Did you let the traveller see those photographs?

14.4 Compound Verbs

(A) *Verb Stem + Aspect Indicators:* لینا، دینا، جانا، پڑنا، بیٹھنا، ڈالنا

A compound verb combines the stem or root of a principal verb with the conjugated form of an auxiliary verb. Frequently, the auxiliary verb loses its original lexical meaning, serving instead as an aspect indicator that connotes a nuance or aspect of the action of the main verb. For instance, an aspect indicator verb may indicate the intensity with which an act was performed, its suddenness or that it was done foolishly. There are only a handful of verbs that can serve as aspect indicators; some common aspect indicator verbs and the nuances with which they are associated are listed below. It is necessary to keep in mind the following points concerning an auxiliary verb serving as an aspect indicator:

a) The aspect indicator verb, which acts in an auxiliary mode, loses its original meaning. For example, the verb لینا "to take" when used as an aspect indicator no longer means "to take."

Instead, it indicates that the action of the principal verb has taken place for the subject's benefit

or is in some manner directed toward the subject.

b) Only the aspect indicator verb inflects; the stem of the main verb remains unchanged. As auxiliary verbs, aspect indicators can be in any tense, except the continuous.

c) In the past tense, aspect indicator constructions are treated as transitive (i.e., subject will be marked by نے) only if both the aspect indicator verb and the main verb are transitive.

d) Since there are no equivalents of aspect indicators in English, accurate translations are often difficult without some elaboration.

Common Aspect Indicators

1. لینا, "to take": When لینا is used as an auxiliary verb with the stem of another verb, it conveys the meaning that the action has taken place for the subject's benefit or is in some manner directed toward the subject:

اُس نے یہ کتاب پڑھ لی۔

He read this book (for his own benefit).

مریض یہ دوائی پی لیگا۔

The patient will drink the medicine (for himself).

2. دینا, "to give": دینا as an auxiliary verb with the stem of another verb conveys the meaning that the action has been done for the benefit of someone other than the subject or directed away from the subject:

میں نے یہ کتاب پڑھ دی۔

I read this book (for someone else).

امیر لوگوں کو اپنا زیادہ پیسہ غریبوں کو دے دینا چاہئے۔

Rich people should give away their extra money to the poor.

3. جانا, "to go": جانا may denote several aspects including the total completion of an action, the transition from one state to another, or an action that is taking place as a process:

وہ آدمی سو گیا۔

That man fell asleep.

کیا، تم کل تک وہاں پہنچ جاؤ گے؟

Will you reach there by tomorrow?

گاؤں والے لڑکے تیز بریانی کھا گئے۔

The boys from the village ate up the spicy biryani.

4. پڑنا, "to fall": This denotes a sudden or violent change of affairs or a sudden downward motion.

وہ لڑکا پیڑ پر سے گر پڑا۔

That boy fell down from the tree.

اُن کی باتیں سن کر میں ہنس پڑا۔

On hearing his talk, I burst out laughing.

5. بیٹھنا, "to sit": This is similar to پڑنا since it also denotes sudden action. بیٹھنا further implies that the reasons for the action are foolish or senseless.

وہ اپنی کتابیں کھو بیٹھا۔

He lost his books.

چھوٹی لڑکی رو بیٹھی۔

The young girl cried (without any good reason).

6. ڈالنا, "to pour, to throw down": Also indicates a violent action and further implies that the action has been completed.

کیا، آپ نے وہ کتاب پھینک ڈالی؟

Did you throw away that book?

(B) Verb Stem + پانا Construction

Not all auxiliary verbs in compound verbal formations function as aspect indicators. For instance, the verbs سکنّا and چکنا are considered grammatically to be modals indicating, respectively, ability and completion. The verb پانا as an auxiliary verb also functions as a modal. It is used to underscore physical ability or capacity to perform a particular action to its completion. Stem + پانا constructions are best translated as "to manage to..." or "get a chance to..." They commonly occur in the negative. In the past tense, the subject of this construction is not marked by نے.

ہم یہ گیت نہیں گا پائے۔

We weren't able (could not manage) to sing this song.

عشق کی وجہ سے ، راج سو نہیں پاتا۔

On account of love, Raj cannot (manage to) sleep.

افسوس ہے کہ میں یہ سچ وقت پر نہیں بتا پائی۔

I regret that I could not manage to tell this truth in a timely manner.

Unlike the verbs سکنّا and چکنا, the verb پانا can be used in a non-modal context, that is, on its own, in which case it means "to find" or "to get." In this situation, it functions as regular transitive verb, with the subject being marked with نے in the past tense.

آپ نے اس کام سے کیا خوشی پائی؟

What happiness did you get from this work?

14.4 Reading and Translation Drill

- ۱۔ آپ کھانا کھا لیجیے، میں تو اپنے دوست کا انتظار کر رہا ہوں۔
اُس لڑکی نے پیڑ پر چڑھ کر پھل کھا لیے۔
اگرچہ وہ بوڑھی ہے مگر گھر کے سب کام وہ خود ہی کر لیتی ہے۔
کیا، تم گاڑی چلا لیتے ہو؟
- ۲۔ کیا، آپ میرے لئے کتابیں لا دینگے؟
میں نے آپ کے لئے اچھی اچھی چیزیں خرید دی ہیں۔
یہ نوکر ابھی آپ کا کمرہ صاف کر دیگا۔
کیا، اُس دھوبی نے ہمارے کپڑے دھو دیئے ہیں؟
- ۳۔ کیا، اُن کے سب رشتہ دار اُس گاڑی کے ایکسیڈینٹ میں مر گئے؟
کیا، وہ موٹا لڑکا سارا کھانا کھا گیا؟
دیکھو! وہ پلٹی پیڑ پر چڑھ گئی۔
ہم یہیں بیٹھ جائینگے
- ۴۔ میں لال قلعہ کے اوپر سے جامعہ مسجد نہیں دیکھ پایا۔
اُن کے ہاتھوں پر مہندی لگی تھی۔ وہ کام نہیں کر پائیں۔
کیا، تم اپنا کمرہ صاف کر پائے؟
وہ لڑکی بیمار ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے وہ ہمارے گھر نہیں آ پائی۔
- ۵۔ اُس غمناک کہانی کو سننے کے بعد، وہ لوگ رو پڑے۔
ہم سائینفیلڈ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔
اُمراں دھیرے میں گر پڑا۔
بیچارہ ہمٹی ڈمٹی دیوار سے گر پڑیگا۔
- ۶۔ تم یہ کیا کر بیٹھے؟

شیرا سنیل سے محبت کر بیٹھی!
 وہ پاگل آدمی ہوائی جہاز میں اُن سب مسافروں کو مار بیٹھا۔
 میں اپنے ہوش کھو بیٹھی۔
 ۷۔ نرگس نے راج سے پیار کر کے سنیل کا دل توڑ ڈالا۔
 اُس چور نے سب گھر والوں کو مار ڈالا۔
 ہمارے شریر لڑکے نے سب کھلونے توڑ ڈالے۔
 میری تصویر کو کس نے پھینک ڈالا؟

Translate the following into Urdu using appropriate aspect indicators:

1. We have cleaned the house (for our own benefit).
2. Have you written the letter (for someone else)?
3. We are not hungry. Please eat these sweets (for your own benefit).
4. All his friends died (abruptly).
5. He lost all his best toys (foolishly).
6. Look (for yourself). I have nothing in my hands.
7. Will you be able to take all your toys in this small box?
8. The traveller came home and fell asleep.
9. Nargis ought to have her blood tested (to get X tested = X کا معائنہ کرانا).
10. The cunning thief stole all the traveller's money.
11. I understood what he had to say (use اس کی بات (completely).
12. Because of a bad cough, he could not (manage to) eat his food (use پانا).
13. He is so busy that he will not get a chance (use پانا) to go to the hospital to see his mother.

14.5 Introduction to the Subjunctive

The subjunctive form of a verb is commonly used in situations expressing uncertainty, possibility, desire, or wish. In addition, it is used in a variety of other circumstances, some of which are described below. Subjunctives are formed in a manner similar to that of the future tense except the suffix گے، گی of the future is dropped.

Plural	Singular
ہم دیکھیں	میں دیکھوں
تم دیکھو	تو دیکھے
آپ دیکھیں	تم دیکھو
یہ، وہ دیکھیں	آپ دیکھیں
	یہ، وہ دیکھے

Unlike other tenses, the subjunctive form of the verb distinguishes number (singular and plural) but not gender. For the negative, the subjunctive uses the particle نہ usually placed before the verb.

شاید وہ کھانا نہ پکا سکیں۔

Perhaps he is not able to cook food.

Common Uses for the Subjunctive

1. Asking Permission (with first person)

میں دیکھوں؟

May [should, shall] I see?

ہم جائیں؟

May [should, shall] we go?

کیا، میں سبزی کاٹوں؟

May [should, shall] I cut the vegetables?

2. *Suggestions/Indirect Commands/Reporting of Commands/Polite Imperative*

آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔

Please come to our house.

آپ کچھ کھانا کھائیں۔

Please eat some food.

بازار چلیں۔

Let's go to the market.

پتاجی سے کہو کہ وہ زیادہ مٹھائی نہ کھائیں۔

Tell father that he should not eat too many sweets.

3. *Desire/Wish*

تم سوا سو برس سلامت رہو۔

May you live for 125 years (A common blessing that the elderly in South Asia give).

خدا آپ کو کامیابی دے!

May God grant you (give you) success!

خوش رہو میری بیٹی!

May you remain happy, my daughter!

4. *With specific adverbs and phrases denoting desirability, contingency, suitability, doubt or possibility:*

شاید - Perhaps

شاید وہ یہاں آئیں۔

Perhaps they may come here.

کاش - *if only/would that...*

کاش ہم رومی شکر کو سن سکیں۔

If only we are able to hear Ravi Shankar.

تاکہ - *so that....*

میں ممبئی جاؤنگا تاکہ میں سلمان خان کو دیکھ سکوں۔

I'll go to Mumbai so that I can see Salman Khan.

(کہ) خدا کرے - *May God will that....*

خدا کرے (کہ) وہ کل یہاں آئیں۔

May God will that he may come here tomorrow.

خدا نہ کرے (کہ) ہماری لڑکی روئے۔

May God not will that our daughter cry.

خدا نہ خواستہ - *God forbid (may God not will that)....*

خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو۔

May God forbid that something happen to you.

مناسب ہے کہ - *it is appropriate that....*

مناسب ہے (کہ) آپ یہاں بیٹھیں۔

It is appropriate that you sit here.

ایسا نہ ہو کہ - *let it not be that....*

دیکھو! ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹا لڑکا گر جائے۔

Look, let it not be that this young boy falls down.

x کو چاہئے کہ - *it is necessary for x to....*

مجھے چاہئے کہ میں آج ہی یہ کتاب پڑھوں۔

It is necessary that I read this book today.

x کا ارادہ ہے کہ - *it is x's intention that....*

میرا ارادہ ہے کہ میں کل تک وہ کتاب پڑھوں۔

It is my intention that I read that book by tomorrow.

ممکن ہے کہ - *it is possible that....*

ممکن ہے کہ ہم ناچیں۔

It is possible that we [may] dance.

میں چاہتا ہوں کہ - *I want that....*

میں چاہتا ہوں کہ بڑا لڑکا ایک عظیم کھلاڑی بنے۔

I want the elder boy to become a great athlete.

14.5 Reading and Translation Drill

۱۔ کیا، میں یہ تصویر دیکھوں؟

ہم یہ قالینیں دیکھیں؟

آپ وہاں دستخط کریں۔

آپ ادھر کام کریں۔

۲۔ اُن کو چاہئے کہ دعوت کی تیاری کریں۔

مجھے چاہئے کہ میں امتحان کے لئے پڑھوں۔

اُس نوکر کو چاہئے کہ گھر صاف کرے۔

سیما سے کہئے کہ کھانا پکائے۔

۳۔ تم ہزاروں برس جیو۔

آپ ہزاروں سال جیئیں۔

وہ سوا سو برس جیے۔

کسان کی بے ہو۔

۴۔ شاید وہ کسان یہاں آئیں۔

کاش وہ کسان حکومت کریں۔

میں اُس گاؤں میں گیا تاکہ اُن کسانوں کو دیکھ سکوں۔

خدا کرے کہ وہ کسان حکومت کریں۔

۵۔ مناسب ہے کہ آپ اُس کھیت کو دیکھیں۔

ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کا کام نہ کرے۔

اُسے چاہیے کہ وہ آپ کی مدد کرے۔

میرا ارادہ ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں۔

۶۔ ممکن ہے کہ آج بارش ہو۔

کاش آج بارش ہو تاکہ جانور پانی پی سکیں۔

مناسب ہے کہ آپ اس غریب آدمی کو کھانا دیں۔

ایسا نہ ہو کہ وہ بیمار مسافر مر جائے۔

۷۔ اس سے کہو کہ وہ یہاں دستخط کرے۔

دھوبی سے کہو کہ وہ کپڑے اچھی طرح دھوئے۔

امریکہ کے صدر سے کہیئے کہ وہ ہمارے گھر تشریف لائیں۔

مجھے السر ہے۔ آپ اپنی بیوی سے کہیں کہ وہ کھانا زیادہ تیز نہ بنائے۔

۸۔ خدا نہ خواستے، (کہ) وہ بیمار ہو جائے۔

خدا کرے کہ آپ کی زندگی کامیاب ہو۔

خدا نہ خواستے، (کہ) ان چھوٹے بچوں کی ماں مر جائے۔

خُدا کرے (کہ) میں جلدی ایک کروڑ پتی بن جاؤں۔

Translate the following into Urdu using subjunctives wherever appropriate:

1. May we see that?
2. Perhaps we may see Michael Jordan. All the famous people have come here.
3. If only we are able to study Urdu in India!
4. I would like to go to India so that I can work in the fields with the farmers.
5. May God will that you can come tomorrow.
6. It is possible that we may meet that famous artist tomorrow.
7. This seat is empty. Please sit here (تشریف رکھنا).
8. Tell our driver that he should not wait for us.
9. The guests are hungry. Shall we eat?
10. It is their intention that from today they will not drink alcohol.
11. If only all the people of this village were millionaires!

14.6 گفتگو (Conversation)

(راج، نرگس، ریشما، رشی اور روی ریل گاڑی میں)

(دلی سے آگرہ جا رہے ہیں)

ریشما: دیدی آج بہت گرمی ہے۔ آگرہ پہنچنے میں اور کتنی دیر لگے گی؟

روی: تم ہر وقت بولتی رہتی ہو۔ نرگس دیدی سو گئی ہیں۔ اُن کو اپنے شور سے مت ستاؤ۔

راج: روی اور ریشما مت لڑو۔ وہ دیکھو کتنے سندر کھیت ہیں اور اُدھر دیکھو، کسان کھیت میں ہل چلا رہے ہیں۔

روی: ہاں، یہ کسان کتنی محنت کرتے ہیں۔ کاش ہم اتنے محنتی بن سکیں۔ راج بھیا، آپ نے کبھی ہل چلایا ہے؟

راج: نہیں۔ مگر میں نے ایک بار ٹریکٹر چلایا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔

روی: میرا ارادہ ہے کہ میں بھی ہندوستان میں ان کھیتوں میں کام کروں۔

ریشما: مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ کیا میں یہ سموسہ کھاؤں۔

روی: تم نے ابھی چار سموسے کھا لیے ہیں۔ پیٹ خراب ہو جائیگا۔ اچھا، کیا تم یہ کامک بنک پڑھ چکیں۔

ریشما: نہیں، میں یہ کامک بنک نہیں پڑھ پائی۔ راج بھیا کیا ہم آگرہ جلدی پہنچ جائیگے؟

راج: ہاں، ہاں، بس تھوڑی دیر میں پہنچ جائیگے۔ وہ دیکھو آگرہ اسٹیشن آگیا۔

(راج، روی، رشی، ریشما اور نرگس تاج محل کے سامنے)

ریشما: یہ کتنی خوبصورت عمارت ہے۔ کیا، یہاں ہندوستان کے راجہ رہتے ہیں؟

نرگس: نہیں ریشما۔ ہندوستان کا کوئی راجہ واجہ نہیں۔ ہندوستان ایک جمہوریت ہے اور

یہاں کے راجہ یہاں کے لوگ ہیں۔

روی: جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟

نرگس: جمہوریت یعنی ڈیموکریسی۔ اگرچہ یہاں پر کوئی زندہ راجہ نہیں رہتا ہے، یہ ایک

مقبرہ ہے۔ یہاں پر مغل بادشاہ شاہ جہاں اور اُن کی بیوی ممتاز محل کی قبریں ہیں۔

راج: نرگس، کیا میں ان لوگوں کو تاج محل کی کہانی سناؤں؟

نرگس: ہاں، ہاں۔ کیوں نہیں؟ ضرور سناؤ۔

راج: اچھا، سنو۔ شاہ جہاں پانچواں مغل بادشاہ تھا۔ وہ اپنی بیوی ممتاز محل سے بہت پیار

کرتا تھا جیسے میں نرگس سے کرتا ہوں۔ ممتاز محل کے مر جانے کے بعد، شاہ جہاں کو

بہت غم ہوا اور اس نے یہ مقبرہ بنوایا۔ یہ مقبرہ سنگ مرمر کا ہے اور دنیا کے عجائب

میں سے ایک ہے۔

روی: عجائب یعنی؟

راج: عجائب یعنی وٹرز۔ تاج محل شاہ جہاں کی محبت کی نشانی ہے۔ اُردو کے ایک

مشہور شاعر شکیل بدایونی* نے کہا ہے:

ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسیں تاج محل

ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے

ریشما: میرے خیال میں یہ تو بہت مہنگی عمارت ہے۔

نرگس: ہاں، ہاں، بہت مہنگی۔ اگرچہ یہ بہت خوبصورت عمارت ہے، مگر میرے خیال میں یہ

صرف امیر لوگوں کی ہی محبت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ کیا، غریب پیار کرنے والے

اپنے محبوبوں کو اتنی مہنگی نشانیاں دے سکتے ہیں؟ شکیل کا شعر اگرچہ اچھا ہے، مگر مجھے

ساجر گدھیانوی* کا یہ شعر زیادہ پسند ہے:

ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسیں تاج محل

ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق

راج: نہیں نرگس۔ اگرچہ ساجر بھی بہت اچھا شاعر تھا، مگر میرے خیال میں شاہ جہاں نے

ہم غریبوں کی محبت کا مذاق نہیں اڑایا۔ دیکھو یہاں پر امیر غریب سب لوگ آتے

ہیں، اور اس خوبصورت مقبرے کے سامنے ہم سب اپنے محبوبوں کی آنکھوں میں دیکھ

کر کہہ سکتے ہیں کہ تاج محل دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت ہے اور تم میری

زندگی کی سب سے خوبصورت چیز ہو۔

روی: او ہوا! آپ لوگ صرف باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے، چاند کی روشنی میں تاج محل

کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ یہ عمارت تو خود ایک خوبصورت شعر ہے۔ کیا، بنگال

کے مشہور شاعر ربندرناتھ ٹیگور* نے نہیں کہا:

تاج محل وقت کے رُخسار پر ایک آنسو ہے!

Notes

شکیل بدایونی : Shakil Badayuni, Urdu poet and lyric composer, died 1970.

ساحر لدھیانوی : Sahir Ludhianawi, Urdu poet and lyric composer, died 1980.

ربندر ناتھ ٹیگور : Rabindranath Tagore, Bengali poet, winner of Nobel Prize for Literature, died 1941.

14.7 Conversation Practice

ان سوالوں کا جواب دیجئے:

- ۱۔ راج، رومی، رشی، ریشما، اور زرگس کہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟
- ۲۔ زرگس ریل میں کیا کر رہی ہے؟
- ۳۔ ان لوگوں کو راستے میں کیا کیا نظر آتا ہے؟
- ۴۔ رومی ہندوستان میں کیا کرنا چاہتا ہے؟
- ۵۔ تاج محل کس نے بنوایا اور تاج محل میں کیا ہے؟
- ۶۔ دُنیا کے کتنے عجائب ہیں؟ کیا آپ کو اُن کے نام معلوم ہیں؟
- ۷۔ ساحر کے خیال میں شاہ جہاں نے غریب لوگوں کی محبت کو کیا کیا؟
- ۸۔ آپ کو شکیل کا شعر زیادہ پسند ہے یا ساحر کا شعر؟ کیوں؟

14.8 Songs

- ۱۔ جب کوئی بات بگڑ جائے
جب کوئی مشکل پڑ جائے
تم دینا ساتھ میرا او ہم نوا
نہ کوئی ہے نہ کوئی تھا زندگی میں تمہارے سوا
تم دینا ساتھ میرا او ہم نوا (۲)
ہو چاندنی جب تک رات

دیتا ہے ہر کوئی ساتھ
تم مگر اندھیروں میں نہ چھوڑنا میرا ہاتھ (۲)
جب کوئی -----

۲۔ دُنیا کی سیر کرلو! (۴) انسان کے دوست بن کر انسان سے پیار کرلو!
دُنیا کی سیر کرلو! (۴) انسان کے دوست بن کر انسان سے پیار کرلو!
اُراؤنڈ دھ ورلڈ ان ایٹ ڈالرز!
لوس انجلس بھڑکیلا جہاں ہولی ووڈ ہے رنگیلا
دیکھو ڈزنی لینڈ میں آکر پریوں کا دلش دھرتی پر
دُنیا کی سیر کرلو! (۴) انسان کے دوست بن کر انسان سے پیار کرلو!
اُراؤنڈ دھ ورلڈ ان ایٹ ڈالرز!
ہم امن چاہنے والے ہم پیار پر مرنے والے
ایک بات کہینگے سب سے:
"نفرت کو مٹا دو جگ سے"
انسان کے ہاتھ کا ٹونا مٹی کو بنایا سونا
یہ واشینگٹن الیلا نیویارک شہر کامیلا

۳۔ کیا خوب لگتی ہو، بڑی سُندر دکھتی ہو!
بھر سے کہو، کہتے رہو، اچھا لگتا ہے۔
جیون کا ہر پنا اب سچا لگتا ہے۔
کیا خوب لگتی ہو، بڑی سُندر دکھتی ہو!
تعریف کرو گے کب تک؟ پولو کب تک؟

میرے سینے میں سانس رہیگی جب تک۔
 کب تک میں رہو گی تیرے من میں، تیرے من میں؟
 سورج ہوگا جب تک نیل گنگن میں۔
 بھر سے کہو، کہتے رہو، اچھا لگتا ہے۔
 جیون کا ہر پنا اب سچا لگتا ہے۔
 کیا خوب لگتی ہو، بڑی سندر دکھتی ہو!
 تم پیار سے پیاری ہو، تم جان ہماری ہو!

Glossary for Songs

بگڑنا = to go wrong, turn bad; to break down	سونا = gold (m)
ہم نوا = fellow-singer (m)	البیلا = elegant, charming, smart; playful
x کے سوا = except for x	میلا = fair, meeting, assembly (m)
ساتھ دینا = to accompany; to support	خوب = beautiful, pretty; splendid
بھڑکیلا = resplendent, glittering; flashy	دکھنا = to appear; to seem; to be seen
رنگیلا = bright; showy; colorful; merry	سچا = true
دھرتی = the earth; earth, ground, soil (f)	تعریف کرنا = to praise
امن = peace, security, safety (m)	سینہ = chest, bosom, breast (m)
نفرت = hatred (f)	من = heart; soul; mind (m)
مٹانا = to efface, obliterate, abolish	سورج = sun (m)
جگ = world, universe, earth (m)	نیل = blue
ٹونا = magic, spell; enchantment (m)	گنگن = sky; heavens (m)
مٹی = earth, soil, dust; dirt, filth (f)	پیاری = precious; dear; beloved

14.9 Vocabulary

agricultural field (m)	کھیت
appropriate	مناسب
to break (transitive)	توڑنا
to break (intransitive)	ٹوٹنا
cheeks/countenance (m)	رُخسار
darkness (m)	اندھیرا
democracy (f)	جمہوریت
emperor (m)	شہنشاہ
empty	خالی
to fall down	گرنا
farmer/peasant (m)	کسان
fat	موٹا
to finish	ختم کرنا
to fly; to cause to fly;	اُڑانا
to tease, to make fun of x	x کا مذاق اُڑانا
God willing (may God will that)	خُدا کرے (کہ)، انشاء اللہ
God forbid (may God not will that)	خُدا نہ کرے (کہ)،
great	خُدا نہ خواستہ عظیم
hard work (f)	محنت
hard working	مختی

to work hard	مُحنت کرنا
henna (f)	ہنہ، مہندی
to hit	مارنا
if only	کاش
living	زنده
lover	مُحِبُّوب (m) / مُحِبُّوبہ (f)
marble (m)	سنگِ مرمر
once	ایک بار
perhaps	شاید
plow (m)	ہل
possible	مُمکِن
to remember	یاد آنا
for x to remember	x کو یاد آنا
signature (m)	دستخط
so that	تاکہ
sorrowful	غمناک
success (f)	کامیابی
successful	کامیاب
to tease, to annoy, to torment	ستانا
to think	سوچنا
to throw	پھینکنا
time (period of); period (m)	دوران

during this time/period	اس دوران میں
toy (m)	کھلونا
traveller (m/f)	مسافر
wall (f)	دیوار
wedding (f)	شادی
whole, entire; all; the whole	سارا
wonder (m)	عجوبہ
wonders (pl)	عجائب
museum	عجائب گھر
would that /if only	کاش
wound; injury (f)	چوٹ

Chapter 15

15.1 Condition-Result Clauses with اگر and تو

Clauses stipulating a condition are usually marked with اگر "if" and frequently precede a "result" clause that begins with تو. Example:

'result' clause	'condition' clause
تو میں آپ کے لئے کپڑا لاؤں گا۔	اگر میں لاہور جاؤں گا

If I (will) go to Lahore, I will bring cloth for you.

Although the word اگر at the beginning of the "condition" clause may be dropped at times, the تو that marks the "result" clause is obligatory. Various verb tenses (present, future, past, or subjunctive) can occur in either "condition" or "result" clauses depending on the degree of certainty implied. The use of the subjunctive (as opposed to indicative tenses) indicates a greater degree of uncertainty or likelihood of fulfillment of a particular action. The examples below illustrate the usage of verb forms (subjunctive and indicative) in various sentences to convey degrees of certainty/uncertainty:

1. Purely hypothetical (use of subjunctive in both "condition" and "result" clauses, indicates high degree of uncertainty concerning both the condition and its fulfillment)

اگر میں ہندوستان جاؤں تو تاج محل دیکھوں۔

If I should go to India, then I may see the Taj Mahal.

2. More certainty than # 1 above ("condition" uncertain; "result" certain)

اگر میں ہندوستان جاؤں تو تاج محل دیکھوں گا۔

If I should go to India, then I will see the Taj Mahal.

3. More certainty than #2 above (fulfillment of "condition" more likely or certain, "result" certain)

اگر میں ہندوستان جاؤنگا تو تاج محل دیکھوںگا۔

If I go to India, then I will see the Taj Mahal.

اگر آپ ہندوستان جارہے ہیں تو تاج محل ضرور دیکھیں۔

If you are going to India, do see the Taj Mahal (for sure).

At times, the "condition" clause may contain the simple past participle of a verb. In this context, the past participle often functions as a future conditional, indicating a condition that may be fulfilled in the future. Note: the past participle is not used in the "result" clause:

اگر میں ہندوستان گیا تو تاج محل دیکھوںگا۔

If I (ever) go to India (in the future) then I will see the Taj Mahal.

Improbable or contrary-to-fact conditions (*irrealis*) are expressed by using the present participle of the verb in both "condition" and "result" clauses:

اگر ہم ہندوستان جاتے تو تاج محل دیکھتے۔

Had we gone to India, we would have seen the Taj Mahal.

If the speaker wants to indicate a definite past time for conditions that are impossible to fulfill, then the past participle of a verb followed by the present participle of ہونا may also be used in both the "condition" and "result" clauses:

اگر میں ہندوستان گیا ہوتا تو تاج محل دیکھا ہوتا۔

Had I gone to India, I would have seen the Taj Mahal.

اگر ہم ایک دوسرے سے پچھلے سال ملے ہوتے تو شادی کئے ہوتے۔

Had we met each other last year, we would have gotten married.

اگر ہم آپس میں بات کئے ہوتے تو دوست بنے ہوتے۔

If we had talked among ourselves, we would have become friends.

*Note on usage: آپس میں used to describe action involving two persons; ایک دوسرا used to describe reciprocal action among more than two persons

15.1 Reading and Translation Drill

- ۱۔ اگر میں ڈاکٹر بنوں تو دنیا کی خدمت کر سکوں۔
اگر آپ امریکہ کے صدر بنیں تو دنیا میں امن پھیلا سکیں۔
اگر وہ کسان بنے تو ہر روز ہل چلا سکے۔
اگر تو پھل والا بنے تو ہر وقت میٹھے میٹھے پھل کھا سکے۔
- ۲۔ وہ گھر آئیں تو سامان لائیں۔
تم اسکول جاؤ تو پڑھ سکو۔
تو لندن جائے گی تو بکینگہم پولیس دیکھے گی۔
ہم لوگ محنت کریں گے تو امتحان میں کامیاب ہونگے۔
- ۳۔ اگر ہم اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو ڈاکٹر بن جائیں گے۔
اگر آپ نے یہ دوائی کھائی تو بخار کم ہو جائیگا۔
اگر وہ یہ کتاب پڑھے تو اس کو سب چیزیں معلوم ہو جائیں۔
اگر آپ اس پھل والے کے پاس جائیں تو میرے لئے آم ضرور لائیے۔
- ۴۔ اگر آج برف نہ پڑتی تو ہم باہر کھیلتے۔
اگر اتنی دھوپ نہ پڑتی تو ہم دریا میں تیر سکتے۔
اگر اتنا پانی نہ پڑتا تو کپڑے سوکھ جاتے۔
اگر سردی نہ ہوتی تو بچے باہر بھاگتے۔

- ۵۔ اگر تم ہارورڈ میں پڑھے ہوتے تو کیا تم امریکہ کے صدر بنے ہوتے؟
 اگر اُس نے اِس فلم میں کام کیا ہوتا تو اُس کو بھی آسکر ملا ہوتا۔
 اگر ہمیری کسنجر امریکہ میں پیدا ہوا ہوتا تو وہ اُس ملک کا صدر بنا ہوتا۔
 اگر میں نے بچپن میں دودھ پیا ہوتا تو زیادہ صحت مند ہوئی ہوتی۔
- ۶۔ کیا وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے؟
 ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔
 ہم دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے پیار کریں۔
 آپ کے بیٹے کو چاہیے کہ وہ گھر کا سارا کام کرے۔
 ہم نے یہ فیصلہ آپس میں کر لیا۔
- ۷۔ اُن لوگوں کو چاہیے کہ یہ فیصلہ آپس میں کریں۔
 اُس کلاس کی لڑکیوں نے آپس میں بات کرنی شروع کی۔
 آپ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟

Translate the following sentences into Urdu:

1. If I should go to that store, then I would buy the red carpet.
2. If I go to Washington, then I will see the White House.
3. If all of you come to my house, please bring food with you.
4. Had you played with the boy, he would have liked you.
5. If you play with that boy, he will like you very much.
6. If you had been born in America, you would have become the president of this country.
7. If she would have spoken Urdu well, she would have been the prime minister of Pakistan.
8. If you read Ghalib, he will teach you many things.

9. If you say so, I will cook the food.
10. Had you been able to write Hindi, you could have taught this class.

15.2 Expressing Presumptions and Suppositions with the Verb ہونا

Through the future form of the verb ہونا a speaker can also express presumptions and suppositions. For example, the sentence:

وہ عورتیں کام پر ہوں گی۔

Those women will be at work. (future)

can also mean:

Those women must be at work. (supposition)

Similarly, the sentence:

وہاں بہت شور ہو گا۔

There will be a lot of noise there. (future)

can also mean:

There must be a lot of noise there. (supposition)

Note the use of the English "must" in the above sentences indicates probability or likelihood rather than a sense of obligation or duty.

Presumptive and suppositional forms of various tenses can be formed by replacing the ہوں/ہیں auxiliaries with the appropriate future form of ہونا. Examples:

Present continuous tense: وہ لڑکے پڑھ رہے ہیں۔ Those boys are studying.

suppositional form: وہ لڑکے پڑھ رہے ہوں گے۔ Those boys must be studying.

Present tense: وہ اس لڑکے سے بات کرتے ہیں۔ They talk to this boy.

suppositional form: وہ اس لڑکے سے بات کرتے ہوں گے۔ They must talk to this boy.

Present perfect tense: Raj has gone to work. راج کام پر گیا ہے۔

suppositional form: Raj must have gone to work. راج کام پر گیا ہوگا۔

The following table provides a review of the future tense forms of ہونا:

<u>Feminine</u>	<u>Masculine</u>	<u>Pronoun</u>
ہوگی (ہوؤنگی)	ہونگا (ہوؤنگا)	میں
ہوگی	ہوگا	تو
ہوگی	ہوگے	تم
ہوگی	ہوگا	وہ / یہ
ہوگی	ہونگے	ہم
ہوگی	ہوگے	تم
ہوگی	ہونگے	آپ
ہوگی	ہونگے	وہ / یہ

15.2 Reading and Translation Drill

- ۱۔ وہ خوبصورت لڑکیاں ضرور کشمیر سے ہونگی۔
اُن کا سارا خاندان ایران سے ہوگا۔
یہ لوگ کہاں سے ہونگے؟
نیلوفر اسلام آباد سے ہوگی۔
- ۲۔ جاپانی لوگ چاول کھاتے ہونگے۔
انگریز آلو کھاتے ہونگے۔
آپ کی چھوٹی لڑکی ہر روز دودھ پیتی ہوگی۔
اُس کا دوست لال لال سیب کھاتا ہوگا۔
- ۳۔ کل وہاں برف پڑی ہوگی۔

آج کل ہندوستان میں بہت گرمی ہوگی۔
 اس زمانے میں آسٹریلیا میں سردی ہوگی۔
 میرے خیال میں وہاں موسم اچھا ہوگا۔
 اُن لڑکیوں نے اُس کتاب کو پڑھا ہوگا۔
 اُس نے اخبار پڑھا ہوگا۔

۴۔ کیا اُن شاعر صاحب نے یہ ساری غزلیں لکھی ہونگی؟
 اس خوبصورت غزل کو کس نے لکھا ہوگا؟
 ۵۔ وہ ہم کو بھول گئے ہونگے۔

میری سہیلی مجھے بھول گئی ہوگی۔
 امریکہ جا کر وہ اپنے دوستوں کو بھول گیا ہوگا۔
 گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد آپ ساری اُردو بھول گئے ہونگے۔

15.2 Substitution Drill

Change the verb forms in the following sentences so that they agree with the substituted subject or object.

۱۔ حسین نے (کھانا) کھا (لیا ہوگا)۔

fruits

sweets

mango

yogurt

۲۔ (رام اور شیاہ) گھر پر (ہونگے)۔

Akbar's sister

Anita's brother

Radha's girlfriends

my cat

۳۔ (زرگس کی والدہ) شادی کی تیاری (کر رہی ہوگی)۔

Raj's father

our family

your mother-in-law

their servants

۴۔ (وہ لڑکے) کھیلنے کے لئے (باہر گئے ہو گئے)۔

that handsome boy

those famous filmstars

our youngest daughter

his eldest son

15.3 Expressing Compulsion with the Verb پڑتا

The infinitive of a verb employed in conjunction with پڑتا is used to indicate actions that the subject is forced, compelled, or cannot help but perform. The subject is marked by کو. This construction is similar to the infinitive + ہے construction introduced in 9.5. There is, however, an important difference in the nuance of the two constructions. The former construction (infinitive + پڑتا) is used for compulsion that is external to the subject while the latter (infinitive + ہے) implies compulsion that stems from the subject, for example, from duty and obligation. Compare the following examples:

حسین کو اسلام آباد جانا پڑتا ہے۔

Hussein has to go to Islamabad. (forced by external circumstances)

حسین کو اسلام آباد جانا ہے۔

Hussein must go to Islamabad. (from a sense of duty, obligation)

For transitive verbs, the infinitive may or may not agree with object(s) in number and gender, but forms of پڑنا must retain agreement with object(s). Examples:

مُفلسی کی وجہ سے اُن کو اپنا گھر بیچنا پڑا۔

Due to poverty, they had to sell their house,

کل شفیق کو کپڑے دھونے پڑینگے۔

Tomorrow Shafique will have to wash the clothes.

For intransitive verbs and transitive verbs with no object, both the infinitive and form of پڑنا will be masculine singular. Examples:

مجھے گھر واپس جانا پڑا۔

I had to return home.

آپ کو دینا پڑیگا۔

You will have to give.

(no object mentioned; infinitive and پڑنا in masculine singular form).

15.3 Reading and Translation Drill

۱۔ ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں کو کسانوں کی مدد کرنی پڑی۔

اس بڑی چوٹ کی وجہ سے امیت کو ہسپتال جانا پڑا۔

اگر راج نرگس سے پیار کرتا ہے تو اُس کو بھی ایک تاج محل بنوانا پڑیگا۔

ہر روز اسکول کے بعد مجھے اپنے بھائی کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔

۲۔ کل رات کو کھانا خراب ہو گیا۔ اس لئے ہمیں سارا کھانا پھینکنا پڑا۔

اگر آپ شادی کریں گے تو ایک ہزار لوگوں کو دعوت دینی پڑیگی۔

انہیں جمعرات سے ورزش شروع کرنی پڑیگی۔

طالب علموں کو امتحان کی تیاری تو کرنی پڑتی ہے۔

۳۔ ہندوستان اور پاکستان میں مفلسی پھیل رہی ہے اور اس کے بارے میں ہمیں کچھ کرنا پڑیگا۔

پرسوں سے اُس کی طبیعت خراب ہے۔ اس لئے کل اُس کو پیشاب، پاخانے اور خون کا مُعائنہ کرانا پڑا۔

امریکہ میں سب کو گھر میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہاں نوکر کہاں؟!

مفلسی کی وجہ سے قالین والے کو اپنی دوکان بیچنی پڑی۔

۴۔ وقت کم ہے۔ اس لئے نرگس اور راج کو شادی کی تیاری جلدی سے کرنی پڑیگی۔

زندگی میں کامیاب ہونے کے لئے سب کو محنت سے کام کرنا پڑتا ہے۔

اگلے منگل کو مجرم کو اپنے وکیل کے ساتھ عدالت میں آنا ہی پڑیگا۔

اگرچہ ریشمہ کو تاریخی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں، اُس کو لاہور کی سب تاریخی جگہیں دیکھنی پڑیں گی۔

۵۔ زیادہ بارش کی وجہ سے یہ راستہ بند ہے۔ سب گاڑیوں کو دوسرا راستہ استعمال کرنا پڑیگا۔

پتاجی کے دل کی بیماری کی وجہ سے می ڈارلنگ کو کھانا پکانے میں بہت کم نمک استعمال کرنا پڑتا ہے۔

اُس بیماری کے علاج کے لئے مریض کو مہنگی دوائی استعمال کرنی پڑی۔

اس ہوٹل میں آپ ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتے۔ آپ کو چھری کانٹے کا استعمال کرنا پڑیگا۔

Translate into Urdu:

1. Raj had to invite Sunil to the wedding.
2. Mummy Darling will have to spend a lot of money in making the arrangements for Raj

and Nargis' wedding.

3. My car is bad. You will have to use my father-in-law's car to take the child to the hospital.
4. Ravi has to consider this decision thoughtfully.
5. He had to give her this expensive present in return for her kindness.
6. Indian brides must wear red saris at weddings, not white ones.
7. The rich must end poverty in the world.
8. They were so helpless that for four months they had to eat only potatoes.
9. Due to her helplessness, the poor girl had to agree to marry him.
10. We will have to turn on (چلاتا) the fan immediately! It is too hot in this room!

15.4 Passives

Passives in Urdu are formed by adding the inflected form of the verb چانا to the past participle of a verb. The following examples illustrate the difference between active and passive sentences:

Active sentence:

میں کیلا کھاتا ہوں۔

I eat a banana.

Passive sentence:

کیلا کھایا جاتا ہے۔

A banana is eaten.

In the active sentence the subject (میں) is asserted and the verb agrees with it. In contrast, in the passive sentence, the subject is not mentioned and passive verb (past participle of the verb کھانا + the inflected form of چانا in the present tense) agree in number and gender with what was the

object of the active sentence -- "banana" (کیلا). Thus, the grammatical object of an active sentence becomes in fact the subject in a passive sentence. The two sets of examples below illustrate that the passive may be created in a variety of tenses by inflecting the verb جانا appropriately. Study them carefully, noting the agreement of the inflected forms of جانا in various tenses with the subject of the passive sentence.

وہ چیز دیکھی گئی۔	That thing was seen.
وہ چیزیں دیکھی گئیں۔	Those things were seen.
وہ چیز دیکھی جا رہی ہے۔	That thing is being seen.
وہ چیز دیکھی جائیگی۔	That thing will be seen.
وہ چیزیں دیکھی جاسکتی ہیں۔	Those things can be seen.
وہ چیزیں دیکھی جاتی تھیں۔	Those things used to be seen.
کیلا کھایا گیا۔	The banana was eaten.
کیلے کھائے گئے۔	The bananas were eaten.
کیلا کھایا جا رہا ہے۔	The banana is being eaten.
کیلا کھایا جائیگا۔	The banana will be eaten.
کیلا کھایا جاسکتا ہے۔	The banana can be eaten.
کیلے کھائے جاتے تھے	The bananas used to be eaten.

When passives are used in an impersonal sense, the verb is put in the third person masculine singular form and no explicit subject is mentioned. Examples:

لکھا گیا ہے۔

It has been written.

کہا جاتا ہے۔

It is said.

Re-inserting the original subject of the active sentence into a passive sentence:

If the original subject of the active sentence is to be re-introduced into the passive sentence, it is marked by the postposition سے. Reinserting the original subject into a passive sentence occurs mostly in negative sentences, hence the construction is called the passive of incapacity.

Examples:

مجھ سے کیلا کھایا نہیں جاتا۔

I cannot eat the banana.

(literally, the banana cannot be eaten by me.)

مریض سے دوائی پی نہیں گئی۔

The patient could not drink the medicine.

(literally, the medicine could not be drunk by the patient.)

The passive of incapacity differs from the سکتا construction in the negative in that it implies that the subject could not perform the action for physical reasons.

15.4 Reading and Translation Drill

۱۔ کل رمضان کی عید دھوم دھام سے منائی گئی۔ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا تیوہار ہے۔
پرسوں دیوالی منائی گئی۔ یہ تیوہار ہر سال سارے ہندوستان میں دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔

دسمبر میں کرسمس کا تیوہار دھوم دھام سے منایا گیا۔
۱۹۴۷ء میں ہندوستان اور پاکستان کی آزادی منائی گئی۔

۲۔ اس عمارت پر بہت کام کیا جا رہا ہے۔

کیا اس مسجد پر کام کیا گیا تھا؟

نہیں۔ اُس مسجد پر اِس سال کام کیا جائیگا۔

کیا، کل سارے ہندوستان میں چاند دیکھا گیا؟

۳۔ روٹی پکائی گئی۔

ساڑی دھوئی گئی۔

آپ کی زندگی کے بارے میں ایک کتاب لکھی جاسکتی ہے۔

خط لکھا جائیگا۔

۴۔ اُس خوبصورت لڑکی کی تعریف کی گئی۔

دیکھو! ہمارے دوست کی تعریف کی جا رہی ہے۔

مجھے افسوس ہے مگر وہ بڑا والا مکان خرید لیا گیا ہے۔

اُن غریب بچوں کو عید کے لئے بہت تحفے دیئے گئے۔

۵۔ کچھ بھی کام کئے بغیر دن گزارا گیا۔

جو زندگی خدا کی یاد میں گزاری جاتی ہے وہی بہترین ہوتی ہے۔

یہاں تو بچکے کے بغیر رات نہیں گزاری جاسکتی۔

بچکے اور ایرکنڈیشن کے بغیر ہندوستان میں گرمیاں کیسے گزاری جاسکتی ہیں؟

۶۔ ہوٹل کے کھانے پر کتنا پیسہ خرچ کیا گیا؟

اِس خوبصورت قمیض پر آپ نے کتنے ڈالر خرچ کئے؟

شادیوں پر اتنا زیادہ پیسہ خرچ نہیں کیا جانا چاہیئے۔

پاکستان اور بھارت میں شادی پر بہت پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔

۷۔ مجھ سے غریبوں کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔

لیلا* سے قیس کی پریشانی نہیں دیکھی گئی۔

مجھے معلوم تھا کہ اُن بیوقوف لڑکوں سے غالب کی شاعری نہیں پڑھی جائیگی۔

آشا سے اپنی بہن لتا کا گیت نہیں گایا گیا۔

* لیلی = pronounced as "Lailaa"; the last letter is called "alif maqsura."

Translate the following sentences into Urdu:

1. All the food was eaten at last night's party.
2. The wedding will be celebrated with pomp and gusto at our house tomorrow.
3. Was my favorite song sung?
4. The house can be built in three months.
5. The Taj Mahal was built in Shah Jahan's time.
6. The bride and the groom are being praised.
7. The poor farmers will be helped.
8. This Urdu book will be read at all universities in America.
9. Have the preparations been made?
10. Many beautiful flowers are being bought for Raj and Nargis' wedding.

15.5 Passive Intransitive Verbs

In addition to the passive construction introduced above, Urdu has several intransitive verbs that are often, if not always, translated into English by using the passive. In many cases, the stems of these so-called passive intransitive verbs also have transitive counterparts. While the focus in the intransitive form is on the action itself or the result of the action, the emphasis in the transitive form is on the doer of the action. Examples:

Transitive form:	کھولنا	to open
Intransitive form:	کھلنا	to be opened
Transitive form:	ٹوڑنا	to break
Intransitive form:	ٹوٹنا	to be broken

Note the "passive" character of the English translations of the intransitive verbs in the examples below:

Transitive verb:

میں نے کھڑکی کھولی۔

I opened the window.

Intransitive verb:

کھڑکی کھلی۔

The window opened.

Transitive verb:

حسین نے میرا گلاس توڑا۔

Hussein broke my glass.

Intransitive verb:

میرا گلاس ٹوٹ گیا۔

My glass broke.

Complex verbs when formed with the verb ہونا may also have a passive intransitive nuance to them in contrast to those formed with کرنا which are transitive in nature. Study the pair of complex verbs listed below:

to begin, to get started	شروع ہونا	to begin	شروع کرنا
to be finished	ختم ہونا	to finish	ختم کرنا
to be prepared; to get ready	تیار ہونا	to prepare	تیار کرنا

to be born	پیدا ہونا	to produce, reproduce	پیدا کرنا
for X to be at fault	X سے غلطی ہونا	to make a mistake	غلطی کرنا

Examples:

میں یہ کام شروع کرتا ہوں۔

I begin this work (job).

یہ کام شروع ہوتا ہے۔

This work begins/gets started.

کیا آپ کھانا تیار کر رہے ہیں؟

Are you preparing food?

جی ہاں۔ کھانا تیار ہو رہا ہے۔

Yes, food is being prepared.

علی نے غلطی کی۔

Ali made a mistake.

علی سے غلطی ہوئی۔

Ali was at fault (literally, "a mistake was made by Ali").

Note: The last example, using the intransitive construction, implies that the agency for the action was somewhat beyond the subject's control.

15.5 Reading and Translation Drill

- ۱۔ وہ لڑکی کام شروع کر رہی ہے۔
اُس لڑکی کا کام کب شروع ہوا؟
مائیکل جیکسن نے گانا شروع کرنے کے بعد ناچ شروع کیا۔
آپ وقت پر آئیے ورنہ قلم شروع ہو جائیگی۔

- ۲۔ آپ کا کام شام کو کب ختم ہوتا ہے؟
 کیا، آپ نے اپنا کام ختم کر دیا؟
 گھر میں کھانا ختم ہو گیا۔
 میں پڑھائی ختم کرنے کے بعد شادی کرونگا۔
- ۳۔ معاف کیجئے۔ مجھ سے غلطی ہوئی۔
 تم نے بہت غلطیاں کیں۔
 وہ کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی۔
 میں نے کونسی غلطی کی جس کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہیں؟
- ۴۔ آپ صبح کتنے بجے تیار ہونگے؟
 کیا، رادھا نے اپنے بچوں کو تیار کیا؟
 ہم سب راج اور نرگس کی شادی میں جانے کے لئے تیار ہو رہے ہیں۔
 سب چیزوں کو تیار کر کے میں وہاں گیا۔
- ۵۔ گاندھی جی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔
 گندگی جراثیم کو پیدا کرتی ہے۔
 اگر میں امریکہ میں پیدا ہوئی ہوتی تو کیا کیا نہیں کر سکتی تھی!
 آپ کونسے سال میں پیدا ہوئے؟
- ۶۔ یہ کھلونا ٹوٹا ہوا ہے۔
 اُس لڑکے کو مت ستاؤ اُس کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔
 اِس سچکھے کو میں نے نہیں توڑا۔ یہ پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا۔
 کیا آپ سنیل اور رادھا کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکیں گے؟
- ۷۔ تاج محل سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے۔
 یہ دیواریں پتھر کی بنی ہوئی ہیں۔

کیا آپ کا دل بھی متھر کا بنا ہوا ہے؟
وہ جوتے کہاں کے بنے ہوئے ہیں؟

Translate into Urdu:

1. A temple is being built at that place.
2. The wall of the old house broke. Who broke it? I don't know.
3. Hundreds of thousands of germs are being produced every day in this filth.
4. A lot of money was spent on building this road.
5. Finish him off immediately!

15.6 تا as a Rhetorical Particle

تا as a rhetorical particle has two main uses in Urdu:

1. It can be a tag at the end of a statement seeking affirmation of a fact:

تم مجھ سے پیار کرتے ہو نا؟

You love me, don't you?

2. It can be a tag at the end of a request to make it more insistent:

میری تصویر دیوار پر لگا دیجئے نا؟

Won't you please hang my picture on the wall?

15.6 Reading and Translation Drill

۱۔ آپ کو اس بات کا پتا ہے نا؟
آپ میرے لئے پھول لائینگے نا؟
یہ گانا گا دو نا!
وہ تو بہت خطرناک جانور ہے نا؟
تم بھی میرے لئے تاج محل بناؤ نا!

۲۔ کہو نا: پیار ہے! تم کو مجھ سے پیار ہے؟
 برکلی ٹیکساس سے زیادہ خوبصورت ہے نا؟
 نرگس اور راج کی شادی دھوم دھام سے منائی گئی نا؟
 دیکھو جان! میں گھر دس بجے کے بعد آؤنگا۔ تم کھانا کھا لو نا!
 آپ بالکل فکر مت کیجئے! ہم ہیں نا؟

15.7 گفتگو (Conversation)

نرگس: راج! کیا سوچ رہے ہو؟
 راج: کچھ نہیں۔
 نرگس: بولو نا! کیا بات ہے؟ تم صبح سے بہت خاموش ہو۔
 راج: ہاں۔ کچھ بات ہی ایسی ہے۔
 نرگس: کیا بات ہے؟ ہم کو ایک دوسرے سے صاف صاف بات کرنی چاہیئے۔
 راج: اگر میں تم سے کچھ کہوں تو ناراض تو نہیں ہوگی؟
 نرگس: نہیں۔ ناراض کیوں ہوگی؟
 راج: دیکھو نرگس۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تم میری زندگی ہو۔ میں تمہارے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔
 نرگس: او راج۔ اور تعریف کرو نا میری!
 راج: جو بھی ہو تم خدا کی قسم لا جواب ہو! میں۔۔۔ میں تمہارا جیون ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ زندگی کا ہر پل گزارنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری زلفوں کے سائے میں سونا چاہتا ہوں۔ تمہاری بانہوں میں جاگنا چاہتا ہوں۔
 نرگس: اب۔۔۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں۔۔۔ مجھے معلوم نہیں۔۔۔ اگر مٹی ویڈی ہاں کہہ دیں تو۔۔۔ تو میں۔۔۔ میں تمہاری ہو جاؤنگی۔

راج: سچ! تم۔۔ تم مجھ سے شادی کرو گی؟

زرگس: ہاں۔ میں تم سے شادی کرونگی۔ میرا دل تو تمہارے پاس ہی ہے۔ اب میری جان بھی تمہاری ہو جائیگی۔

راج: میں تو بن گیا ہوں
تو میں بن گئی ہے
میں تن بن گیا ہوں
تو جان بن گئی ہے
اب تو اور میں دو نہیں ایک ہیں۔۔ ایک!

زرگس: اس دُنیا میں ایک چاند ہے، ایک سورج ہے، اور ایک میری زرگس!
مگر تو میرا چاند ہے
میں تیری چاندنی
تو میرا راگ ہے
میں تیری راگنی۔

راج: اور یہ تاج محل۔۔۔ ہمارے پیار کا گواہ۔ وہ دیکھو شاہ جہاں اور ممتاز محل ہم کو
مبارک باد دے رہے ہیں۔

زرگس: اور یہ تارے کتنے خوش ہو رہے ہیں۔

راج: یہ چاند اپنی چاندنی کا تحفہ دے رہا ہے۔
(تھوڑی دیر بعد زرگس اپنی ممتی سے ٹیلیفون پر بات کر رہی ہے)

زرگس: ہیلو ممتی۔ آداب۔ آپ کیسی ہیں؟

ممتی: زرگس! میں نے تم کو آج ہی خواب میں دیکھا!

زرگس: اچھا!

ممتی: ہاں۔ میں نے دیکھا کہ تم بہت خوش ہو اور ہمارے گھر میں خوشیاں منائی جا

رہی ہیں۔

نرگس: سچ ممتی! اچھا سُنیے۔۔۔ راج۔۔

ممتی: کیا ہوا راج کو؟ خدا نہ کرے کہ وہ بیمار ہو!

نرگس: نہیں نہیں۔ وہ ٹھیک ہے۔۔۔ وہ آپ سے۔۔۔ وہ شادی کرنا چاہتا ہے!

ممتی: کیا! وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے! کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟!

نرگس: اوہو ممتی! آپ سے نہیں مجھ سے!

ممتی: سچ۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ کیا تم راضی ہو؟

نرگس: کیا آپ کو راج پسند ہے؟

ممتی: ہاں ہاں۔ اور تمہارے ڈیڈی کو بھی راج بہت پسند ہے۔ وہ ہر وقت راج کی

تعریفیں کرتے ہیں۔ انہوں نے راج کو تصویروں میں دیکھا ہے۔ راج تم کو

بہت خوش رکھیگا بیٹی۔

نرگس: او ممتی آج میں کتنی خوش ہوں!

ممتی: ہم کو اب شادی کی تیاریاں شروع کرنی پڑیں گی۔ دیکھو میرے خیال میں دسمبر

کا مہینہ شادی کے لئے زیادہ مناسب ہوگا۔ اُس زمانے میں ہمارے سب رشتہ

داروں کو چھٹیاں ہوتی ہیں۔ مجھے بہت انتظام کرنا پڑیگا۔ اچھا دیکھو دوسری

لائین پر فون ہے۔ ایک منٹ ٹھہرو۔۔۔۔۔ ہلو! ہلو! کون؟

راج کی ماں: میں راجکماری ہوں۔۔۔ راج کی ماں۔

نرگس کی ماں: کیسی ہو راجکماری؟

راجکماری: میں تو بس ٹھیک ہوں۔ میں تم سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔

نرگس کی ماں: ہاں۔ ہاں۔ کہو۔ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتی ہوں؟

راجکماری: میں نرگس کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں۔ اُس کے بدلے تم راج کو لے لو۔

نرگس کی ماں: او راجکماری۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ ہم اس شادی کو دھوم دھام سے

منائینگے نا؟ اچھا دسمبر کا مہینہ کیسا رہیگا؟

راجکمار: یہ تو میں بھی سوچ رہی تھی۔ اُس زمانے میں موسم بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔

میری نرگس کتنی حسین دُلبین بنے گی۔ وہ تو ایک چاند کا ٹکڑا ہے۔

نرگس کی ماں: ہاں اور راج بھی بہت خوبصورت دولہا بنے گا۔ لاکھوں میں ایک ہے تمہارا بیٹا۔

راجکمار: اب میرا نہیں ہے۔ تمہارا ہے۔ تمہارا۔

نرگس کی ماں: اچھا سنو! نرگس دوسری لائین پر ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بات کر

رہے تھے اور تمہارا فون بیچ میں آ گیا۔ میں تھوڑی دیر بعد خود تم کو فون کرتی

ہوں اور پھر ہم ایک دوسرے سے زیادہ تفصیل میں بات کر سکتے ہیں۔

راجکمار: ہاں۔ ہاں ضرور۔ اور تم نرگس کے ڈیڈی سے بھی کہہ دینا کہ ہم اور ہمارے

گھر والے اس رشتے سے بہت خوش ہیں۔

نرگس کی ماں: اچھا۔ خدا حافظ۔۔۔ ہلو بیٹی نرگس؟

نرگس: جی ممتی!

نرگس کی ماں: تمہاری ساس تھیں دوسری لائین پر!

نرگس: اومتی! اچھا راج میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں اُس کو خوش خبری دے

دوگی۔ آپ ڈیڈی سے کہہ دیں گی؟

ممتی: ہاں ہاں۔ جب وہ گھر آئینگے تو میں بتا دوں گی۔ وہ تو بہت ہی خوش ہوں گے۔

راج ہزاروں میں، نہیں، نہیں، کروڑوں میں ایک ہے۔

نرگس: ممتی آئی لو یو!

ممتی: بیٹی اردو میں بات کرو! اچھا خدا حافظ۔

(نرگس اور راج)

نرگس: ہلو راج۔

راج: تو کیا کہا ساس جی نے؟

نرگس: انہوں نے کہا کہ مجھ کو تم سے زیادہ اچھے لڑکے سے شادی کرنی چاہیے۔
 راج: کیا؟ نہیں نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں مر جاؤں گا!
 نرگس: راج، مریں تمہارے دشمن۔ ایسی بات بھی مت کرو۔ میں تو مذاق کر رہی تھی۔
 ممتی نے ہاں کہہ دی ہے۔
 راج: سچ۔ یہ میری زندگی کا خوبصورت ترین دن ہے۔
 نرگس: ہاں۔ راج آج میں بھی بہت خوش ہوں مگر میری زندگی کے تو سب سے اچھے
 دن اُردو کی کلاس میں گزرے! اُس کلاس کی تو بات ہی کچھ اور تھی!

15.8 Conversation Practice

(Sulochna and Shama are Nargis' friends who live in London)

- Shama: Oh Sulochna, did you hear that Nargis is getting married?
- Sulochna: Yes, Sunil told me. Poor guy, he had tears in his eyes when he asked me, "Sister Sulochna how will I spend my life without Nargis?!". I was unable to bear his distress. (مجھ سے اُس کی پریشانی نہیں دیکھی گئی!) I started to cry!! I think Nargis' heart is made out of stone!
- Shama: Her foolish heart! A book can be written about Raj, Nargis, and Sunil. Sunil ought to stop crying. He must start studying. He is no longer 16 years old. He is now 20. Do you know what preparations are being made for Nargis' wedding?
- Sulochna: A lot of money is being spent on this wedding. I have heard that work is being done on Nargis' house. Expensive clothes are being bought. Nargis' mother told me to buy some clothes for her if I go to Lahore. Lahore has beautiful clothes for brides. So when I go to Lahore next month I will bring clothes for Nargis.
- Shama: You will bring clothes from Lahore? I think Karachi has better and cheaper

clothes. These days, Karachi's weather must also be very good. If you go to Karachi, you must go to Rambo market. You will be able to buy some good but cheap clothes there. I think Nargis will look so beautiful in a red sari.

Sulochna: It's good that we are talking to each other about this. But I don't like Karachi very much. When I went to Karachi two years ago, I saw a dead man on the road! As soon as I saw him, I started crying. I told my mother that I will never go back to that city.

Shama: Sulochna darling, don't live in the past (departed time). Don't think of dead men! I have seen dead men on the streets of New York and Mumbai! I know the governments of India and Pakistan need to do more to help the poor but you cannot provide the medicine for all the illnesses of the world. You are not a Mother Teresa!

Sulochna: Shama, I used to think that your heart has a lot of love in it. But perhaps it is made out of stone!

Shama: Oh Sulochna, you are always crying. Your heart is made out of salt. Forgive me, don't be upset with me. If you want to help the poor, go and work with them. You will not be able to end poverty in India and Pakistan while sitting in London. Come, let's think of happy things...like Nargis' wedding. Do you want to sing a song with me? What's the latest song from Bollywood?

15.9 Songs

(۱) تجھے دیکھا تو یہ جانا صنم پیار ہوتا ہے دیوانہ صنم
اب یہاں سے کہاں جائیں ہم

تیری بانہوں میں مرجائیں ہم
 آنکھیں میری سپنے تیرے
 دل میرا یادیں تیری
 میرا ہے کیا سب کچھ تیرا
 جان تیری سانسیں تیری
 میری آنکھوں میں آنسو تیرے آگئے
 مسکرا نے لگے سارے غم
 تجھے دیکھا تو یہ جانا صنم----

(۲) دل میرا ہر بار یہ سننے کو بے قرار ہے
 کہو نا پیار ہے کہو نا پیار ہے
 ہاں تم سے پیار ہے کہ تم سے پیار ہے
 ان پیاری باتوں میں انجانا اقرار ہے
 کہو نا پیار ہے کہو نا پیار ہے
 کہا نا پیار ہے کہا نا پیار ہے
 پیار جہاں میں ہوتا نہیں پھر بولو کیا ہوتا؟
 دُنیا میں دل کوئی کبھی نہ دھڑکا ہوتا
 دھڑکا ہے دل آیا مل! یہ پیار کا اظہار ہے
 کہو نا پیار ہے کہو نا پیار ہے
 کہا نا پیار ہے کہا نا پیار ہے

(۳) (ڈائلاگ: یہ میری آخری التجا ہے: دُنیا میں دل والے کا ساتھ

دینا دولت والے کا نہیں)

وفا کی راہ میں عاشق کی عید ہوتی ہے

خوشی مناؤ محبت شہید ہوتی ہے

زندہ باد، زندہ باد، اے محبت زندہ باد، اے محبت زندہ باد! (۲)

دولت کی زنجیروں سے تُو (۲) رہتی ہے آزاد

زندہ باد، زندہ باد، اے محبت زندہ باد، اے محبت زندہ باد!

منبر میں مسجد میں تُو اور تُو ہی ہے ایمانوں میں

مُرلی کی تانوں میں تُو اور تُو ہی ہے اذانوں میں

تیرے دم سے دین و دھرم کی دُنیا ہے آباد

زندہ باد، زندہ باد، اے محبت زندہ باد، اے محبت زندہ باد!

پیار کی آندھی رُک نہ سکیگی نفرت کی دیواروں سے

خونِ محبت ہو نہ سکیگا خنجر سے تلواروں سے

مر جاتے ہیں عاشق زندہ رہ جاتی ہے یاد

زندہ باد، زندہ باد، اے محبت زندہ باد، اے محبت زندہ باد!

Glossary for Songs

صنم = beloved; idol (m/f)

مُرلی = flute (f)

بے قرار = restless

تان = tune (f)

انجانا = unknown, unwitting

اذان = Islamic call to prayer (f)

اقرار = confirmation; acknowledgment (m)

دین و دھرم = religion and faith (m)

دھڑکنا = to beat, throb

آندھی = tempest, whirlwind; storm (f)

اظہار = revelation; declaration; display (m)

رُکنا = to stop, to rest; to be hindered

وفا = loyalty; faithfulness (f)

شہید = martyr; one who is slain (m/f)

دولت = riches, wealth; dominion; rule (f)

زنجیر = chain; fetters (f)

ایمان = faith; belief (m)

نفرت = hate; hatred (f)

خون = blood; murder; slaughter (m)

خنجر = dagger (m)

تکوار = sword (f)

زنده باد = long live

15.10 Vocabulary

to agree upon x

x پر راضی ہونا

arm, embrace (f)

باتھہ

arrangement (m)

انتظام

body (m)

تن

to be born

پیدا ہونا

bride (f)

دُلہن / دُلہنیا

bridegroom (m)

دُلہا

to call x on the phone

x کو فون کرنا

to celebrate, commemorate

منانا

cure (m)

علاج

decision (m)

فیصلہ

details, explanation; analysis (f)

تفصیل

to dial the phone

فون ملانا

distress, misery, anxiety (f)

پریشانی

dream (m)

خواب

to dry (intransitive)

سوکھنا

to end, conclude (transitive)	ختم کرنا
to end, conclude (intransitive)	ختم ہونا
expenditure, expense (m)	خرچ
to spend, to expend (transitive)	خرچ کرنا
to be spent, expended (intransitive)	خرچ ہونا
fan; ventilator (m)	پنکھا
festival	تیوہار، تہوار (m) / عید (f)
filth (f)	گندگی
fork; thorn (m)	کانٹا
germs (m)	جراثیم
gift (m)	تحفہ
healthy	صحت مند
in return for x; instead of x	x کے بدلے میں
life partner (m/f)	جیون ساتھی
melody	راگ (m) / راگنی (f)
middle	بیچ
mistake (f)	غلطی
party; invitation (f)	دعوت
to invite x	x کو دعوت دینا
to have a party for x	x کی دعوت کرنا
peace, safety (m)	امن
piece, morsel (m)	ٹکڑا

pleased; contented; agreed	راضی
to be pleased with x	x سے راضی ہونا
to agree upon x	x پر راضی ہونا
pomp and gusto (f)	دھوم دھام
potato (m)	آلو
poverty (f)	غریبی / مفلسی
praise (f)	تعریف
to praise x	x کی تعریف کرنا
Ramadan, Muslim month (m)	رمضان
relationship / connection (m)	رشتہ
river (m)	دریا
road (m)	راستہ
snow (f)	برف
to spread (intransitive)	پھیلنا
to start, begin (transitive)	شروع کرنا
to start, begin (intransitive)	شروع ہونا
use, employment (m)	استعمال
to use	استعمال کرنا
to use x	x کا استعمال کرنا
without	(کے) بغیر
witness (m/f)	گواہ

Chapter 16

16.1 The "Izafa"

The "izafa," or "addition," is a construction of Persian origin frequently used in Urdu.

Linguistically, the "izafa" is an enclitic, indicated by placing the subscript sign "zer," i.e., _ز (also used to represent a short "i" vowel) after a noun. The "izafa" is used to express either (i) a possessive relationship between two nouns or (ii) an adjectival modification of a noun.

(i) Possessive relationship between two nouns:

In such a construction, the "possessor" noun follows the "possessed one" and the enclitic "izafa," that reflects the relationship between the two nouns, falls in the middle and can frequently be translated as "of." Examples:

دخترِ نظام

the daughter of the Nizam.

("possessed one" daughter = دختر "possessor" Nizam = نظام)

جنگِ آزادی

the war of independence

(war = جنگ independence = آزادی)

حکومتِ امریکہ

the government of America

(government = حکومت America = امریکہ)

In highly Persianized Urdu, geographical features are frequently written with the "izafa," with

the geographical entity preceding its proper name:

کوه طور

Mount Sinai

(mountain = کوه Sinai = طور)

(ii) Adjectival modification of a noun:

In such a construction, the noun is followed by an attributive adjective and again, their relationship is reflected by the enclitic "izafa" that falls between the two. When translating such a construction into English, place the attributive adjective before the noun. Examples:

دل نادان

foolish heart

(heart = دل foolish = نادان)

اسم شریف

noble name

(name = اسم noble = شریف)

مغل اعظم

the Greatest Mughal

(Mughal = مغل greatest = اعظم)

بر صغیر

the [Indian] subcontinent

(continent = بر small = صغیر)

16.1 Reading and Translation Drill

1. Read and translate the following couplets with the assistance of the glossary:

۱۔ دلِ ناداں تجھے ہوا کیا ہے
آخر اس درد کی دوا کیا ہے

Glossary

ناداں = foolish

۲۔ شامِ فراق اب نہ پوچھ
آئی اور آ کے ٹل گئی
دل تھا کہ پھر بہل گیا
جاں تھی کہ پھر سنبھل گئی

Glossary

فراق = separation (m)

ٹلنا = to pass off, to pass over

بہلنا = to be entertained

سنبھلنا = to recover

۳۔ غالبؔ ٹھٹھی شراب پر اب بھی کبھی کبھی
پیتا ہوں روزِ ابرِ شبِ ماہتاب میں

Glossary

ٹھٹھنا = to leave, to abandon

ابر = cloud(s) (m)

شب = night (f)

ماہتاب = moon (m)

۴۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا
اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا

Glossary

وصال = union, meeting (m)

یار = friend, beloved (m/f)

2. Read and translate the following passage concerning the famous Indian movie, *Mughal-e*

Azam (The Greatest Mughal)

مغل اعظم

مغل اعظم ہندوستان کی ایک بہت مشہور فلم ہے۔ یہ مغل شہزادے سلیم* اور ایک کثیر انارکلی** کی خوبصورت کہانی ہے۔ شہزادے سلیم، جو شہنشاہ بننے کے بعد جہانگیر کے نام سے مشہور ہوئے، شہنشاہ اکبر*** کے بیٹے تھے۔ سلیم کو انارکلی سے پیار ہو گیا۔ مگر سلیم کے والد شہنشاہ اکبر اس بات سے بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سلیم انارکلی سے شادی کریں گے تو اُن کو ہندوستان کا تخت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ دینا پڑیگا۔ سلیم نے اپنے والد سے کہا کہ انارکلی انہیں ہندوستان کے تخت سے زیادہ عزیز ہے۔ انارکلی کی محبت میں وہ اپنی جان بھی دے سکتے ہیں مگر اُس سے دور نہیں رہ سکتے۔ مگر انارکلی یہ نہیں چاہتی تھی کہ شہزادہ سلیم ہندوستان کا تخت چھوڑ دیں۔ اس لئے اُس نے فیصلہ کیا کہ وہ سلیم کی زندگی سے نکل جائیگی۔ مغل اعظم کا ایک مشہور ڈائیلاگ:

شہنشاہ اکبر: انارکلی! ہم محبت کے دشمن نہیں۔ اپنے اصولوں کے غلام ہیں۔

ایک غلام کی بے بسی پر غور کرو تو شاید تم ہمیں معاف کر سکو۔
 مغل اعظم میں ہندوستان کے بہت بڑے بڑے اداکاروں نے کام کیا۔ اکبر کا رول پر تھوی راج
 کپور نے ادا کیا۔ سلیم ولیپ کمار تھے۔ اور انارکلی۔۔۔ ہندوستان کی سب سے خوبصورت اداکارہ
 مدھوبالا۔ مغل اعظم آج تک ساری دنیا میں دیکھی جاتی ہے اور بہت پسند کی جاتی ہے۔ ہم کو یہ
 تو معلوم نہیں کہ یہ کہانی سچ ہے یا نہیں مگر لاکھوں لوگ اس فلم کو ایک تاریخی فلم سمجھتے
 ہیں۔ سلیم اور انارکلی ہزاروں پیار کرنے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں: 'زندہ باد زندہ باد
 اے محبت زندہ باد!'

* Prince Salim (1569-1627); Mughal prince who on becoming emperor in 1605 adopted the
 royal title Jehangir (literally "world seizer")

** Anarkali, legendary courtesan in the Mughal court, with whom Prince Salim fell in love

*** Emperor Akbar (1542-1605); considered to be the greatest emperor of the Mughal dynasty;
 reigned from 1556 to 1605; father of Salim.

16.2 Some Common Uses of Present and Past Participles

Thus far we have encountered present and past participles in the context of different verbal
 tenses. However, in Urdu, like in English, present and past participles can serve a variety of
 other functions such as adjectives or adverbs (as in "burning fire" "while walking" and so on).

When employed in this manner, present and past participles are usually followed by the
 appropriate form of the past participle of the verb "ہونا" (ہوا، ہوئے، ہوئی).

1. Present Participle as Adjective

When used in an adjectival sense, these participles and the forms of "ہونا" attached to them
 decline according to the case, number, and gender of the nouns they modify. Note, however, that
 in the case of feminine adjectival participles, the singular form modifies both singular and plural

feminine nouns. Examples:

a dancing girl	ناچتی ہوئی لڑکی
a singing boy	گاتا ہوا لڑکا
laughing actors	ہنستے ہوئے اداکار
playing girls	کھیلتی ہوئی لڑکیاں
shy bride	شرماتی ہوئی دلہن
moving bus	چلتی ہوئی بس

In many instances, the past participle of " ہونا " may be omitted without affecting the meaning:

میں چلتی گاڑی میں کتابیں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔

I am unable to read books in a moving car.

2. Past Participle as Adjective

Whereas the present participle of a particular verb, acting as an adjective, conveys the progression of particular actions, the past participle as adjective connotes a state of completion or a passive state. Thus, at times, the past participle may convey a present stative sense. For instance: بیٹھی ہوئی عورت would mean a seated woman (that is a woman in the state of being seated). In contrast بیٹھتی ہوئی عورت, with the present participle, would mean a woman who is in the act or process of sitting down.

dead man	مرا ہوا آدمی
kept books	رکھی ہوئی کتابیں
written letters	لکھے ہوئے خط
fallen things	گری ہوئی چیزیں
a seated man	بیٹھا ہوا آدمی

a standing woman

کھڑی ہوئی عورت

constructed buildings

بنی ہوئی عمارتیں

a past time

گزرا ہوا زمانہ

3. Participles as Nouns

Occasionally participles, like adjectives, can be used as nouns. They may or may not be followed by the appropriate form of the past participle of the verb "ہونا" (ہوا، ہوئے، ہوئی). For example:

سوتے (ہوئے) کو اٹھاؤ۔

Wake up /pick up the sleeping one.

پڑھتے (ہوئے) کو تنگ مت کرو!

Don't bother the person who is reading (lit. the reading one).

A famous Urdu proverb also illustrates this construction:

مرتا کیا نہ کرتا۔

What wouldn't a dying person do?

(In a desperate state, a person would not think twice about the consequences of his/her actions.)

4. Participles as Adverbs

Urdu participles used in an adverbial sense can often be translated into English with phrases beginning with "while" and often express incomplete actions. The adverbial participle phrase almost always appears in singular masculine oblique form. The usual word order in sentences that contain adverbial participles is: subject - adverbial participle - object - verb. Examples:

میں نے گھر جاتے ہوئے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔

While going home, I saw a beautiful girl.

وہ لڑکی نہاتے ہوئے گا رہی تھی۔

While bathing, that girl was singing.

کئی ہوئی مرغی کو چلتے ہوئے دیکھو!

Watch the cut-up chicken walk!

(A note posted outside a trickster's stall in Lahore!)

5. Participle + ہی

In order to convey immediacy or to give the sense of "as soon as" or "immediately after," the particle ہی may be added to the masculine oblique present participle:

چھوٹا بچہ کلتے کو دیکھتے ہی رونے لگا۔

The little boy started crying as soon as he saw the dog.

میں کھانا کھاتے ہی وہاں جاؤنگی۔

I will go there immediately after I finish eating.

6. Participle + وقت

Masculine oblique present participle combined with the word "وقت" connotes the simultaneity of two actions, that is, the action of the main verb taking place at the same time as the action signified by the participle + "وقت" construction. Example:

گاڑی چلاتے وقت ٹیلیفون پر بات نہیں کرنی چاہیے۔

While driving (at the time of driving) a car, one should not speak on the telephone.

7. Repeated Participles

Present participles can often be repeated to signify that the action of the repeated participle ends or results in the action of the main verb. Repeated past participles signify a past action resulting

in a continuous or repetitive state. Examples:

میں پڑھتے پڑھتے سوچنے لگا۔

I began thinking while studying.

بیچارہ مجنون روتے روتے مر گیا۔

Poor Majnun died weeping.

جناب! آپ بیٹھے بیٹھے تھک جائینگے۔

Sir, you will tire of sitting (and sitting).

16.2 Translation Drills

Translate into idiomatic English:

- ۱۔ پولیس کو مرا ہوا آدمی اس روڈ پر ملا۔
- ۲۔ آپ لائبریری جانے سے پہلے گھر میں رکھی ہوئی کتابیں پڑھیے!
- ۳۔ غالب کے لکھے ہوئے خط آج بھی پڑھے جاتے ہیں۔
- ۴۔ اس لڑکی سے کہو کہ وہ ان گہری ہوئی چیزوں کو نہ اٹھائے۔
- ۵۔ وہ بیٹھا ہوا آدمی سگریٹ پی رہا تھا۔
- ۶۔ وہ کھڑی ہوئی عورتیں بس کا انتظار کر رہی تھیں۔
- ۷۔ شاہ جہاں کے زمانے کی بنی ہوئی عمارتیں مجھے بہت پسند ہیں۔
- ۸۔ تم گزرے ہوئے زمانے میں رہتے ہو۔ اب گزری باتوں کو یاد مت کرو۔
- ۹۔ اس کام کرتی ہوئی لڑکی کو دیکھئے۔
- ۱۰۔ کل رات جس ناچتے ہوئے لڑکے سے آپ بات کر رہے تھے، اس کا نام کیا تھا؟
- ۱۱۔ کتاب پڑھتے ہوئے ریشما ٹیلیفون پر بات کر رہی تھی۔
- ۱۲۔ وہ بچہ روتے ہوئے سو گیا۔
- ۱۳۔ راج نے نرگس کو سینیل کے ساتھ ٹینیس کھلتے ہوئے دیکھا۔

- ۱۴۔ وہ شاعر روتے ہوئے غزل لکھ رہا تھا۔
 ۱۵۔ دودھ پیتی ہوئی بچی کو مت ستاؤ۔
 ۱۶۔ کیا ہر ساجن کو ٹوٹے ہوئے دل اچھے لگتے ہیں؟
 ۱۷۔ کام کرتے کو دیکھو!
 ۱۸۔ کھاتے ہوئے سے بات مت کرو۔

Translate into Urdu:

1. Give some sweets to the crying girl.
2. Do not talk to the studying boy (the boy who is studying).
3. The laughing actor burst out crying all of a sudden!
4. That man talks to dead people.
5. We cannot study while eating.
6. While studying (at the time of studying) one should not watch T.V.
7. Ask Sunil's broken heart!
8. Raj does not like shy brides.
9. As soon as he came home, Mummy darling gave Raj some food to eat.
10. This is a book written by Reshma (lit. This is Reshma's written book).
11. Please give tea to the person who is singing (lit. the singing one).

16.3 Present Participle and رہتا رہتی Construction

The present participle of a verb when combined with the verb رہتا رہتی results in the iterative form.

The iterative indicates the constant repetition of an action and is often translated as "keeps....." In this form both the present participle and the verb رہتا رہتی agree with the subject. The form cannot be employed in the negative, nor can it be used with compound verbs/aspect indicators. In addition,

the present participle of رہنا cannot be used in this construction,

میں وہاں دس منٹ میں پہنچ جاؤنگا۔ آپ کام کرتے رہیے۔

I will reach there in ten minutes. You keep working.

سنیل نرگس کے گھر جاتا رہا مگر نرگس تو راج کے ساتھ جا چکی تھی۔

Sunil kept going to Nargis' house, but Nargis had already left with Raj.

میری گزارش ہے کہ آپ عربی سیکھنے کے بجائے اردو سیکھنے کی کوشش کرتے رہیے۔

It is my request that you keep trying to learn Urdu instead of learning Arabic.

Note: The present participle of جانا when combined with the رہنا has two meanings: its expected meaning "keep on going" and an idiomatic one "to disappear, to be lost."

کاش کہ ایسی بُرائیاں دُنیا سے جاتی رہیں!

If only such evils would disappear from the world!

In the past tense, the particle نے is not used even when the participle is that of a transitive verb.

16.4 Present Participle and جانا Construction

The present participle of a verb when combined with جانا can have several meanings, the most common being: (1) persevering or deliberately continuing with an action and (2) gradual unfolding of the action resulting in change. Since جانا the governing verb is intransitive, constructions in the past tense do not use the particle نے.

اُس کو تیز بخار تھا مگر وہ اپنا کام کرتا گیا۔

He had a high fever but he went on working.

تم گوشت کھاتے جاؤ اور تمہاری صحت خراب ہوتی جائیگی۔

Continue eating meat and your health will keep deteriorating.

وقت گزرتا گیا اور ہم ایک دوسرے کو بھولتے گئے۔

Time kept passing and we gradually forgot each other.

16.3-16.4 Reading and Translation Drill

۱۔ میں دیکھتا رہا اور بس نکل گئی۔

بوڑھا پھل والا محنت کرتا رہا اور اس کا بیٹا اپنے باپ کی مدد کرنے کے بجائے کرکٹ کھیلنے چلا گیا۔

ہم پاکستان جانے کی کوشش کرتے رہے۔

میں کام کر لو گئی۔ تمہاری طبیعت خراب ہے۔ تم سوتے رہو۔

۲۔ اگر تم اپنے والدین کا مذاق اڑاتے گئے تو تم کو کامیابی کیسے ملے گی؟
وہ صدر تقریر کرتے گئے اور ساری دنیا ہنستی گئی۔

آپ اپنے والدین کی دیکھ بھال کرتے جائیے اور خدا آپ کو لمبی عمر دیگا۔
میں کھانسی کا علاج کراتا گیا مگر یہ کھانسی کم ہی نہ ہوئی۔

Translate the following sentences using the present participle and رہنا construction:

1. Instead of talking to me on the phone, he kept sending me letters.
2. Thirteen years after coming to the United States, they keep on remembering Pakistan.
3. I kept trying to explain to him and he kept watching the movie.
4. On Saturday, Sarah and Salma kept dialing the telephone, but because of the rain the phone was not working.

Translate the following sentences into Urdu using the present participle and جانا construction:

1. Keep on saying your (Muslim ritual) prayers and then see how happy God is with you!
2. Shaan went on throwing the trash onto the street, but the children kept bringing it back into his house.
3. She went on narrating her (own) story and the little girl gradually fell asleep.

4. Why wouldn't Rakesh be angry? Reshma kept making fun of him instead of listening to his poetry.

16.5 Present Participle in the Narration of the Past

Present participles without auxiliary verbs are frequently encountered in narrations of those past events that occurred routinely or habitually. In such cases, the narration usually begins with an initial sentence containing a present participle followed by an auxiliary, but in subsequent sentences/statements, the auxiliary is dropped and the present participle suffices on its own.

بچپن میں ساجد اپنی نانی کے گھر گرمیوں کی چھٹیوں میں جاتا تھا، آم کھاتا، تیرتا، اور شاہ رخ خان کی فلمیں دیکھتا۔

In his childhood Sajid would often go to his grandmother's house during the summer holidays,

eat mangoes, swim, and watch Shah Rukh Khan's films.

اپنے انتقال سے ایک دن پہلے تک وہ گھر کا سارا کام کرتے تھے، خطوں کے جواب دیتے، اور غریبوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے۔

Until one day before his death (literally, transfer), he did all the house work, reply to all the letters, and try to help the poor.

16.5 Reading and Translation Drill

Translate into English:

- ۱۔ جب ہم شیکاگو میں پڑھتے تھے، ہم ہر روز مزیدار کھانا بناتے، دوستوں کے ساتھ ناچتے اور وہ ساری چیزیں کرتے جو ہمارے والدین کو پسند نہیں تھیں۔
- ۲۔ وہ اپنے بھائی کے انتقال سے پہلے اکثر دتی جاتی تھی۔ پرانی دتی میں یریا نی کھاتی اور قوسلی سنتی۔
- ۳۔ جب بھی فراز پریشان ہوتا تھا یا وہ زیادہ شراب پی لیتا یا اپنے گھروالوں کو تنگ کرتا۔

۳۔ میں سمیر کو اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ منجھلے سال وہ ہر روز یہاں آتا اور میرے سارے پیسے چرائیتا۔

Translate into Urdu:

1. During our childhood, before our grandmother's death, we used to get up at 6 am every morning, swim, take a bath, drink milk, eat fresh hot rotis, and then go to school.
2. That sly boy would eat all the sweets, lie, and bother all the shopkeepers.
3. While driving her car that girl would listen to music, sing songs, and talk to her friends on her cell phone.
4. While walking down the streets, these mad boys would scream, throw fruits and vegetables, and make fun of democracy.

16.6 Past Participle and کرنا Construction

The masculine form of a past participle when combined with the verb کرنا indicates an action performed habitually. In such constructions, only the verb کرنا inflects, agreeing in number and gender with the subject. Since this construction is considered to be intransitive in the past tense, the subject is not marked by the particle نے.

بیٹا، تم غریبوں کی مدد کیا کرو!

Son, go on helping [habitually] the poor.

ممی ڈارلنگ ہمارے گھر چائے پینے کے لئے آیا کرتی تھی۔

Mummy darling habitually used to come to our house to drink tea.

آپ اپنی دوائی پی لیا کریں۔

Keep drinking your medicine [for your own benefit].

Note: For this construction, the verb جانا uses جایا as its past participle and not its normal form گیا.

نرگس راج کے گھر جایا کرتی ہے۔

Nargis habitually goes to Raj's house.

16.6 Reading and Translation Drill

- ۱۔ آپ اپنی تانی کی دیکھ بھال کیا کیجئے۔
سمیر یہ تم کو کیا ہو گیا؟ آج کل تم تو سچ بولا کرتے ہو!
جب میں کالج میں تھا تب میں صبح کے چار بجے تک جاگا کرتا تھا۔
نرگس! میرے سامنے سنیل کا نام مت لیا کرو!
وہ شریر لڑکے چھوٹی چھوٹی باتوں پر رویا کئے۔
- ۲۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ میرے لئے پھل اور پھول لایا کرتے تھے۔
میری جان، ناراض مت ہو۔ میں سنیل کے ساتھ ٹیٹس کھینے کے لئے جین پارک میں نہیں جایا کرونگی۔
ہاں۔ اُن کی صحت خراب ہے۔ پھر بھی وہ بہت سگریٹ پیا کرتے ہیں۔
میں اپنے عاشق پر اپنا سارا پیسہ خرچ کیا کرونگا۔ آپ میری فکر مت کیا کریں!
ریشما ہر روز اسکول کے بعد مٹھائی کی دوکان پر جایا کرتی تھی۔

Translate the following into Urdu :

1. When we were healthy, we used to go [habitually] to that beautiful garden every evening.
2. I never talked to his wife. I used to remain [habitually] quiet in his house.
3. In his childhood Raj used to climb [habitually] the tree that was in front of his house.
4. I don't know why my parents don't give me permission to go to the movies. When they were in college they used to watch films every Friday.

16.7 The Uses of تو نہیں

تو نہیں occurs frequently in colloquial Urdu-Hindi as a substitute for ورنہ, "otherwise."

تو گرمی میں کام کرنے کا عادی ہو جا نہیں تو تجھے دوپٹی میں بہت مشکل ہوگی۔

Get used to working in the heat, otherwise you will have a difficult time in Dubai.

دوائی کھا لو نہیں تو بخار بڑھ جائیگا۔

Take (literally, eat) the medicine, otherwise the fever will increase.

آپ پولیس کو فون کیجئے نہیں تو میں خود کرونگا۔

You call the police, otherwise I will do so myself.

تو نہیں is also used in colloquial Urdu-Hindi, usually in the context of conversations, to respond negatively to assertions and connotes "not really," "no way," or "no."

فرراز: شاد! کیا تم لوگ آپس میں میرے بارے میں بات کر رہے ہو؟

شاد: نہیں تو! ہم آپ کے بارے میں بات کیوں کریں گے؟

Faraz: Shad! Are you talking among yourselves about me?

Shad: Not really! Why would we talk about you?

16.7 Reading and Translation Drill

۱۔ دیکھو بیٹے! محنت کرنے کے عادی ہو جاؤ نہیں تو امتحان میں کامیاب نہیں ہو گے۔

آپ لوگ آپس میں اچھی باتیں کرنے کی کوشش کریں نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔

تم فوراً بازار جاؤ نہیں تو دوکانیں بند ہو جائیں گی۔

تم میرے گھر پر پانچ بجے کے بجائے ٹھیک چار بجے پہنچ جاؤ نہیں تو میں پارٹی میں اکیلا ہی

جاؤں گا۔

میں دو دن کے لئے کینڈا جا رہا ہوں۔ میری پتی کی اچھی دیکھ بھال کرو نہیں تو میں تم

کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔

- ۲۔ کیا نرگس نے سنیل کے والدین کی دیکھ بھال کی؟
 نہیں تو۔ یہ کس نے کہا؟
 معاف کیجئے۔ ہمارے بچے آپ کو تنگ کر رہے ہیں۔
 نہیں تو۔ ہم تو اُن کے عادی ہیں!
 اُن کے بھائی کا دس سال پہلے انتقال ہو گیا۔
 نہیں تو! میں نے کل ہی اُن کو نیو یارک کے ہوائی اڈے پر دیکھا۔
 کیا تمہارے دفتر میں تجھ بہت ہیں؟
 نہیں تو۔ ہمارا دفتر لندن میں ہے نیو یارک میں نہیں۔

16.8 Emphatic Negative Assertions

Emphatic negative assertions are created by combining نہیں with the oblique infinitive of the verb to be negated, followed by کا/کی/کے. The possessive کا agrees in gender and number with the subject.

میں سچ بولنے کا عادی ہوں۔ میں جھوٹ نہیں بولنے کا!

I am used to speaking the truth. I won't lie!

16.8 Reading and Translation Drill

- ۱۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہہ دیا: ان لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں وہاں نہیں جانے کا!
- ۲۔ تم اس وقت گاڑی مت چلاؤ۔ یہ بارش نہیں ختم ہونے کی!
- ۳۔ اس ملک میں بہت غریبی ہے۔ وہاں جمہوریت نہیں آنے کی!
- ۴۔ یہ دوائی کھا لو نہیں تو یہ کھانسی نہیں رکنے کی!
- ۵۔ وہ لڑکے اس کام کو کرنے کی کوشش نہیں کرنے کے!

Translate the following sentences into Urdu using the above construction:

1. It is appropriate that you ask her about the newspaper. I will not ask her!

2. I will not call Ali!
3. Salim can dry the clothes. I will not dry them!
4. I will not sit in the hot sun!
5. I have to go work now. I will not wait for the bus!
6. I will not lie to my parents! I am used to [habituated to] telling the truth.

16.9 گفتگو (Conversation)

راج اور نرگس کی شادی ۲۵ دسمبر کو دہلی میں بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ دونوں کے والدین نے مہمانوں سے گزارش کی کہ تحفوں یا پھولوں پر پیسہ خرچ کرنے کی بجائے وہ اس ہسپتال کو مدد دیں جس میں نرگس کام کرتی ہے۔ شادی کے بعد دلہا دلہن ہنی مون کے لئے کراچی چلے گئے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ کراچی کی سیر کرنے کے بعد یہ سندھ جوڑی اسلام آباد کے لئے روانہ ہو گئی۔ اسلام آباد دیکھنے کے بعد یہ لوگ مری جاینگے۔ مری پاکستان کا بہت ہی خوبصورت ہل اسٹیشن، یعنی پہاڑی مقام، ہے۔ مری اسلام آباد سے کوئی ۲۸ میل دور ہے۔ نرگس اپنے بچپن میں گرمیوں کی چھٹیوں میں مری جاتی تھی، ٹینیس کھیلتی، بیٹھے بیٹھے پھل کھاتی اور بہت سوتی۔

کراچی سے اسلام آباد جاتے ہوئے راستے میں راج اور نرگس نے کئی دلچسپ چیزیں دیکھیں : کھیت میں کام کرتے ہوئے کسان، پاکستان کے چھوٹے چھوٹے شہروں کی زندگی، مغلوں کی بنوائی ہوئی عمارتیں، اور کرکٹ کھیلتے ہوئے بچے۔ نرگس کے ساتھ بہت ساری کتابیں بھی تھیں جو وہ سفر میں پڑھنا چاہتی تھیں مگر راج اُسے تنگ کرتا گیا۔ اب سینے راج اور نرگس کی گفتگو:

نرگس: کیا تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے؟

راج: نہیں جان! میں چلتی ہوئی گاڑی میں کتاب نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ طبیعت کچھ خراب ہو جاتی ہے۔ اور پھر تم کتنی خوبصورت ہو! تم کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان چھروں کے بیچ میں اور کوئی چیز کیسے کر سکتا ہوں؟!

زرگس (ہنستے ہوئے): تم کتنے رومانٹک ہو راج! میں مری پہنچتے ہی تم کو ایک اچھا سا تحفہ دوں گی۔

راج (خوش ہو کر): او ڈارلنگ، تحفہ؟ کہو نا۔ کیا تحفہ دوں گی؟
زرگس (کتاب پڑھتے پڑھتے): مجھے تنگ مت کرو راج! میں تم کو مری جا کر ہی اس تحفہ کے بارے میں بتا سکتی ہوں۔

راج: مجھے جلدی بتاؤ نہیں تو میں مر جاؤں گا۔
زرگس: میں نہیں بتانے کی!
راج: پلیز! بتاؤ نا!
زرگس: اچھا سنو! تمہارا تحفہ؟ سنیل کی لکھی ہوئی غزلیں اور اچھے رومانٹک ڈائلاگ ہیں۔ تم کو وہ ڈائلاگ یاد کر لینے چاہئیں۔

راج (مُسکراتے ہوئے): تھینک گاڈ! ہم شادی کے بعد بھی مذاق کر سکتے ہیں!!
زرگس: ہاں ہاں۔ کیوں نہیں! ہم تو مُقدّر کے سِکندر ہیں۔

16.10 Conversation Practice

Sunil meets Raj and Nargis after they come back from their honeymoon.

Sunil: Nargis, I kept calling you but you weren't home.

Raj: Don't you know that we had gone our honeymoon?

Sunil: I am used to talking to Nargis every evening. What more can I say?

Raj: Don't bother us Sunil. Nargis will absolutely not play tennis with you.

Nargis: Raj! Let me speak otherwise I will never forgive you. Sunil is my friend and you need to get used to him instead of fighting with him.

Sunil: Look Nargis! I have written this ghazal for you: "I kept thinking of you all night long, my moist eyes kept smiling all night long."

Raj: He is lying to you Nargis. This is not his own ghazal. This is a stolen ghazal!

Nargis: Sunil, is your name Makhdum? You ought to be ashamed.

Sunil: Forget about the ghazal. Have you forgotten we used to play tennis in our childhood, cook food, sing songs and dance? The truth is that I love you!

Raj: You ought to have your brain examined (medically). You are crazy! Nargis is my wife and she loves only me!

Sunil: Oh what should I do? Nargis, I will write another ghazal for you.

Nargis: Enough! Sunil, you keep on writing poetry but I won't read it (emphatic). Raj, you need to start writing poetry.

Raj: Listen to this song. I just wrote it: How crazy is my heart! It loves you.

Nargis: Raj, I know that you did not write this song. We learned it in Urdu class. Don't you you remember that you kept singing it for me every day after class? No, my dear Raj. It is not necessary for you to write a song for me. Your beautiful eyes have stolen my heart.

16.11 Songs

(۱) روتے ہوئے آتے ہیں سب، ہنتا ہوا جو جائیگا
وہ مُقدّر کا سکندر جانِ من کہلایگا
وہ سکندر کیا تھا جس نے ظلم سے جیتا جہاں
پیار سے جیتے دلوں کو وہ جھٹکا دے آسماں
جو ستاروں پر کہانی پیار کی لکھ جائیگا
وہ مُقدّر کا سکندر جانِ من کہلایگا۔

(۲) چلتے چلتے (۲)
 یوں ہی کوئی مل گیا تھا (۲)
 سر راہ چلتے چلتے (۲)
 وہیں تھم کے رہ گئی ہے (۲)
 میری رات ڈھلتے ڈھلتے (۲)
 جو کہی گئی نہ مجھ سے (۲)
 وہ زمانہ کہہ رہا ہے (۲)
 کہ فسانہ (۲) بن گئی ہے (۲)
 میری بات چلتے چلتے (۲)

شب انتظار آخر کبھی ہوگی مختصر بھی
 یہ چراغ بجھ رہے ہیں میرے ساتھ جلتے جلتے

(۳) غزل
 مخدوم محی الدین (۱۹۰۸-۱۹۶۹)
 آپ کی یاد آتی رہی رات بھر
 چشمِ غم مُسکراتی رہی رات بھر
 رات بھر درد کی شمع جلتی رہی
 غم کی کو تھر تھراتی رہی رات بھر
 بانسری کی سُرِیلی سُبھانی صدا
 یاد بن بن کے آتی رہی رات بھر

Glossary for songs

مقدّر = fate (m)

سیکندر = Alexander the Great

جانِ من = my darling

ظلم = tyranny, oppression (m)

جیتنا = to win

جھکاتا = to cause to bend

کہلاتا = to be called, to be named

یوں ہی = by chance, accidentally

سرِ راہ = road side

تھمنا = to stop; to stand still

ڈھلنا = to decline, to fade, to sink

زمانہ = the world; time; age (m)

فسانہ = story, tale (m)

مختصر = brief, short

چراغ = lamp; light (m)

بُجھنا = to be extinguished, to go out

بھر = entire, whole (suffix)

رات بھر = the entire night

چشم = eye (f)

نم = moist, wet

درد = pain (m)

شمع = candle (f)

جلنا = to burn

غم = sorrow (m)

کو = flame (f)

بانسری = reed flute (f)

سُریلی = musical, melodious

سُہانی = pleasing, appealing

صدا = cry, voice, call (f)

16.12 Vocabulary

to bite, to cut

to bother

consideration, deep thought (m)

to consider thoughtfully

کاٹنا

تگ کرنا

غور

غور کرنا

to take x into consideration	x پر غور کرنا
dear, precious, beloved (m/f)	عزیز
death (lit. transfer) (m)	انتقال
to die (for x to die)	x کا انتقال ہونا
effort (f)	کوشش
to try	کوشش کرنا
enemy (m/f)	دُشمن
helpless	مجبور / بے بس
helplessness (f)	مجبوری / بے بسی
instead of	کے اکی بجائے
lie (m)	نُھوٹ
to lie	نُھوٹ بولنا
long live	زندہ باد
mosquito (m)	چھڑ
pair, couple (f)	جوڑی
parents (m)	والدین
to perform; to accomplish; to pay	ادا کرنا
principle (m)	اُصول
request (f)	گزارش
slave (m)	غلام
slave girl (f)	کنیز
to take care of x	x کی دیکھ بھال کرنا

throne (m)

تخت

truth (m); true

سچ

to speak the truth

سچ بولنا

to be used to x, to be accustomed to x

x کا عادی ہونا

Reading Passages

Reading Passage One

برصغیر کے موسم

سردی: سردی کے موسم میں ٹھنڈ ہوتی ہے اور کافی جگہوں پر برف بھی پڑتی ہے۔ اس موسم کے خصوصی پھل سیب اور امرود ہیں۔

بہار: بہار میں نہ تو زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی۔ ہر طرف پھول کھلتے ہیں۔ شاعر اس موسم کو پیار کا موسم بھی کہتے ہیں۔

گرمی: اس موسم میں تیز دھوپ پڑتی ہے۔ گرمی کے دن لمبے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی۔ آم اور تربوز گرمیوں کے خصوصی پھل ہیں۔

برسات: گرمیوں کے بعد برسات کا موسم آتا ہے اور اس موسم میں بارش ہوتی ہے۔ برسات کا سب سے بڑا تہوار (تیوار) رکشا بندھن ہوتا ہے۔ رکشا بندھن کے دن بہنیں اپنے بھائیوں کی کلائیوں پر راکھی باندھتی ہیں اور بھائی یہ عہد کرتے ہیں کہ وہ تمام عمر اپنی بہنوں کی حفاظت (رکشا) کریں گے۔

خزاں: خزاں کا دوسرا نام پت جھڑ ہے۔ اس موسم میں درختوں کے پتے رنگ بدلتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ گرنے لگتے ہیں۔ شعراء اس موسم کی کیفیت کو اپنے محبوب سے نکھڑ جانے کے غم سے تشبیہ دیتے ہیں۔

Glossary

برصغیر	the Subcontinent	ٹھنڈ	cold (f)
سردی	winter (f)	خصوصی	special
عام طور پر	commonly, usually	امرود	guava (m)
برف پڑنا	to snow	بہار	spring (f)

کافی	enough, sufficient	(پھول) کھلنا	to blossom, bloom
گرمی	summer (f)	خزاں (f) پت جھڑ (m)	autumn; fall
تربوز	watermelon (m)	درخت	tree (m)
تہوار (تیوہار)	festival (m)	پتا	leaf (m)
رکشابندھن	festival in which sisters	راکھی	thread tied by sisters on
	express love for their		the wrist of their brothers
	brothers (m)		on the day of <i>Rakhsha</i>
			<i>bandan</i> (f)
کلائی	wrist (f)	محبوب	beloved (m)
عہد	promise, vow (m)	بچھڑنا	to be separated
تمام عمر	entire life	تشبیہ	simile (f)
حفاظت (رکشا)	safeguard; protection (f)	تشبیہ دینا	to compare
کیفیت	state, condition (f)	شعراء	poets (plural of شاعر (m))

Reading Passage Two

موسمی پیشن گوئی

آج کراچی کا مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ بعض مقامات پر بوند اباندی یا تیز بارش کا بھی امکان ہے۔

زیادہ سے زیادہ درجہء حرارت : ۳۹ ڈگری (درجہ) سینٹی گریڈ
اور کم سے کم درجہء حرارت : ۲۷ ڈگری (درجہ) سینٹی گریڈ
رطوبت : ۶۴ فیصد
بارش : ۷ ملی میٹر

طلوع آفتاب: ساڑھے پانچ بجے
غروب آفتاب: سات بجے

Glossary

پیش گوئی	forecast (f)	x کا امکان ہونا	the possibility of x to
مطلع	sky, horizon (m)		happen
جزوی طور پر	partly	درجہ حرارت	temperature (m)
فیصد	percent	رطوبت	humidity (f)
ابر آلود	cloudy	طلوع آفتاب	sunrise (m)
بوند باندی	drizzle (f)	غروب آفتاب	sunset (m)

Reading Passage Three

حیدر آباد دکن

جنوبی ایشیا میں دو حیدر آباد ہیں: ایک پاکستان میں اور دوسرا جنوبی ہندوستان میں۔ جنوبی ہندوستان کے اس علاقے کو دکن بھی کہتے ہیں اور حیدر آباد دکن کا قدیم شہر ہے۔ یہ شہر ۵۰۰ سال سے برصغیر کا تہذیبی اور تعلیمی مرکز رہا ہے۔ اس شہر کو جنوبی ایشیا کی ہندو مسلم مشترکہ تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کی تاریخی عمارتوں میں سے چار مینار، گو لکنڈہ قلعہ، برلا مندر، اور فلک نما پیلیس سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ حیدر آباد کا لاڈ بازار بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ لاڈ بازار میں ہر قسم کی چیزیں ملتی ہیں۔ جب حیدر آباد میں شادیاں ہوتی ہیں تو اکثر عورتیں یہیں سے خریداری، یعنی شاپنگ، کرتی ہیں۔ حیدر آباد کا سالار جنگ میوزیم بھی ایک نایاب عجائب گھر ہے۔ یہ عجائب گھر قیمتی چیزوں اور نادر آثارِ قدیمہ کا انمول خزانہ ہے۔ حیدر آباد کا کھانا بھی بہت ہی مزیدار ہوتا ہے۔ یہاں کی بریانی کا تو جواب نہیں! حیدر آباد کا موسم نہ تو زیادہ گرم ہوتا ہے نہ تو زیادہ سرد۔ اسی لئے اس شہر کو غیر ملکی سیاح بھی پسند کرتے ہیں۔ آج کل حیدر آباد میں لاکھوں غیر ملکی

آتے ہیں کیونکہ حیدر آباد ہائی ٹیک کا بھی مرکز بن گیا ہے۔ اس شہر کو بعض لوگ ساہر آباد بھی کہتے ہیں۔

Glossary

علاقہ	area, region (m)	نایاب	rare
دکن	the Deccan plateau (m)	عجائب گھر	museum (m)
قدیم	old, ancient	نادر	uncommon, rare
تہذیبی	cultural	آثارِ قدیمہ	archaeological objects
تعلیمی	educational	انمول	priceless
مرکز	center (m)	خزانہ	treasure (m)
مُشترکہ	shared, composite	غیر ملکی	foreign (m/f)
تہذیب	culture (f)	سیاح	tourist (m/f)
گہوارہ	cradle (m)	بعض	some, few
خریداری	shopping (f)		

Reading Passage Four

آئیے مسکرائیں

سموسے

دعوت میں میزبان عورت نے مہمان خاتون سے کہا: اور سموسے لیجئے۔

مہمان خاتون: شکریہ۔ میں تو تین کھا چکی ہوں۔

میزبان: کھائے تو آپ نے گیارہ ہیں لیکن یہاں کون گن رہا ہے!؟

بارش

شوہر نے اپنی بیگم سے پوچھا: کیا باہر بارش ہو رہی ہے؟
بیوی: کیا بارش کبھی اندر بھی ہوتی ہے؟!

بیچارہ مریض

ایک مریض نے گھبرا کر ڈاکٹر سے پوچھا: کیا آپ کو پورا بھروسہ ہے کہ آپ کامیابی کے ساتھ میرا آپریشن کر سکیں گے؟
ڈاکٹر: یہی تو مجھے آپ کے آپریشن کے بعد معلوم کرنا ہے۔
مریض نے اور زیادہ پریشان ہو کر کہا: آپ کے علاج سے اب تک کتنے لوگ مُلکِ عدم روانہ ہو چکے ہیں؟
ڈاکٹر: آپریشن کے بعد قبروں کو گن کر بتا دوں گا۔ یہ سوال تو مجھ سے کئی مریض کر چکے ہیں مگر بد قسمتی سے مجھے جواب دینے کا موقع کبھی نہیں ملا!

مرزا غالب کے دو لطیفے

(۱) سردیوں کا موسم تھا۔ ایک دن غالب کے ایک دوست، خان صاحب، ان کے گھر آئے۔ غالب نے شراب کا گلاس بھر کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ خان صاحب غالب کا مُنہ دیکھنے لگے اور کہا: میں نے تو بہ کر لی ہے۔ اب میں شراب نہیں پیتا۔ غالب مُتعجب ہو کر بولے: کیا! سردیوں میں بھی نہیں پیتے؟!

(۲) ایک صاحب نے غالب سے کہا کہ شراب پینی سخت گناہ ہے۔ غالب نے ہنس کر پوچھا: اگر پئیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان صاحب نے جواب دیا: شراب پینے والوں کی دُعا قبول نہیں ہوتی۔ غالب نے مُسکرا کر کہا: جس کے پاس شراب ہو کیا وہ آدمی کسی اور چیز کی دُعا مانگ سکتا ہے؟!

ایک پہیلی

ایک جانور ایسا جس کی دُم پر پیسہ، سر پر بھی تاج ہے بادشاہ کے جیسا، بولو کیا ہے؟

(search glossary below for answer)

Glossary

مُسکراتا	to smile	خاتون	(respected) woman
سموسہ	samosa (m)	بیگم	wife (respected) woman
میزبان	host (m/f)	گھبرانا	to worry
مہمان	guest (m/f)	پورا	complete
بھروسہ	trust, confidence (m)	سخت	severe, hard
کامیاب	successful	گناہ	sin (m)
کامیابی	success (f)	دُعا	prayer (f)
پریشان ہونا	to worry	قبول ہونا	to be accepted
ملکِ عدم	land of eternity	دُعا مانگنا	to ask a favor; to pray
روانہ ہونا	to depart	پہیلی	riddle (f)
موقع ملنا	to get an opportunity	دُم	tail (f)
لطیفہ	joke (m)	پیسہ	coin (m)
بھرنا	to fill	تاج	crown (m)
توبہ	repentance (f)	مور	peacock (m)
متعجب ہونا	to be astonished		

Reading Passage Five

اکبر کا شاہی دسترخوان

آئیے مزیدار کھانا پکائیے! آلو گو بھی بنانے کے لئے ہمیں ان اشیاء کی ضرورت پڑیگی: ۵ آلو، اچھول گو بھی، ۱ عدد پیاز، ۲ سرخ ٹماٹر، آدھی پیالی تیل، آدھا چچ اورک پاؤڈر، ۱ چچ لہسن پاؤڈر، آدھا چچ گرم مصالحہ، آدھی چچ ہلدی، نمک اور لال مرچ حسب ذائقہ، کڑھی پتا، ہرا دھنیا۔ آلو گو بھی بنانے کی ترکیب:

آلو اور پھول گو بھی کو چھیل کر چھوٹے ٹکڑے کر لیں۔ پیاز اور ٹماٹر کو بھی باریک کاٹ لیں۔ تیل کو کڑھائی میں گرم کر لیں اور پھر اس میں پیاز کو کڑھی پتے کے ساتھ تل لیں۔ جب پیاز کارنگ بادامی ہو جائے تب اس میں آلو، گو بھی، ٹماٹر، اورک، لہسن، نمک، مرچ، اور گرم مصالحہ تل لیں اور پھر ایک پیالی پانی ملا کر دھیمی آنچ پر پکھنے دیں۔ جب آلو اور پھول گو بھی گل جائیں اور پانی خشک ہو جائے تب کڑھائی پٹ لہے سے اتار لیں اور سجاوٹ کے لئے ہرا دھینا اوپر ڈال لیں۔ آئیے گرم گرم روٹی کے ساتھ مزیدار آلو گو بھی نوش فرمائیے۔

Glossary

شاہی	royal	حسب ذائقہ	according to taste
دسترخوان	dining cloth* (m)	کڑھی پتا	curry leaves (m)
آلو	potato (m)	ہرا دھنیا	coriander (m)
بند گو بھی	cabbage (f)	چھیلنا	to peel
پھول گو بھی	cauliflower (f)	ٹکڑا	piece (m)
ترکیب	recipe (f)	باریک	thin, fine, delicate
اشیاء	things; ingredients (f)	کاٹنا	to cut
عدد	quantity (m)	کڑھائی	skillet; frying pan (f)

سُرخ	red	تلنا	to fry
ٹماٹر	tomato (m)	بادام	almond (m)
پیالی	cup (f)	بادامی	brown, almond-colored
تیل	oil (m)	دھیمّا	slow, simmer
ادرک	ginger (m)	آئچ	fire, flame (f)
لہسن	garlic (m)	گلنا	to melt, soften
گرم مصالحہ	mixture of spices (m)	خشک	dry
ہلدی	tumeric (f)	پٹلہا	stove (m)
نمک	salt (m)	سجاوٹ	decoration (f)
مرچ	pepper (f)	نوش فرمانا	to eat with relish

*a sheet spread on the floor on which various dishes are placed. Traditionally, before the introduction of dining tables, family members and guests sat around this sheet as they partook of the meal.

Reading Passage Six

ریڈیو سے

السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پشاور ہے۔ آج ۲۷ رجب ۱۴۲۱ھ ہے اور اس وقت رات کے دس بجے ہیں۔ آج کی تازہ عالمی خبریں سماعت فرمائیے۔ امریکہ کے صدر بیل کلنٹن کا دورہ مصر آج ختم ہوا۔ صدر کلنٹن کی مصر کے دار الحکومت قاہرہ میں فلسطینی نمائندوں کے ایک وفد سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے دوران وفد کے سربراہ نے صدر کلنٹن کو بتایا کہ مغرب تیسری دنیا کے مسائل سے انجان ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر مغربی ممالک واقعی مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں یا دہشت گردی کو روکنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ فلسطینیوں کے مسائل کو

بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک اور فلسطینی نمائندے نے صدر کلنٹن کو صاف صاف لفظوں میں یہ بھی بتایا کہ مشرق وسطیٰ میں انسانی حقوق، خصوصاً فلسطینی حقوق، کی پامالی ہو رہی ہے۔ اس ملاقات کے بعد صدر کلنٹن نے اہرام مصر کی سیر کی۔ آج سے امریکی صدر شام اور اردن کا دورہ شروع کریں گے۔

Glossary

تازہ	fresh	نمائندہ	representative (m/f)
عالمی	international	وفد	delegation (m)
سماعت فرمائیے	please listen	سربراہ	head, leader (m/f)
مصر	Egypt (m)	ملاقات	meeting (f)
دورہ	tour, trip, visit (m)	کے دوران	during
دورہ کرنا	to tour, visit	مغرب	West
دارالحکومت	capital city (m)	مسئلہ، مسائل	issue/issues (m)
قاہرہ	Cairo (m)	انجان	unaware/ignorant
فلسطین	Palestine (m)	مزید	furthermore
ملک، ممالک	country/countries (m)	حق، حقوق	right/rights (m)
مشرق وسطیٰ	Middle East	خصوصاً	especially
امن	peace (m)	پامالی	destruction, violation(f)
قائم کرنا	to establish	اہرام مصر	Pyramids of Egypt (m)
دہشت گردی	terrorism (f)	شام	Syria (m)
صاف صاف	clearly, emphatically	اردن	Jordan (m)
لفظ، الفاظ	word/ words (m)	انسانی	human

Reading Passage Seven

اخبار سے




اقوام متحدہ کے نمائندے رحیم بھٹ نے کل شام کی پریس کانفرنس میں بتایا کہ ایڈز کا مرض تیزی سے جنوبی ایشیا میں پھیل رہا ہے۔ اگر اس مرض پر جلد قابو نہ پایا گیا تو لاکھوں لوگ مر سکتے ہیں۔ بھٹ نے مزید یہ بھی کہا کہ ایڈز صرف ایشیا اور افریقہ کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک عالمی مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کے لئے دنیا کے سارے ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہء خیال کرنا پڑیگا تاکہ ایڈز کے حفاظتی ٹیکے کی ایجاد جلد از جلد ہو سکے۔ بھٹ کی اس رائے سے دنیا کی کئی تنظیمیں خصوصاً عالمی ادارہ صحت یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اتفاق کرتی ہیں۔

Glossary

اقوام متحدہ	The United Nations	جلد از جلد	as soon as possible
مرض	disease, epidemic (m)	x کی ایجاد ہونا	x to be invented
x پر قابو پانا	to bring x under control	رائے	opinion (f)
حل کرنا	to solve	تنظیم	organization (f)
تبادلہء خیال	exchange of ideas	ادارہ	institution (m)
حفاظتی	preventive, protective	x سے اتفاق کرنا	to agree with x
ٹیکہ	vaccination (m)		

Note on the Calendar

In most of the Urdu-speaking world, one encounters two calendars: the Islamic lunar or *hijri* calendar; and the Gregorian, Common Era one, called *isavii*. Dates are written from right to left, with the day first (at times followed by / sign), the month second, and the year third. The year is

usually written over the  sign which stand for the Arabic word for year, "sana." This sign is followed either by  (the sign for Islamic *hijri* calendar) or  (the sign for the Gregorian *isavii* calendar). All months are masculine in gender.

ہجری مہینے

<i>Rajab</i>	۷۔ رجب	<i>Muharram</i>	۱۔ محرم
<i>Sha'abaan</i>	۸۔ شعبان	<i>Safar</i>	۲۔ صفر
<i>Ramzaan/Ramdhaan</i>	۹۔ رمضان	<i>Rabii' ul-awwal</i>	۳۔ ربیع الاول
<i>Shawwal</i>	۱۰۔ شوال	<i>Rabii'us-saanii</i>	۴۔ ربیع الثانی
<i>Zuu'l qadaa(Zii qaad)</i>	۱۱۔ ذوالقعدہ (ذیقعد)	<i>Jamaadii ul-awwal</i>	۵۔ جمادی الاول
<i>Zuu'l hijjaa(Ziilhijj)</i>	۱۲۔ ذوالحجہ (ذی الحج)	<i>Jamaadii us-saanii</i>	۶۔ جمادی الثانی

عیسوی مہینے

July	جولائی	January	جنوری
August	اگست	February	فروری
September	ستمبر	March	مارچ
October	اکتوبر	April	اپریل
November	نومبر	May	مئی
December	دسمبر	June	جون

Sample dates:

۱۰ جنوری ۱۹۶۸ ء 10th January 1968 C.E. ۹ شوال ۱۳۸۸ ھ 9th Shawwal, 1388 Hijri

Urdu - English Glossary

now	اب
father (m)	با
you - formal	آپ
sister (f)	آپا
your (formal)	آپ کا / آپکا
one's own	اپنا
this much	یتنا
to pick up	اٹھانا
to wake up, rise	اٹھنا
today	آج
permission (f)	اجازت
give permission to leave (got to run)	اجازت دیکھئے
these days, nowadays	آج کل
pickles (m)	اچار
good	اچھا
newspaper (m)	اخبار
to perform; to accomplish; to pay	ادا کرنا
greetings, hello, hi	آداب عرض / آداب
actor (m)	اداکار
actress (f)	اداکارہ

human being, man, person (m)	آدمی
half	آدھا / آدھ
in this direction	اُدھر
in that direction	اُدھر
intention (m)	اِرادہ
rest (m)	آرام
to rest	آرام کرنا
to fly; to cause to fly	اُڑانا
independence, freedom (f)	آزادی
in this duration	اِس دوران میں
therefore	اِس لئے
use (m)	اِستعمال
to use	اِستعمال کرنا
to use x	x کا اِستعمال کرنا
student (m/f)	اِسٹوڈنٹ
noble name (m) (formal Urdu)	اِسم شریف
sky (m)	آسمان
principle (m)	اُصول
generally, often; most; many	اکثر
although	اگرچہ
although	البتہ
cupboard, cabinet (f)	الماری

owl; fool; stupid (m/f)	اُلو
potato (m)	آلو
mango (m)	آم
mother (f)	اماں
test, trial, examination (m)	امتحان
America (m)	امریکہ
American	امریکی / امریکن
peace, safety (m)	امن
mother (f)	امی
rich	امیر
to come	آنا
waiting, expectation (m)	انتظار
to wait for x	x کا انتظار کرنا
arrangement (m)	انتظام
death (lit. transfer) (m)	انتقال
to die (for x to die)	x کا انتقال ہونا
inside	اندر
darkness (m)	اندھیرا
human being (m)	انسان
tears (m)	آنسو
God willing (may God will that)	إنشاء اللہ
his, her (formal)	اُن کا / اُنکا

their	اُن کا / اُنکا
eye (f)	آنکھ
English (adj.)	انگریزی
English (the language)	انگریزی
England (m)	انگلستان
English (adj.)	انگلستانی
finger (f)	اُنکلی
vagabond, wanderer (m/f)	آوارہ
voice, sound, noise (f)	آواز
above	اوپر
and	اور
more, additional	اور
offspring, children (f)	اولاد
Iran (m)	ایران
Iranian	ایرانی
once	ایک بار

ب

father (m)	بابا
father (m)	باپ
speech, word; thing (abstract); matter; affair (f)	بات
to speak, to talk, converse	بات کرنا

sister (f)	باجی
rain (f)	بارش
to rain	بارش ہونا
market, bazaar (m)	بازار
garden (m)	باغ
hair (m)	بال
absolutely, completely	بالکل
arm, embrace (f)	بانہ
cook (m)	باورچی
out, outside	باہر
to play (an instrument)	بجانا
childhood (m)	بچپن
child (m)	بچہ
fever; wrath; steam (m)	بخار
worse	بدتر
worst	بدترین
to change	بدلنا
Wednesday (m)	بدھ
bad, evil, wicked	بُرا
to be offended, to feel insulted	بُرا ماننا
Britain (m)	برطانیہ
snow/ice (f)	برف

rice w/ spicy meat or vegetables (f)	بریان
big	بڑا
grown up, elder person (m/f)	بڑا / بڑی
to cause to increase; to enlarge (transitive)	بڑھانا
to increase, to grow, to extend (intransitive)	بڑھنا
revered person, respected elder	بزرگ
enough!	بس!
without	(کے) بغیر
to call, invite	نکالنا
nightingale (f)	نبل
cat (f)	بلی
to make, to build, to create	بنانا
Bangladesh (m)	بنگلہ دیش
to be made, built, created	بنا
to play the role of x	x بننا
to cause to be built; constructed with (used with (کے) and کو)	بنوانا
elderly (adj.); elderly person (m)	بوڑھا
brave, courageous	بہادر
very	بہت
better	بہتر
best	بہترین

sister (f)	بہن
helpless	بے بس
helplessness (f)	بے بسی
daughter (f)	بیٹی
to sit	بیٹھنا
middle	بیچ
poor thing/ fellow (m/f)	بیچارہ / بیچاری
to sell	بیچنا
fed up	بیزار
scores of	پیسوں
useless, unemployed	بیکار
sick, ill (adj.); sick person (m/f)	بیمار
sickness, illness (f)	بیماری
wife (f)	بیوی

بھ.

India (m)	بھارت
heavy	بھاری
to flee, to run away from	بھاگنا
brother (m)	بھائی
ghost (m)	بھوت
hunger (f)	بھوک

to forget

بھولنا

also, too

بھی

to send

بھیجنا

crowd (f)

بھیر

پ

papad (crispy appetizers) (m)

پاپڑ

toilet, excrement, stool (m)

پاخانہ

Pakistan (m)

پاکستان

Pakistani

پاکستانی

crazy, mad, insane

پاگل

to raise, nourish; maintain; to protect

پالنا

to find

پانا

water (m)

پانی

father (m)

پتا

pants, trousers (f)

پتلون

wife (f)

پتی

address; hint, clue, trace (m)

پتا

to come to know; to find out

پتا چلنا

husband (m)

ہستی

last, past, previous; back, latter

پچھلا

on

پر

old (thing)	پُرانا
day before yesterday; day after tomorrow	پرسوں
family (m)	پر وار
worried	پریشان
distress, misery, anxiety (f)	پریشانی
Premchand - prominent author of Urdu-Hindi narrative prose, died 1936	پریم چند
studies, education (f)	پڑھائی
to study, to read	پڑھنا
pleasing (adjective); choice, preference (f)	پسند
favorite	پسندیدہ
to cook	پکانا
to catch, apprehend	پکڑنا
moment (m)	پل
bed (m)	پلنگ
fan; ventilator (m)	پنکھا
mountain, hill (m)	پہاڑ
to recognize; to know; to perceive; to discern	پہچانتنا
to reach	پہنچنا
to ask	پوچھنا
quarter less than (after whole number)	پون
love (m)	پیار

to love

پیار کرنا

onion (f)

پیاز

thirst (f)

پیس

cup (f)

پیالی

stomach (m)

پیٹ

to be born

پیدا ہونا

leg (m)

پیر

Monday (m)

پیر

money, cash, wealth; coin (m)

پیس / پیسہ

urine (m)

پیشاب

yellow

پتلا

to drink

پینا

پھ

again

پھر

yet, still

پھر بھی

see you soon (lit. we will meet again)

پھر ملینگے

fruit (m)

پھل

fruit seller (m/f)

پھل والا / پھل والی

flower (m)

پھول

to spread

پھیلنا

to throw

پھینکنا

ت

star (m)	تارا
date, history (f)	تاریخ
historical	تاریخی
so that	تاکہ
gift (m)	تحفہ
throne (m)	تخت
to sit down (formal Urdu)	تشریف رکھنا
to enter (formal Urdu)	تشریف لانا
picture, photograph (f)	تصویر
praise (f)	تعریف
to praise x	x کی تعریف کرنا
details, explanation; analysis (f)	تفصیل
speech, recital; statement (f)	تقریر
to give a speech	تقریر کرنا
until	تک
you - informal	تو
body (m)	تن
to bother	تنگ کرنا
you - least formal	تو
to break (transitive)	توڑنا

ready

تیار

to swim

تیرنا

swift, quick; hot (spicy), fiery, sharp

تیز

festival (m)

تیوہار

تھ

tiredness (f)

تھکن

some, few; scanty, little; less

تھوڑا

ٹ

piece, morsel (m)

ٹکڑا

hat (f)

ٹوپی

to break (intransitive)

ٹوٹنا

ٹھ

to wait; to stop; to stay

ٹھہرنا

cold (adjective)

ٹھنڈا

cold (noun, f)

ٹھنڈ

fine, good, exactly

ٹھیک

to become well

ٹھیک ہو جانا

ج

Japan (m)	جاپان
Japanese	جاپانی
cold (weather) (m)	جاڑا
to wake up, rise	جاگنا
life, soul; sweetheart; energy (f)	جان
to go	جانا
to know	جاننا
animal (m)	جانور
when	جب
germs (m)	جراثیم
celebration (m)	جشن
place, vacancy (f)	جگہ
gentleman, sir, mister (m)	جناب
Friday (m)	جمعہ
Thursday (f)	جمعرات
democracy (f)	جمہوریت
answer (m)	جواب
young (adj.); youth (m/f)	جوان
youthfulness, youth (f)	جوانی
shoe (m)	جوتا

pair, couple (f)

جوڑی

lie (m)

جھوٹ

to lie

جھوٹ بولنا

no, not

جی نہیں

yes

جی ہاں

to live, to be alive

جینا

life partner (m/f)

جیون ساتھی

چ

clever, cunning, sly

چالاک

moon (m)

چاند

moonlight (f)

چاندنی

rice (pl. m.)

چاول

tea (f)

چائے

shut up; be quiet

چپ رہو

to steal

چُرانا

zoo (m)

چڑیا گھر

to climb

چڑھنا

to drive

چلانا

to come along, to go along, to set out, to walk

چلنا

spoon; sycophant (colloquial) (m)

چمچہ

wound; injury (f)

چوٹ

theft (f)	چوری
thief (m)	چور
to scream, yell	چیننا
thing (f)	چیز
China (m)	چین
Chinese	چینی
sugar (f)	چینی

چ

student (Hindi) (m/f)	چھاتر
umbrella; canopy (f)	چھتری
holiday, vacation (f)	چھٹی
knife (f)	چھری
small	چھوٹا

ح

condition, state (m)	حال
condition (f)	حالت
action, deed; mischief; movement (f)	حرکت
beautiful	حسین
truth (f)	حقیقت
government (f)	حکومت

to govern

حکومت کرنا

henna (f)

ہنّا

خ

special

خاص

empty

خالی

quiet, silent

خاموش

family (m)

خاندان

news (f)

خبر

to finish, to end, conclude (transitive)

ختم کرنا

to finish, to end, conclude (intransitive)

ختم ہونا

goodbye (lit. God be your protector)

خُدا حافظ

God willing (may God will that)

خُدا کرے (کہ)

God forbid

خُدا نہ خواستہ

God forbid (may God not will that)

خُدا نہ کرے

service (f)

خدمت

bad

خراب

fault, blemish (f)

خرابی

expenditure, expense (m)

خرچ

to spend, to expend (transitive)

خرچ کرنا

to be spent, expended (intransitive)

خرچ ہونا

to buy

خریدنا

letter (m)	خط
dangerous	خطرناک
dream (m)	خواب
beautiful	خوبصورت
self (reflexive); oneself	خود
happy	خوش
happiness (f)	خوشی
blood (m)	خون
thought, idea, opinion (m)	خیال

,

grandfather (paternal)	دادا
grandmother (paternal)	دادی
lentils (f)	دال
tooth (m)	دانت
pain (m)	درد
door (m)	دروازه
river (m)	دریا
to have diarrhea	دست آنا
signature (m)	دستخط
enemy (m/f)	دشمن
invitation; feast; party (f)	دعوت

to invite x	x کو دعوت دینا
to have a party for x	x کی دعوت کرنا
office (m)	دفتر
shop, store (f)	دکان / دکان
shopkeeper/store owner	دکان والا / دکاندار
heart (m)	دل
interest (interesting) (f)	دلچسپی
bridegroom (m)	دُلہا
bride (f)	دُلہن / دُلہنیا
brain, mind, intellect (m)	دماغ
day (m)	دن
world (f)	دُنیا
medicine (f)	دوا / دوائی
afternoon (f)	دوپہر
milk (m)	دودھ
far	دُور
time (period of); period (m)	دوران
during this time/period	اِس دوران میں
friend (m/f)	دوست
friendship (f)	دوستی
second, another	دوسرا
both	دونوں

to repeat, double, fold	دُہرانا
yogurt (m)	دہی
sister (f)	دیدی
late, a long while; a long period of time, interval; lateness (f)	دیر
late	دیر سے
to delay, to be a long time, to come late	دیر کرنا
to take care of x	x کی دیکھ بھال کرنا
to see	دیکھنا
to give	دینا
wall (f)	دیوار
mad, ecstatic	دیوانہ
sunshine, heat of sun (f)	دھوپ
pomp and gusto (f)	دھوم دھام
to wash	دھونا

ڈ

mail (f)	ڈاک
post office (m)	ڈاک خانہ
doctor (m/f)	ڈاکٹر
to pour, to place, to put	ڈالنا
box (m)	ڈبہ

fear (m)

ڈر

to fear

ڈرنا

ڈھ - ذ

Dacca (m)

ڈھاکہ

little, just; please (with تم form imperatives)

ذرا

ر

night (f)

رات

king (m)

راجہ

road (m)

راستہ

pleased; contented; agreed

راضی

to agree upon x

x پر راضی ہونا

to be pleased with x

x سے راضی ہونا

melody

راگ (m) / راگنی (f)

cheeks, countenance (m)

رُخسار

juice, nectar (m)

رَس

receipt (f)

رسید

relationship / connection (m)

رشتہ

family, relatives (m)

رشتہ دار

Ramadan, Muslim holy month (m)

رمضان

to depart, to set out

روانہ ہونا

rupée (Indian/ Pakistani currency) (m)

روپیہ

bread (f)

روٹی

Russia (m)

روس

Russian

روسی

to stop, to prevent

روکنا

to cry

رونا

to stay, to live

رہنا

train (f)

ریل گاڑی

ز

cold (illness) (m)

زکام

time, age; world; fortune (m)

زمانہ

land (f)

زمین

landlord (m)

زمیندار

life (f)

زندگی

living, alive

زنده

long live

زنده باد

a lot, very much

زیادہ

س

beloved, sweetheart (m)

ساجن

whole, entire, all; the whole

سارا

half (with whole numeral)

ساڑھے

mother-in-law (f)

ساس

birthday (f)

سالگرہ

curry (m)

سالن

barrage, luggage, goods (m)

سامان

breath (f)

سانس

all

سب

vegetable (f)

سبزی

vegetarian (m/f)

سبزی خور

dream (m)

سپنا

to tease, to annoy, to torment

ستانا

true (adj.); truth (m)

سچ

to speak the truth

سچ بولنا

head (m)

سر

cold (noun, f)

سردی

cheap

ستا

father-in-law (m)

سسر

journey (m)

سفر

to make a journey, travel

سفر کرنا

white

سفید

to be able to, can

سکنا

Sikh

سیکھ

to dry

سکھانا

greetings to a Muslim (reply in parentheses)

سلام علیکم (وعلیکم سلام)
السلام علیکم (وعلیکم السلام)

to explain, to cause to understand

سمجھانا

to understand

سمجھنا

to cause to listen, to tell, to narrate

سنانا

orange (m)

سنترہ

beautiful

سندر

marble (m)

سنگِ مرمر

orange (m)

سنگترہ

to listen

سنتا

hundred

سو

one and a quarter; quarter more (after number)

سوا

question (m)

سوال

to think

سوچنا

to dry (intransitive)

سوکھنا

to sleep

سونا

girlfriend (for girls) (f)

سہیلی

from

سے

before

سے پہلے

apple (m)

سیب

stroll, walk, tour, excursion (f)

to stroll, to take a walk, to tour

hundreds of

service (f)

سیر

سیر کرنا

سیکڑوں / سینکڑوں

سیوا

ش

wedding (f)

poet (m)

vegetarian (m/f)

evening (f)

splendid, stately, grand

prince (m)

perhaps

auspicious name (m) (formal Hindi)

alcohol, wine (f)

mischievous (f)

sherbet (beverage) (m)

to be shy, reticent

ashamed, bashful, modest

to be ashamed, bashful, modest

mischievous

honorable, noble

شادی

شاعر

شاکاہاری

شام

شاندار

شاہزادہ

شاید

شمبھ نام

شراب

شرارت

شربت

شرمانا

شرمندہ

شرمندہ ہونا

شریر

شریف

to start, to begin (transitive)	شروع کرنا
to start, to begin (intransitive)	شروع ہونا
chess (f)	شطرنج
poetry; a couplet, a verse (m)	شعر
thanks (m)	شکریہ
noise, uproar, disturbance (m)	شور
hobby/ hobbies (m)	شوق
husband (m)	شوہر
town, city (m)	شہر
emperor (m)	شہنشاہ

ص

gentleman, sir, mister	صاحب
clean	صاف
morning (f)	صبح
health (f)	صحت
healthy	صحت مند
president (m/f)	صدر
only	صرف
Sufi - a Muslim mystic (m)	صوفی

ض

definitely, sure

ضرور

necessity; need (f)

ضرورت

necessity, need for x

x کی ضرورت

ط

student (m/f)

طالب علم

temperament, health (f)

طبیعت

manner, style (f)

طرح

storm (m)

طوفان

ع

habituated; accustomed

عادی

to be habituated/used to/accustomed to x

x کا عادی ہونا

lover (m)

عاشق

being a lover (f)

عاشقی

wonders (pl.)

عجائب

museum (m)

عجائب گھر

wonder (m)

عجبہ

wonderful, surprising, strange

عجیب

court (f)

عدالت

Arabic (f)

عربی

dear, precious, beloved (m/f)

عزیز

love (m)

عشق

great

عظیم

cure (m)

علاج

besides, moreover, in addition to

کے علاوہ

building (f)

عمارت

age (f)

عمر

woman (f)

عورت

festival -- Muslim (f)

عید

Christian

عیسائی

غ

poor person (m/f)

غریب

poverty (f)

غریبی

ghazal (love poem) (f)

غزل

bathroom (m)

غُسل خانہ

to bathe

غُسل کرنا

slave (m)

غلام

mistake, error (f)

غلطی

sorrow (m)

غم

sorrowful

غمناک

consideration, deep thought (m)

غور

to consider thoughtfully

غور کرنا

to take x into consideration

x پر غور کرنا

ف

leisure, free time (f)

فرصت

worry (f)

فکر

skill, art, craft (m)

فن

artist (m)

فُنکار

army (f)

فوج

to dial the phone

فون میلانا

to call x on the phone

x کو فون کرنا

decision (m)

فیصلہ

ق

capable, able, skillful

قابل

worthy of (with oblique infinitive)

کے قابل

carpet (f)

قالین

grave, tomb (f)

قبر

oath (f)

قسم

to swear by x

x کی قسم کھانا

queue, line (f)

قطار

fort (m)
 pen (m/f)
 shirt (f)
 qawwali - spiritual-mystical song recited by
 Muslim mystics (f)

قلعہ
 قلم
 قمیض
 قوالی

prison, jail (m)
 prisoner (m/f)
 price, cost (f)

قید خانہ
 قیدی
 قیمت

ک

to bite, to cut
 kohl, collyrium (m)
 would that
 enough, sufficient, adequate
 black
 work, job (m)
 to work
 successful
 success (f)
 ear (m)
 fork; thorn (m)
 when?

کاٹنا
 کاجل
 کاش
 کافی
 کالا
 کام
 کام کرنا
 کامیاب
 کامیابی
 کان
 کاٹنا
 کب؟

since when?	کب سے؟
sometimes	کبھی
occasionally; now and then	کبھی کبھی
clothes (m)	کپڑے
book (f)	کتاب
dog (m)	کُتا
how much, how many?	کیتنا / کتنے / کتنی
trash (m)	کچرا
something, anything	کچھ
nothing	کچھ نہیں
fare, rent (m)	کرایہ
chair (f)	کرسی
to do	کرنا
ten millions; crore	کروڑ
millionaire (m/f)	کروڑپتی
millions of	کروڑوں
for what reason, why?	کس لئے؟
farmer, peasant (m)	کسان
tomorrow, yesterday (m)	کل
less	کم
to reduce	کم کرنا
to be reduced	کم ہونا

room (m)

comb (f)

to comb

slave girl (f)

effort (f)

to try

who?

someone; anyone (noun, m.); some, any;

approximately (adj).

no one; nobody

that, which, who (rel. pronoun and conjunction)

where?

from where?

story (f)

to say, to speak (with سے)

to call (something a name) (with کو)

in front of, across, facing

inside

on top of

instead of

in return for x; instead of x

regarding

کمرہ

کنگھی

کنگھی کرنا

کنیز

کوشش

کوشش کرنا

کون؟

کوئی

کوئی نہیں

کہ

کہاں

کہاں سے

کہانی

کہنا

کہنا

کے آگے

کے اندر

کے اوپر

کے/کی بجائے

x کے بدلے میں

کے بارے میں

out, outside	کے باہر
after	کے بعد
without	(کے) بغیر
near	کے پاس
behind	کے پیچھے
with	کے ساتھ
in front of, across, facing	کے سامنے
near	کے قریب
for the sake of, for, in order to	کے لئے
near	کے نزدیک
under	کے نیچے
kilogram	کیلو
because of	کی وجہ سے
several; some; a few	کئی
what?	کیا؟
what sort of, what kind of, how?	کیسا / کیسی / کیسے؟
banana (m)	کیلا
why? for what reason?	کیوں؟
because	کیونکہ

ک

to eat

کھانا

food (m)

کھانا

to cough

کھانسنّا

cough (f)

کھانسی

window (f)

کھڑکی

athlete, player (m/f)

کھلاڑی

toy (m)

کھیلونا

to open

کھولنا

to lose (misplace something)

کھونا

agricultural field (m)

کھیت

to play

کھیلنا

گ

car (f)

گاڑی

to drive a car

گاڑی چلانا

song (m)

گانا

to sing

گانا

village (m)

گاؤں

cow (f)

گائے

hot

گرم

heat, hot weather (f)

گرمی

to fall down

گرنا

request (f)

گزارش

to spend time, to pass

گزارنا

filth (f)

گندگی

witness (m/f)

گواہ

meat (m)

گوشت

meat eater (m/f)

گوشت خور

meat curry (m)

گوشت کا سالن

round, circular; a circle

گول

song (m)

گیت

گھ

house (m)

گھر

clock/ watch (f)

گھڑی

hour (m)

گھنٹا

horse (m)

گھوڑا

ل

answerless, speechless; unequalled, matchless

لا جواب

hundred thousand

لاکھ

hundreds of thousands of

لاکھوں

red	لال
to bring	لانا
boy (m)	لڑکا
girl (f)	لڑکی
to fight x	لڑنا x
yogurt drink (f)	لّسی
to write	لکھنا
tall	کھبا
people, folk (m)	لوگ
lemon/ lime (m)	لیموں
to take	لینا

م

mother (f)	ماں
mother (f)	ماتا
to hit	مارنا
to be convinced, to listen, to obey	ماننا
sweets (f)	میٹھائی
helpless	مجبور
helplessness (f)	مجبوری
criminal (m)	مجرم
mosquito; insect (m)	چھر

love (f)	مُحِبَّت
to love	مُحِبَّت کرنا
lover (m)	مُحِبُّوب
hard work (f)	مُحنت
to do hard work	مُحنت کرنا
hard working	مُحنتی
help (f)	مدد
to help x	x کی مدد کرنا
joke, wit; taste (m)	مذاق
to tease, to make fun of x	x کا مذاق اُڑانا
pepper (f)	مرچ
chicken (f)	مُرغی
chicken curry (f)	مُرغی کا سالن
to die	مَرنا
disposition, health (m)	مزاج
how are you? (formal)	مزاج شریف
grave, tomb, shrine of a Sufi holy man (m)	مزار
to enjoy	مزه کرنا
delicious	مزیدار
traveller (m/f)	مُسلِّفَر
intoxicating	مُسْت
mosque (f)	مَسْجِد

to smile	مُسکراتا
Muslim	مُسلم
Muslim	مُسلماں
difficult	مُشکل
famous	مَشہور
spices (m)	مصالحہ / مسالا
busy	مصرُوف
essay, composition (m)	مضمُون
purpose, intent; motive (m)	مطلب
forgive/ excuse me	معاف کیجئے / کرو
examination (medical), investigation (m)	مُعائِنہ
to have something examined (medically)	مُعائِنہ کراتا
to know	معلوم ہونا
facts, information (f)	معلومات
Mughal - dynasty that ruled India from the 16th	مُغل
to the 19th century	
poverty (f)	مُقِلّی
useful/ profitable	مُفید
place (m) (plural)	مقام (مقامات)
mausoleum (m)	مقبرہ
house (m)	مکان
landlord (m)	مکان مالک

but, however	مگر
country (m)	ملک
to meet	ملنا
possible	ممکن
to celebrate, commemorate	منانا
appropriate	مناسب
temple (m)	مندر
Tuesday (m)	منگل
mouth, face (m)	منہ / منہ
patient (m)	مریض
fat	موٹا
season (m)	موسم
<i>Mahabharata</i> - Indian epic	مہابھارت
Maharashtra (m)	مہاراشٹر
queen, empress (f)	مہارانی
thanks (f) (lit. kindness)	مہربانی
please, kindly (with آپ forms)	مہربانی سے / مہربانی کر کے
guest (m/f)	مہمان
henna (f)	مہندی
expensive	مہنگا
sweet	میٹھا
my	میرا

Mirabai - a 16th century poetess famous for her

devotional songs to the Hindu deity Krishna

table (f)

minaret (m)

I

in

میرا بانی

میز

مینار

میں

میں

ن

to dance

angry; displeased; upset

to be/ become angry; upset

nose (f)

name (m)

grandfather (maternal)

grandmother (maternal)

narcissus (f)

near

flu (m)

sign, momento, souvenir (m/f)

song (m)

to come out, to arise; to depart

Muslim ritual prayers (f)

ناچنا

ناراض

ناراض ہونا

ناک

نام

نانا

نانی

نرگس

نزدیک

نزلہ

نشان / نشانی

نغمہ

نکلنا

نماز

to recite namaz

نماز پڑھنا

lemon/ lime (m)

نمبو

salt (m)

نمک

servant (m)

نوکر

job, work (f)

نوکری

to bathe

نہانا

no, not

نہیں

blue

نیلا

و

to return, come back

واپس آنا

to go back, return

واپس جانا

father (m)

والد

mother (f)

والدہ

parents (m)

والدین

reason (f)

وجہ

to work out, to exercise

ورزش کرنا

otherwise

ورنہ

weight (m)

وزن

minister (government) (m)

وزیر

prime minister (m/f)

وزیراعظم

homeland (m)

وطن

time (m)	وقت
lawyer, agent (m/f)	وکیل
that, those	وہ
they	وہ / یہ
he/ she	وہ / یہ
there	وہاں

ہ

hand (m)	ہاتھ
to lose (a battle, contest, game, etc.)	ہارنا
every	ہر
every day	ہر دن
every day	ہر روز
every year	ہر سال
every month	ہر مہینہ
every week	ہر ہفتہ
thousand	ہزار
thousands of	ہزاروں
hospital (m)	ہسپتال
Saturday; week (m)	ہفتہ
plow (m)	ہل
we (polite form: I)	ہم

Hindu	ہندو
India (m)	ہندوستان
Indian	ہندوستانی
to cause to laugh	ہنسانا
to laugh	ہنسا
air, wind (f)	ہوا
aerial	ہوائی
airport (m)	ہوائی اڈا
air pollution (f)	ہوائی آلودگی
airplane (m)	ہوائی جہاز
intelligent, clever	ہوشیار

ی

or	یا
memory, remembrance (f)	یاد
to remember	یاد کرنا / یاد آنا
for x to remember	x کو یاد آنا
that is to say, i.e.	یعنی
university (f)	یونیورسٹی
this, these	یہ
here	یہاں
Jew	یہودی

English-Urdu Glossary

A

able	قابل
to be able to; can (always preceded by stem of another verb)	سکنا
above	اوپر
absolutely, completely	بالکل
action (f)	حرکت
actor (m)	اداکار
actress (f)	اداکارہ
in addition to	کے علاوہ
additional (more)	اور
address (m)	پتا
aerial	ہوائی
affair (f)	بات
to be affronted	برا ماننا
after	کے بعد
afternoon (f)	دوپہر
again, then	پھر
age (f)	عمر
agent (m/f)	وکیل
to agree upon x	x پر راضی ہونا
agricultural field (m)	کھیت

air (f)	ہوا
air pollution (f)	ہوائی آلودگی
airplane (m)	ہوائی جہاز
airport (m)	ہوائی اڈا
alive	زنده
all	سب
all (whole)	سارا
also, too	بھی
although	اگرچہ / البتہ
America (m)	امریکہ
American	امریکی / امریکن
and	اور
angry	ناراض
to be/ become angry	ناراض ہونا
animal (m)	جانور
to annoy	ستانا
another	دوسرا
answer (m)	جواب
any (adj.)	کوئی
anyone/someone	کوئی
anything	کچھ
apple (m)	سیب

appropriate; suitable	مناسب
approximately	تقریباً / کوئی
Arabic (f)	عربی
arm, embrace (f)	بانہ
army (f)	فوج
arrangement (m)	انتظام
art (m)	فن
artist	فیکار (m) / فیکارہ (f)
ashamed	شرمندہ
to be ashamed	شرمندہ ہونا
ask	پوچھنا
athlete/player (m/f)	کھلاڑی

B

bad, evil	بُرا
to feel bad, to feel insulted	بُرا ماننا
bad (rotten)	خراب
baggage (m)	سامان
banana (m)	کیلا
Bangladesh (m)	بنگلہ دیش
bashful	شرمندہ
to be bashful	شرمندہ ہونا

to bathe	غُسل کرنا / نہانا
beautiful	سُندر / خوبصورت / حسین
because	کیونکہ
because of	کی وجہ سے
bed (m)	پلنگ
before	سے پہلے
to begin (transitive)	شروع کرنا
to begin (intransitive)	شروع ہونا
behind	کے پیچھے
to believe	ماننا
beloved, sweetheart (m)	ساجن
besides	کے علاوہ
best	بہترین
better	بہتر
big	بڑا
birthday (f)	سالگرہ
to bite; to cut	کاٹنا
black	کالا
blood (m)	خون
blue	نیلا
body (m)	تن
book (f)	کتاب

to be born	پیدا ہونا
both	دونوں
to bother	تنگ کرنا
box (m)	ڈبہ
boy (m)	لڑکا
brain (m)	دماغ
brave	بہادر
bread (f)	روٹی
to break (intransitive)	ٹوٹنا
to break (transitive)	توڑنا
breath (m)	سانس
bride (f)	دُلہن / دُلہنیا
bridegroom (m)	دُلہا
to bring	لانا
Britain (m)	برطانیہ
brother (m)	بھائی
building (f/m)	عمارت / مکان
to be built (intransitive)	بننا
to build (transitive)	بنانا
to cause to be built	بنوانا
to have x built	x کو بنوانا
busy	مصرف

but, however

to buy

by, till

لیکن / مگر

خریدنا

تک

C

cabinet (f)

capable

to call (something a name; use with کو)

to call x on the phone

to call / invite

car (f)

carpet (f)

cat (f)

to catch, apprehend

to celebrate, commemorate

celebration (m)

chair (f)

to change

cheap

cheeks; face (m)

chess (f)

chicken (f)

الماری

قابل

کہنا

x کو فون کرنا

تلاش

گاڑی

قالین

بلی

پکڑنا

منانا

جشن

کرسی

بدلنا

ستا

رخسار

شطرنج

مرغی

chicken curry (m)	مرغی کا سالن
child (m)	بچہ
childhood (m)	بچپن
children (f)	اولاد
China (m)	چین
Chinese	چینی
Christian	عیسائی
city (m)	شہر
clean	صاف
clever	چالاک
to climb	چڑھنا
clock / watch (f)	گھڑی
clothes (m)	کپڑے
clue (m)	پتا
cold (adjective)	ٹھنڈا
cold (noun, f)	سردی / ٹھنڈ
cold (weather; winter)	سردی (f) / جاڑا (m)
cold (illness) (m)	زکام
comb (f)	سنگھی
to comb	سنگھی کرنا
to come	آنا
to come along, to go along with, to walk	چلنا

to come back	واپس آنا
to come down, to descend	اُترنا
to come to know, to find out	پتا چلنا
to come out, to depart, to set out	نکلنا
condition (f)	حالت
condition, state (m)	حال
consideration; careful thought (m)	غور
to consider thoughtfully	غور کرنا
to take x into consideration	x پر غور کرنا
to construct	بنانا
to cause to be constructed	بنوانا
to have x constructed	x کو بنوانا
to be convinced, to obey, to believe	ماننا
cook (m)	باورچی
to cook	پکانا
cost (f)	قیمت
cough (f)	کھانسی
to cough	کھاننا
country (m)	ملک
couple, pair (f)	جوڑی
a couplet (of poetry, m)	شعر
courageous	بہادر

court (f)	عدالت
cow (f)	گائے
craft (m)	فن
crazy, mad, insane	پاگل
criminal (m)	مجرم
crowd (f)	بھیڑ
to cry	رونا
cunning	چالاک
cup (f)	پیالی
cupboard (f)	الماری
cure (m)	علاج
curry (m)	سالن
to cut; to bite	کاٹنا

D

Dacca (m)	ڈھاکہ
to dance	ناچنا
danger (m)	خطرہ
dangerous	خطرناک
darkness (m)	اندھیرا
date; history (f)	تاریخ
daughter (f)	بٹی

day (m)	روز / دن
day before yesterday; day after tomorrow	پرسوں
dear, precious, beloved	عزیز
death (lit. transfer) (m)	انتقال
to die (for x to die)	x کا انتقال ہونا
decision (m)	فیصلہ
deed (f)	حرکت
definitely, sure	ضرور
to delay, to be a long time	دیر کرنا
delicious	مزیدار
democracy (f)	جمہوریت
to depart, to set out	روانہ ہونا
to descend	اُترنا
details, particulars; explanation; analysis (f)	تفصیل
to dial the phone	فون ملانا
diarrhea (m)	دست
to have diarrhea	دست آنا
to die	مرنا
difficult	مشکل
to discern; to recognize	پہچاننا
disposition, health (m)	مزاج
how are you? (formal)	مزاج شریف

distress, misery, anxiety (f)	پریشانی
to do	کرنا
doctor (m/f)	ڈاکٹر
dog (m)	سگ
door (m)	دروازہ
to double; to repeat	دہرانا
dream (m)	خواب / پنا
to drink	پینا
to drive	چلانا
to drive a car	گاڑی چلانا
to dry (transitive)	سکھانا
to dry (intransitive)	سوکھانا

E

ear (m)	کان
to eat	کھانا
effort (f)	کوشش
to try	کوشش کرنا
elderly (adj.); elderly person (m)	بڑھا
to be embarrassed	شرمندہ ہونا
emperor (m)	شہنشاہ
empress (f)	مہارانی

empty	خالی
to end, conclude (transitive)	ختم کرنا
to end, conclude (intransitive)	ختم ہونا
enemy (m/f)	دشمن
England (m)	انگلستان
English (adj.)	انگریزی / انگلستانی
English (nationality)	انگریز
English (the language)	انگریزی
to enjoy	مزه کرنا
to enlarge, to expand, to cause to spread (transitive)	بڑھانا
to increase; to grow; to spread (intransitive)	بڑھنا
enough!	بس!
enough (sufficient); a lot	کافی
to enter (formal Urdu)	تشریف لانا
entire	سارا
essay / composition (m)	مضمون
evening (f)	شام
every	ہر
every day (m)	ہر روز / ہر دن
every month (m)	ہر مہینہ
every week (m); every Saturday	ہر ہفتہ

every year (m)

ہر سال

evil, bad

بُرا

exactly

ٹھیک

examination (test) (m)

امتحان

examination / investigation (medical, m)

مُعائِنہ

to have something examined (medically)

مُعائِنہ کرانا

excrement (m)

پاخانہ

to exercise

ورزش کرنا

expenditure, expense (m)

خرچ

to expend, to spend (transitive)

خرچ کرنا

to be expended, to be spent (intransitive)

خرچ ہونا

expensive

مہنگا

to explain, to cause to understand

سمجھانا

to extend (intransitive)

بڑھنا

to extend, to expand (transitive) (causative)

بڑھانا

eye (f)

آنکھ

F

face (m)

مُنہ / مُنہ

facts (f)

معلومات

to fall down

گرنا

family (m)

پروار / خاندان

famous	مشہور
fan; ventilator (m)	پنکھا
far	دُور
fare; rent (m)	کرایہ
farmer (m)	کسان
fast, quick	تیز
fat	موٹا
father (m)	والد / ابا / پپا / باپ / بابا
father-in-law (m)	سسر
fault, blemish (f)	خرابی
favorite	پسندیدہ
fear (m)	ڈر
to fear	ڈرنا
feast; party (f)	دعوت
fed up	بیزار
festival	تہوار / تیوہار (m) / عید (f)
fever (m)	بخار
few	تھوڑا
to fight	لڑنا
to fight x	x سے لڑنا
filth (f)	گندگی
to find	پانا

to find out	پتا چلنا
fine	ٹھیک
finger (f)	انگلی
to finish	ختم کرنا
to flee	بھاگنا
flower (m)	مُھول
flu (m)	نزله (فلو)
to fly	اُڑنا
to cause to fly	اُڑانا
food (m)	کھانا
fool (m)	اُلُو
for the sake of, for, in order to	کے لئے
to forget	بھولنا
forgive / excuse me	معاف کیجئے / معاف کرو
fork; thorn (m)	کانٹا
fort (m)	قلعہ
freedom (f)	آزادی
free time (f)	فرصت
Friday (m)	جمعہ
friend (m/f)	دوست
friendship (f)	دوستی
from	سے

from where

کہاں سے

fruit (m)

پھل

fruitseller (m/f)

پھل والا / پھل والی

G

garden (m)

باغ

generally

اکثر

gentleman, sir, mister (m)

جناب / صاحب

germs (m)

جراثیم

to get, to obtain

(کو) ملنا (with)

ghazal (love poem) (f)

غزل

ghost (m)

بھوت

gift (m)

ٹحفہ

girl (f)

لڑکی

girlfriend (for girls) (f)

سہیلی

to give

دینا

give permission to leave (got to run)

اجازت دیجئے

to go

جانا

to go back

واپس جانا

God forbid (May God not will that)

خُدا نہ کرے (کہ) / خُدا نہ خواستہ

God willing (May God will that)

إنشاء اللہ / خُدا کرے (کہ)

good

اچھا

goodbye (lit, God be your protector)

خدا حافظ

goods, luggage (m)

سامان

government (f)

حکومت

to govern

حکومت کرنا

grand

شاندار

grandfather (maternal)

نانا

grandfather (paternal)

دادا

grandmother (maternal)

نانی

grandmother (paternal)

دادی

grave (f)

قبر

grave, tomb, shrine of a Sufi holy man (m)

مزار

great

اعظم / عظیم

greetings, hello, hi

آداب / آداب عرض / نمستے

"Peace on you" [to a Muslim] (reply in

سلام علیکم (وعلیکم سلام)

parentheses)

السلام علیکم (وعلیکم السلام)

grown up, elder person (m/f)

بڑا / بڑی

guest (m/f)

مہمان

H

habituated; accustomed

عادی

to be habituated/used to/accustomed to x

x کا عادی ہونا

hair (m)

بال

half	آدھا / آدھ
half (with whole numeral)	ساڑھے
hand (m)	ہاتھ
happiness (f)	خوشی
happy	خوش
hard work (f)	محنت
to work hard	محنت کرنا
hard working	مختی
hat (f)	ٹوپی
he / she	وہ / یہ
head (m)	سر
health (f)	صحت / طبیعت
healthy	صحت مند
heart (m)	دل
heat, hot weather (f)	گرمی
heavy	بھاری
help (f)	مدد
to help	مدد کرنا
to help x	x کی مدد کرنا
helpless	بے بس / مجبور
helplessness (f)	بے بسی / مجبوری
henna (f)	جنا / مہندی

here	یہاں
here (in this direction; hither)	ادھر
hill; mountain (m)	پہاڑ
Hindu	ہندو
Hindu devotional hymn (m)	بھجن
hint, clue, trace; address (m)	پتا
his / her (informal)	اُس کا / اُسکا
his / her (formal)	اُن کا / اُنکا
history; date (f)	تاریخ
historical	تاریخی
to hit	مارنا
hobby / hobbies (m)	شوق
holiday, vacation (f)	چھٹی
homeland (m)	وطن
horse (m)	گھوڑا
hospital (m)	ہسپتال
hot	گرم
hot (spicy)	تیز
hour (m)	گھنٹا
house (m)	مکان / گھر
how much / how many?	کتنا / کتنی / کتنے
human being (m)	انسان

human being, man, person (m)

hundreds of

hundreds of thousands of

hunger (f)

husband (m)

آدمی
سیکڑوں / سینکڑوں
لاکھوں
بھوک
شوہر / پتی

I

I

if

if only /would that

in

in front of, across, facing

in return for x

to increase (intransitive)

to increase (transitive)

independence (f)

India (m)

Indian

information (f)

injury; wound (f)

inside

inside of

میں
اگر
کاش
میں
کے سامنے / کے آگے
کی / کے بجائے
بڑھنا
بڑھانا
آزادی
بھارت / ہندوستان
ہندوستانی
معلومات
چوٹ
اندر
کے اندر

instead of	کی بجائے
to feel insulted / hurt	بُرا ماننا
intellect (m)	دماغ
intelligent, clever	ہوشیار
intent; meaning (m)	مطلب
intention (m)	إرادہ
interest (f)	دلچسپی
interesting	دلچسپ
intoxicating	مست
investigation (m)	مُعاتینہ
invitation (f) (also party)	دعوت
to invite x	x کو دعوت دینا
Iran (m)	ایران
Iranian	ایرانی

J

jail (m)	قید خانہ
Japan (m)	جاپان
Japanese	جاپانی
Jew	یہودی
job / work (m)	کام (m) / نوکری (f)
joke (m)	مذاق

to tease; to make fun of x	x کا مذاق اڑانا
journey (m)	سفر
to make a journey	سفر کرنا
juice (m)	رس

K

king (m)	راجہ
knife (f)	چھری
to know	جاننا
to know (facts)	پتا ہونا / معلوم ہونا
to know (skills)	x (کو) آنا
to know; to recognize	پہچاننا
to come to know; to find out	پتا چلنا
kohl, collyrium (m)	کاجل

L

land (f)	زمین
landlord (m)	زمیندار / مکان مالک
last, past, previous, back, latter	پچھلا
late (adj); a long time; interval (f)	دیر
late (adv)	دیر سے
to be late	دیر ہونا
to come late	دیر سے آنا

lateness (f)	دیری
to laugh	ہنسنا
to cause to laugh	ہسانا
lawyer (m/f)	وکیل
leg (m)	پیر
leisure (f)	فرصت
lemon, lime (m)	نمبو / لیٹو
lentils (f)	دال
less	کم
less	تھوڑا
letter (m)	خط
lie (f)	جھوٹ
to lie	جھوٹ بولنا
life	جیون (m) / زندگی (f)
life, soul, sweetheart, energy (f)	جان
life, lifetime; age (f)	عمر
life partner (m/f)	جیون ساتھی
line (queue) (f)	قطار
to listen	سننا
to cause or make listen	سنانا
little	تھوڑا
to live, to be alive	جینا

to live, to stay	رہنا
living	زَندہ
long live	زَندہ باد
a long while, a long period of time; late (f)	دیر
to lose (misplace something)	کھوٹا
to lose (a battle, contest, game)	ہارنا
a lot, very much	زیادہ
love	پیار (m) / محبت (f) / عشق (m)
to love	پیار کرنا / محبت کرنا
lover	محبوب (m) / محبوبہ (f)
lover (m)	عاشق
being a lover (f)	عاشقی
luggage (m)	سامان

M

mad, ecstatic	دیوانہ
to be made, built, created	بننا
<i>Mahabharata</i> - a famous Indian epic	مہابھارت
Maharashtra (m)	مہاراشٹرہ
mail (f)	ڈاک
to maintain	پالنا
to make, to build, to create	بنانا

mango (m)	آم
manner (f)	طرح
marble (m)	سنگِ مرمر
market, bazaar (m)	بازار
matter; affair (f)	بات
mausoleum (m)	مقبرہ
meaning (m)	مطلب
meat (m)	گوشت
meat curry (m)	گوشت کا سالن
meat eater (m/f)	گوشت خور
medicine (f)	دوا / دوائی
to meet	(with سے) ملنا
melody	راگ (m) / راگنی (f)
memento, souvenir	نشان (m) / نشانی (f)
memory, remembrance (f)	یاد
to remember x	x کی یاد آنا / x کو یاد کرنا
middle	بیچ
milk (m)	دودھ
millionaire (m/f)	کروڑپتی
millions of	کروڑوں
minaret (m)	مینار
mind (m)	دماغ

minister (government) (m/f)	وزیر
Mirabai - a 16th century poetess famous for her devotional songs to the Hindu deity Krishna	میرا بائی
mischief (f)	حرکت
mischief (f)	شرارت
mischievous	شریر
mistake (f)	غلطی
to mock	نذاق اڑانا
moment (m)	پل
Monday (m)	پیر
money; cash; wealth; coin (m)	پیسہ / پیسا
moon (m)	چاند
moonlight (f)	چاندنی
more	زیادہ
more, additional	اور
moreover	کے علاوہ
morning (f)	صبح
mosque (f)	مسجد
mosquito (m)	تھڑ
most	اکثر
mother	والدہ / اماں / امی / ماں / ماما
mother-in-law	ساس

motive (m)

مطلب

mountain (m)

پہاڑ

mouth (m)

منہ / منہ

movement (f)

حرکت

Mughal - dynasty that ruled India from the 16th

مغل

to the 19th century

museum (m)

عجائب گھر

Muslim

مسلم / مسلمان

Muslim ritual prayer (f)

نماز

my

میرا

N

name (m)

نام

noble name (formal Urdu) (m)

اسم شریف

auspicious name (formal Hindi) (m)

خوش نام

narcissus; Nargis (f)

نرگس

to narrate

سنانا

near

کے قریب / کے نزدیک / کے پاس

near

نزدیک

necessity; need (f)

ضرورت

necessity, need for x

x کی ضرورت

nectar /juice (m)

رَس

news (f)	خبر
newspaper (m)	اخبار
night (f)	رات
nightingale (f)	مبلبل
no, not	جی نہیں، نہیں
noble, honorable	شریف
nobody	کوئی نہیں
noise (f)	آواز
noise, uproar, disturbance (m)	شور
nose (f)	ناک
nothing	کچھ نہیں
now	اب
now and then	کبھی کبھی

O

oath (f)	قسم
to obey	مانا
occasionally	کبھی کبھی
office (m)	دفتر
offspring (f)	اولاد
often	اکثر
old (thing)	پُرانا

on	پر
on top of	کے اوپر
once	ایک بار
oneself	خود
onion (f)	پیاز
only	صرف
to open	کھولنا
or	یا
orange (m)	سنترا (سنگترہ)
otherwise	ورنہ
our (also mine)	ہمارا
out, outside	باہر / کے باہر
owl (m)	اٹو

P

pain (m)	درد
pair, couple (f)	جوڑی
Pakistan (m)	پاکستان
Pakistani	پاکستانی
pants, trousers (f)	پتلون
papad (crispy appetizers) (m)	پاپڑ
parents (m)	والدین

party (f) (also invitation)

to have a party for x

to pass, to spend time

patient (m)

to pay

peace, safety (m)

peasant (m)

pen (m/f)

people, folk (m)

pepper (f)

to perceive

to perform; to accomplish; to pay

perhaps

permission (f)

to pick up, to lift

pickles (hot) (m)

picture, photograph (f)

piece, morsel (m)

place, station (m)

place, vacancy (f)

to place, to put

to play

دعوت

x کی دعوت کرنا

گزارنا

بیمار / مریض

ادا کرنا

امن

کسان

قلم

لوگ

مرچ

پہچاننا

ادا کرنا

شاید

اجازت

اٹھانا

اچار

تصویر

ٹکڑا

مقام

جگہ

ڈالنا

کھیلنا

to play (an instrument)

بجانا

to play the role of x

x بننا

please, kindly (with آپ forms)

مہربانی سے / مہربانی کر کے

please, kindly (with تم forms)

ذرا

pleased, contented; agreed

راضی

to be pleased with x

x سے راضی ہونا

pleasing (subject marked by کو) (adjective)

پسند

choice, selection (f) (noun)

plow (m)

ہل

poet (m)

شاعر

poetry (m)

شعر

pomp and gusto (f)

دھوم دھام

poor fellow (m)

بیچارہ

poor person (m)

غریب

possible

ممکن

post office (m)

ڈاک خانہ

potato (m)

آلو

to pour

ڈالنا

poverty (f)

غریبی / مفلسی

praise (f)

تعریف

to praise x

x کی تعریف کرنا

Premchand - prominent author of Urdu-Hindi

پریم چند

narrative prose, died 1936

president (m/f)

صدر

to prevent

روکنا

price (f)

قیمت

prime minister (m/f)

وزیراعظم

prince (m)

شاہزادہ

principle (m)

اُصول

prison (m)

قیدخانہ

profitable

مفید

to protect

پالنا

purpose (m)

مطلب

to put

ڈالنا

Q

qawwali - spiritual-mystical song recited by

قوالی

Muslim mystics in South Asia (f)

queen (f)

رانی / مہارانی

question (m)

سوال

queue (f)

قطار

quick; fast

تیز

quiet

خاموش

R

rain (f)	بارش
to rain	بارش ہونا
to raise, nourish	پالنا
Ramadan, Muslim holy month (m)	رمضان
to reach	پہنچنا
ready	تیار
reason (f)	وجہ
receipt (f)	رسید
to recite namaz (Muslim ritual prayer)	نماز پڑھنا
to recognize	پہچاننا
red	لال
to reduce	کم کرنا
to be reduced	کم ہونا
regarding	کے بارے میں
relationship / connection (m)	رشتہ
relatives (family) (m)	رشتہ دار
to remember	یاد کرنا / یاد آنا
to remember x	x کو یاد کرنا / x کی یاد آنا
to repeat	دہرانا
request (f)	گزارش

respected elder	بُزرگ
rest (m)	آرام
to rest	آرام کرنا
to return	واپس جانا
in return for x / instead of x	x کے بدلے میں
revered person	بُزرگ
rice (m, pl.)	چاول
rice w/ meat or vegetable (f)	بریانی
rich	امیر
to rise	اُٹھنا / جاگنا
river (m)	دریا
road (m)	رستہ / راستہ
room (m)	کمرہ
round, circular, a circle (m)	گول
to run away from	بھاگنا
rupee (Indian/Pakistani currency) (m)	روپیہ
Russia (m)	رُوس
Russian	رُوسی

S

salt (m)	نمک
Saturday; week (m)	ہفتہ
to say, to speak	کہنا
scanty	تھوڑا
scores of	پیسوں
to scream, yell	چیخنا
season (m)	موسم
second, another	دوسرا
to see	دیکھنا
see you soon (lit. we will meet again)	پھر ملیں گے
self (reflexive)	خود
to sell	بیچنا
to send	بھیجنا
servant (m)	نوکر
service (f)	خدمت / سیوا
several; some; a few	کئی
sharp	تیز
sherbat (beverage) (m)	شربت
shirt (f)	قمیض
shoe (m)	جوتا

shop, store (f)	دُکان / دؤکان
shopkeeper/store owner	دُکان والا / دُکان دار
shut up, be quiet	چپ رہو
to be shy, reticent	شرمندہ ہونا / شرمانا
sick, ill (adj.), sick person (m/f)	بیمار
sickness, illness (f)	بیماری
sign, memento, souvenir	نشان (m) / نشانی (f)
signature (m)	دستخط
Sikh	سکھ
silent	خاموش
since when	کب سے
to sing	گانا
sister (f)	بہن
sister (f)	دیدی / باجی / آپا
to sit	بیٹھنا
skill (m)	فَن
skillful	قابل
sky (m)	آسمان
slave (m)	غلام
slave girl (f)	کنیز
to sleep	سونا
sly	چالاک

small	چھوٹا
to smile	مُسکراتا
snow, ice (f)	برف
so that	تاکہ
some; little; few	تھوڑا
some; any (adj.)	کوئی
someone/somebody	کوئی
something	کچھ
sometimes	کبھی
song (m)	گیت / گانا / نغمہ
sorrow (m)	غم
sorrowful	غمناک
sound (f)	آواز
souvenir (m)	نشان
to speak, to talk, converse	بات کرنا
special	خاص
speech	بات
speech (f)	تقریر
to give a speech	تقریر کرنا
to spend time	گزارنا
spices (m)	مصالحہ / مسالا
spicy hot	تیز

splendid	شاندار
spoon/also sycophant (m)	چمچہ
to spread	پھیلنا
star (m)	تارا
to start, to begin (transitive)	شروع کرنا
to start, to begin (intransitive)	شروع ہونا
stately	شاندار
statement; speech, recital (f)	تقریر
to stay, to live	رہنا
to stay awake	جاگنا
to steal	چرانہ
stomach (m)	پیٹ
stool (excrement) (m)	پاخانہ
to stop; to prevent	روکنا
to stop, to wait; to stay	ٹھہرنا
storm (m)	طوفان
story (f)	کہانی
strange	عجیب
stroll, walk, tour, excursion (f)	سیر
to stroll, to take a walk, to tour	سیر کرنا
student (m/f)	طالب علم / اسٹوڈنٹ / چھاتر (ہندی)
studies, education (f)	پڑھائی

to study, read	پڑھنا
stupid (m)	اُٹو
style (f)	طرح
success (f)	کامیابی
successful	کامیاب
Sufi - a Muslim mystic (m)	صوفی
sugar (f)	چینی
suitable	مناسب
Sunday (m)	اتوار
sunshine, heat of sun (f)	دھوپ
surprising, strange, wonderful	عجیب
to swear by x	x کی قسم کھانا
sweet (adjective)	میٹھا
sweets (f)	میٹھائی
swift, quick, hot (spicy), sharp	تیز
to swim	تیرنا
sycophant (colloquial) (literally, spoon) (m)	چمچہ

T

table (f)	میز
to take	لینا
to take someone	لے جانا

to take care of x

x کی دیکھ بھال کرنا

to take out, remove

نکالنا

tall

لمبا

tea (f)

چائے

tears (m)

آنسو

to tease

ستانا / مذاق اڑانا

tooth (m)

دانت

to tell (to narrate)

سنانا

to tell, say (use with سے)

کہنا

temperament (f)

طبیعت

temple (m)

مندر

test, trial; examination (m)

امتحان

thanks (lit. kindness) (f)

مہربانی

thanks (m)

شکریہ

that, those

وہ

that, which, who (rel. pronoun and conjunction)

کہ

that is to say, i.e.

یعنی

theft (f)

چوری

their

اُن کا / اُنکا

there

وہاں

there (in that direction; thither)

اُدھر

therefore

اس لئے

these days, nowadays	آج کل
they	وہ / یہ
thief (m)	چور
thing (concrete) (f)	چیز
thing, matter (abstract) (f)	بات
to think	سوچنا
thirst (f)	پِاس
this, these	یہ
this much	اِتنا
thorn; fork (m)	کائنا
thought; idea, opinion (m)	خیال
thousands of	ہزاروں
throne (m)	تخت
to throw	پھینکنا
Thursday (f)	جمعرات
till	تک
time (m)	وقت
time, age, world, fortune (m)	زمانہ
time (period of); period (m)	دوران
during this time/period	اس دوران میں
tiredness (f)	تھکن
today (m)	آج

toilet (m)	پاخانہ
tomb (f)	قبر
tomorrow; yesterday (m)	کل
to torment	ستانا
to tour	سیر کرنا
town (m)	شہر
toy (m)	کھلونا
trash (m)	کچرا
to travel	سفر کرنا
traveler (m/f)	مسافر
true (adj.); truth (m)	سچ
to speak the truth	سچ بولنا
truth (f)	حقیقت
Tuesday (m)	منگل

U

umbrella; canopy (f)	چھتری
under	کے نیچے
to understand	سمجھنا
unemployed	بیکار
university (f)	یونیورسٹی
until	تک

upset, displeased, unhappy

ناراض

to be / become upset, displeased etc.

ناراض ہونا

urine (m)

پیشاب

use, employment (m)

استعمال

to use

استعمال کرنا

to use x

x کا استعمال کرنا

to be used to/ habituated/accustomed to x

x کا عادی ہونا

useful

مفید

useless

بیکار

V

vagabond, wanderer (m/f)

آوارہ

vegetable (f)

سبزی

vegetarian (m/f)

سبزی خور

vegetarian

شاکاہاری

verse (of poetry) (m)

شعر

very

بہت

village (m)

گاؤں

voice (f)

آواز

W

to wait, to stop; to stay

ٹھہرنا

waiting, expecting (m)

انتظار

to wait for x
to wake up
to walk
wall (f)
to wash
water (m)
we
wedding (f)
Wednesday (m)
weight (m)
well, fine, okay
to become well
what?
for what reason, why?
what sort of, what kind of, how?
when?
when
where?
where (in which direction)?
where
which
which one?

x کا انتظار کرنا
اُٹھنا / جاگنا
چلنا
دیوار
دھونا
پانی
ہم
شادی
بدھ
وزن
ٹھیک
ٹھیک ہو جانا
کیا؟
کس لئے؟
کیسا / کیسی / کیسے؟
کب؟
جب
کہاں؟
کدھر؟
جہاں / جدھر
جو
کونسا / کونے / کونسی

white	سفید
who?	کون؟
whole	سارا
why?	کیوں؟
wicked	بُرا
wife (f)	پتی / بیوی
wind (f)	ہوا
window (f)	کھڑکی
wine, alcohol (f)	شراب
wit, joke (m)	مذاق
to make fun of, to tease	مذاق اڑانا
with (instrumental); from	سے
with (in the company of)	کے ساتھ
without	(کے) بغیر
witness (m/f)	گواہ
woman (f)	عورت
wonder (m)	عجبہ
wonderful	عجیب
wonders (pl. m)	عجائب
word (f)	بات
work (m)	کام
to work	کام کرنا

to work out (to exercise)	ورزش کرنا
world (f)	دُنیا
worried	پریشان
worry (f)	فکر
worse	بدتر
worst	بدترین
worthy of (use with oblique infinitive)	کے قابل
would that/if only	کاش
wound (f)	چوٹ
to write	لکھنا

Y

year (m)	سال
yellow	پیلا
yes	جی ہاں / ہاں
yet, still	پھر بھی
yogurt (m)	دہی
yogurt drink (lassi) (f)	لسی
you (least formal)	تُو
you (informal)	تھم
you (formal)	آپ
young (adj.); youth (m/f)	جوان

youthfulness (f)

جوانی

your (least formal)

تیرا

your (informal)

تمہارا

your (formal)

آپ کا / آپکا

Z

zoo (m)

چڑیا گھر